

Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag

Hadits Tentang Dzikir



HADIS TENTANG ZIKIR

Copyright@Dr. Tasmin Tanggareng, M.Ag

Diterbitkan Pertama Kali dalam Bahasa Indonesia oleh penerbit carabaca
Cetakan I , Maret 2018

Editor : Yusran
Penata Letak : Muhammad Ridha
Sampul : Zul Chaedir

Perpustakaan Nasional, Katalog dalam terbitan (KDT)

Hadis Tentang Zikir

vi + 590 halaman; 15 cm x 23 cm

ISBN :978-602-1175-52-1

Penerbit:

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca Makassar

Alamat: Jl. Mustafa Dg. Bunga No. 3A Kompleks Griya Samata Permai

Telp: 081241404323

Email: lari_larija@yahoo.co.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak seluruh dan sebagian

Isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Dicetak oleh percetakan carabaca

Alamat: Jl. Mustafa Dg. Bunga No. 3A Kompleks Griya Samata Permai

Telp: 081241404323

Email: lari_larija@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR PENULIS

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين
وعلي آله وأصحابه أجمعين

Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan Anugrah-Nya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Dengan itu, terutama penulis dapat menghadirkan tulisan sederhana ini di hadapan para pembaca sekalian. Oleh karena itu, shalawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah saw., yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang.

Kemudian dari pada itu penulis haturkan banyak terimah kasih kepada kedua orang tua dan keluarga besar, dengan dukungan dan doa mereka penulis terbantu untuk menghidupkan semangat dalam setiap kesempatan untuk merekam kepehaman dalam bentuk tulisan sederhana.

Buku ini di susun karena suatu hasrat agar apa yang penulis diberi kepehaman dari sumber hikmah dapat sedikit demi sedikit menjadi mendalam pada kepehaman diri. Tentunya pendalaman yang dimaksud dengan respon dari para pembaca sekalian melalui musyawarah, terutama dari mahasiswa yang penulis niatkan menjadi pembaca tetap. Selain itu, materi ini yaitu “Hadis Kesehatan dan Lingkung Hidup”, sangat urgen untuk dibukukan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa program studi ilmu hadis pada fakultas ushuluddin filsafat dan politik UIN Alauddin Makassar, sebagai bekal untuk mata kuliah kajian hadis selanjutnya.

Adapun buku ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi bagi mahasiswa jurusan ilmu hadis pada khususnya, dan mahasiswa UIN Alauddin serta pemabac pada umumnya. dan menjadi bahan bacaan serta menjadi pedoman dalam memahami dan mengamalkan petunjuk-petunjuk hadis Nabi saw., Selain itu, kajian hadis dalam rangka peningkatan kualitas keimanan kepada Allah swt.

Buku ini merupakan perwujudan dari optimalisasi kemampuan dan kerja keras penulis, namun penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak

terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Untuk itu, patut kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya, semoga Allah swt., membalas jasa-jasanya dan melipat gandakan pahala di sisi Allah swt.

Sebelum mengakhiri pengantar ini, tentunya banyak pihak yang turut andil dalam proses penerbitan buku ini. Maka kesempatan ini penulis gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Bapak Prof. DR. H. Muh. Natsir, MA yang memberikan dorongan dan semangat . Selain itu kepada Hasbullah, S.Ag. yang telah memberikan bantuannya. Juga kepada Adinda Muh. Ridha, SH, MA. Yang telah berkenan menjadi editor buku ini.

Penulis mengucapakan banyak terima kasih pula kepada seluruh pihak yang tak dapat disebut satu-persatu pada kesempatan yang singkat ini. Dari semua itu, dengan harapan yang sangat dalam kiranya buku ini menjadi satu titik langkah dalam ikhtiar menggapai taufiq dan hidayah serta rahmat dari sang subyek hikmah. Amin ya Karim ya rabba al-alamin

Makassar, Januari 2018

Penulis,

Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag

NIP. 19640815 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ iii

DAFTAR ISI ~ v

BAGIAN PERTAMA

HADIS-HADIS TENTANG PERINTAH *ZIKIR* ~ 1

BAGIAN KEDUA

HADIS-HADIS TENTANG BENTUK-BENTUK *ZIKIR* ~ 89

BAGIAN KETIGA

HADIS-HADIS TENTANG *ZIKIR SALAWAT* ~ 170

BAGIAN KETIGA

HADIS-HADIS TENTANG ADAB DAB METODE BER*ZIKIR*. ~ 260

BAGIAN KEEMPAT

HADIS-HADIS TENTANG *ZIKIR* PADA TEMPAT TERTENTU ~ 420

BAGIAN PERTAMA HADIS-HADIS TENTANG PERINTAH Z*IKIR*

I. Hadis Tentang Perintah Berz*ikir*.

1. Riwayat al-Turmuzi>.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ
عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ نُلْنَا اللَّيْلَ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ
اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتْ الرَّاحِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ
الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أَبِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ
أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرَّبْعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ
زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ التِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
قَالَ قُلْتُ فَالتُّنَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ
صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.¹ رواه الترميذي

Artinya:

"Hanna>d menceritakan kepada kami, Qabi>sah menceritakan kepada kami dari Sufya>n , dari Abd Allah bin Muhammad bin Uqai>l, dari al-Tufai>l bin Ubai> bin Ka`ab dari bapaknya berkata: Rasulullah saw., ketika dua pertiga malam telah berlalu, beliau berdiri lalu berkata" Wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah! Ingatlah kepada Allah Telah datang tiupan pertama yang diiringi oleh tiupan kedua, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya. Ubay berkata, "Ya Rasulullah! Sungguh saya akan memperbanyak membaca shalawat untuk baginda. Berapakah saya membaca shalawat untuk engkau?." Nabi SAW bersabda, "Terserah engkau." Ubay bertanya lagi, "Seperempat (dari doa saya)?." Nabi SAW bersabda, "Terserah engkau. Kalau dirimu menambahnya maka lebih baik untukmu." Ubay bertanya lagi, "Setengah (dari doa saya)?." Nabi SAW bersabda, "Terserah kau.

¹ Muhammad bin 'Isa> bin Sarwah al-Tirmizi>, *Sunan al-Tirmuzi>*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000 M./1421 H.), h. 361, nomor hadis 2381.

Kalau kau menambahnya lebih baik untukmu.” Ubay bertanya lagi, “Duapertiga (dari doa saya)?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah kau. Kalau kau menambahnya maka lebih baik untukmu.” Ubay berkata, “Saya akan menjadikan sholawat saya semuanya untuk baginda.” Nabi SAW bersabda, “Jika begitu! Keinganmu akan dicukupi, dan dosamu akan diampuni, untuk kebaikanmu. ” HR. al-Turmuzi>

2. Riwayat al-Ha>kim.

أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي بالكوفة ، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، ثنا قبيصة بن عقبة ، ثنا سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ربيع الليل قام فقال : « يا أيها الناس اذكروا الله ، يا أيها الناس اذكروا الله ، يا أيها الناس اذكروا الله ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه » فقال أبي بن كعب : يا رسول الله ، إنني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك منها ؟ قال : « ما شئت » قال : الربيع ؟ قال : « ما شئت ، وإن زدت فهو خير لك » قال : النصف ؟ قال : « ما شئت وإن زدت فهو خير لك » قال : الثلثين ؟ قال : « ما شئت وإن زدت فهو خير » قال : يا رسول الله ، أجعلها كلها لك ؟ قال : « إذا تكفى همك ، ويغفر لك ذنبك » هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.² رواه الحاكم

Artinya:

Abu> al-Husai>n Ali> bin Abd al-Rahma>n menceriterkan kepada kami, Ahmad bin Ha>zim menceriterakan kepada kami, Qabi>sah menceriterakan kepada kami, Sufya>n menceriterakan kepada kami, dari Abd Allah bin Muhammad bin Uqai>l, dari al-Tufai>l bin Ubai> bin Ka`ab dari bapaknya berkata: Rasulullah saw., ketika dua pertiga malam telah berlalu, beliau berdiri lalu berkata" Wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah! Ingatlah kepada Allah Telah datang tiupan pertama yang diiringi oleh tiupan kedua, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya, telah

² Muhammad bin Abdillah Abu> Abdillah al-Hakim al-Naisaburi>, *al-Mustadrak `ala al-Sahihain*, juz VIII (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah,1411 H/1990 M), h. 240. no. hadis 3537.

datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya. Ubay berkata, “Ya Rasulallah! Sungguh saya akan memperbanyak membaca shalawat untuk baginda. Berapakali saya membaca shalawat untuk engkau?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah engkau.” Ubay bertanya lagi, “Seperempat (dari doa saya)?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah engkau. Kalau dirimu menambahnya maka lebih baik untukmu.” Ubay bertanya lagi, “Setengah (dari doa saya)?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah kau. Kalau kau menambahnya lebih baik untukmu.” Ubay bertanya lagi, “Duapertiga (dari doa saya)?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah kau. Kalau kau menambahnya maka lebih baik untukmu.” Ubay berkata, “Saya akan menjadikan sholawat saya semuanya untuk baginda.” Nabi SAW bersabda, “Jika begitu! Keinganmu akan dicukupi, dan dosamu akan diampuni, untuk kebaikanmu.”. HR. al-Ha>kim

3. Riwayat al-Ha>kim.

أخبرنا أبو النضر الفقيه ، ثنا معاذ بن نجدة القرشي ، أنبا قبيصة بن عقبة ، ثنا سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ربع الليل ، قال : « يا أيها الناس ، اذكروا نعمة الله ، يا أيها الناس اذكروا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه » فقال أبي بن كعب : يا رسول الله ، إنني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : « ما شئت » الحديث « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه³. رواه الحاكم

Artinya:

Abu al-Nadr al-Faqi>h memberitakan kepada kami, Mu`a>z bin Najdat al-Qurasyi> menceriterakan kepada kami, Qabi>sah memberitakan kepada kami, Sufya>n menceriterakan kami, dari Abd Allah bin Muhammad bin Aqi>l, dari al-Tufai>l bin Ubai> bin Ka`ab dari bapaknya berkata: Rasulullah saw., ketika dua pertiga malam telah berlalu, beliau berdiri lalu berkata" Wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah! Ingatlah kepada Allah Telah datang tiupan pertama yang diiringi oleh tiupan kedua, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya. Ubay berkata, “Ya

³al-Hakim, *al-Mustadrak `ala al- Sa>hihain* juz IX, *Ibid*, h. 103. no. hadis 3885.

Rasulallah! Sungguh saya akan memperbanyak membaca shalawat untuk baginda. Berapakah saya membaca shalawat untuk engkau?." Nabi SAW bersabda, "Terserah engkau." HR. al-Ha>kim.

4. *Riwayat al-Bai>haqi>*.

أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه بن عباس بن سنان الرازي ، حدثنا أبو حاتم الرازي إملاء ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبي بن كعب ، أن النبي ﷺ إذا ذهب ثلث الليل قام فقال : « يا أيها الناس ، اذكروا الله ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه.⁴ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu> Ali> menceritakan kepada kami, Abu> Bakar Muhammad bin Mahruwiat menceritakan kepada kami, Abu> Ha>tim al-Ra>zi> menceritakan kepada kami, Qabi>sah menceritakan kepada kami dari Sufya>n , dari Abd Allah bin Muhammad bin Uqai>l, dari al-Tufai>l bin Ubai> bin Ka`ab dari bapaknya berkata: Rasulullah saw., ketika dua pertiga malam telah berlalu, beliau berdiri lalu berkata" Wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah! Ingatlah kepada Allah! Telah datang tiupan pertama yang diiringi oleh tiupan kedua, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya.....HR.al-Bai>haqi>.

5. *Riwayat al-Baihaqi>*.

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أبو القاسم الطبراني ، أخبرنا حفص بن عمر ، حدثنا قبيصة ، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي بالكوفة ، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبي بن كعب ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ربع الليل قام

⁴ Abu> Bakar Ahmad ibn al-Husai>n ibn Ali ibn Mu>sa al-Bai>haqi>, *Sya`b al-Ima>n al-Bai>haqi>*, juz II, h.88

، فقال : « يا أيها الناس ، اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه ⁵. رواه البيهقي

Terjemahnya:

Ali> bin Ahmad bin Hamda>n memberitakan kepada kami, Abu> al-Qa>sim menceriterakan kepada kami, Hafz bin Umar memberitakan kepada kami, Qabi>sah menceriterakan kepada kami, dan Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> al-Husai>n menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn Ha>zim menceriterakan kepada kami, Qabi>sah bin Uqbah menceriterakan kepada kami, dari Sufya>n , dari Abd Allah bin Muhammad bin Aqi>l, dari al-Tufai>l bin Ubai> bin Ka`ab dari bapaknya berkata: Rasulullah saw., ketika dua pertiga malam telah berlalu, beliau berdiri lalu berkata" Wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah! Ingatlah kepada Allah! Telah datang tiupan pertama yang diiringi oleh tiupan kedua, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya.HR.al-Bai>haqi>.

6. *Riwayat al-Bai>haqi>.*

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عمرو بن محمد العنقزي ، أنا سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي ، عن أبي بن كعب ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ربيع الليل خرج فقال : « اذكروا الله ، اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه ⁶. رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Muhammad Abd Allah bin Yu>suf memberitakan kepada kami, Abu Sa`ad bin al-A`ra>bi> menceriterakan kepada kami, al-Hasan bin Muhammad menceriterakan kepada kami, Amr bin Muhammad menceriterakan kepada kami, sesungguhnya Sufya>n , dari Abd Allah bin Muhammad bin Aqi>l, dari al-Tufai>l bin Ubai bin Ka`ab dari bapaknya berkata: Rasulullah saw., ketika dua pertiga malam telah berlalu, beliau berdiri lalu berkata" Wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah! Ingatlah kepada Allah! Telah datang tiupan pertama yang diiringi oleh tiupan kedua, telah

⁵ al-Bai>haqi>, Sya`b al-Ima>n, juz IV, *ibid.*h.31.

⁶ al-BaI>haqi>, Sya`b al-Ima>n, juz XXII, *ibid.*., h.4

datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya.HR.al-Bai>haqi>

7. Riwayat *Abdu ibn Humai>d*

حدثنا قبيصة بن عقبة ، ثنا سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام ، فقال : « أيها الناس ، اذكروا الله ، اذكروا الله ، جاءت الراجفة (1) تتبعها الرادفة (2) ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه » ، قال أبي بن كعب : فقلت : يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : « ما شئت » ، قال : الربع ؟ قال : « ما شئت ، وإن زدت فهو خير » ، قال النصف ؟ قال : « ما شئت ، وإن زدت فهو خير » ، قال الثلثين ؟ قال : « ما شئت وإن زدت فهو خير » ، قال : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : « إذا يكفى همك ويغفر ذنبك⁷. رواه عبد بن حميد

Artinya:

Qabi>sah menceritakan kepada kami, Sufya>n menceritakan kepada kami, dari Abd Allah bin Muhammad bin Uqai>l, dari al-Tufail bin Ubai> bin Ka`ab dari bapaknya berkata: Rasulullah saw., ketika dua pertiga malam telah berlalu, beliau berdiri lalu berkata" Wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah! Ingatlah kepada Allah Telah datang tiupan pertama yang diiringi oleh tiupan kedua, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya, telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya. Ubay berkata, "Ya Rasulallah! Sungguh saya akan memperbanyak membaca shalawat untuk baginda. Berapakali saya membaca shalawat untuk engkau?." Nabi SAW bersabda, "Terserah engkau." Ubay bertanya lagi, "Seperempat (dari doa saya)?." Nabi SAW bersabda, "Terserah engkau. Kalau dirimu menambahnya maka lebih baik untukmu." Ubay bertanya lagi, "Setengah (dari doa saya)?." Nabi SAW bersabda, "Terserah kau. Kalau kau menambahnya lebih baik untukmu." Ubay bertanya lagi, "Duapertiga (dari doa saya)?." Nabi SAW bersabda, "Terserah kau. Kalau kau menambahnya maka lebih baik untukmu." Ubay berkata, "Saya akan menjadikan sholawat saya semuanya untuk

⁷ Abd ibn Humai>d, *Musnad Abd Humai>d* juz I, h. 183

baginda.” Nabi SAW bersabda, “Jika begitu! Keinganmu akan dicukupi, dan dosamu akan diampuni, untuk kebaikanmu. HR. Abd ibn Humai>d.

2. Hadis Tentang Menyibukkan Diri dengan al-Qur`an dan Berzikir Kepada Allah.

1. Riwayat al-Turmuzi>

2850 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادِ الْعَبْدِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذَكَرَنِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْفِهِ⁸. رواه الترميذي

Artinya:

Muhammad bin Isma`i>l menceritakan kepada kami, Syiha>b bin Ubba>d al-Abdi>yyu menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-Hasan bin Abi> Yazid al-Hamda>niyyu menceritakan kepada kami, dari Amr bin Qais, dari Atiyah dari Abi> Sa`i>d berkata; Rasulullah saw., bersabda: Tuhan *azza wajalla* berfirman; Siapa yang selalu sibuk dengan al-Qur`a>n dan mengingat Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada-Ku..... HR.al-Turmuzi>

2. Riwayat al-Da>rimi>.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ مَسْأَلَتِي وَذَكَرَنِي أَفْضَلُ تَوَابِ السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْفِهِ⁹. رواه الدارمي

Artinya:

⁸ al-Turmuzi>. *Sunan al-Turmuzi*, juz X, op.cit.,h. 169, no.hadis 2850.

⁹ al-Da>rimi>. *Sunan al-Da>rimi*, op.cit.,no. hadis 3222.

Isma'îl bin Ibaḥim memberitakan kepada kami, Muhammad bin al-Hasan bin Abu Yazid al-Hamdaḥniyyu menceritakan kepada kami, dari Amr bin Qais, dari Atiyah dari Abi Sa'îd al-Khudri berkata; Rasulullah saw., bersabda: Siapa yang selalu sibuk membaca al-Qur`ān dan mengingat Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada-Ku. HR.al-Daḥrimi.

3. *Riwayat al-Baihaqi*.

597 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا سليمان بن محمد بن ناجية المدني ، حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عثمان بن زفر ، حدثنا صفوان بن أبي الصهباء ، عن بكير بن عتيق ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله تعالى يقول : « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » .¹⁰ رواه البيهقي

Artinya:

Abu Abd al-Rahmaḥn al-Sulami memberitakan kepada kami, Sulaimaḥn bin Muhammad bin Naḥjiyah al-Madani menceritakan kepada kami, Abu Amr Ahmad bin Mubarak menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Usmaḥn bin Zafir menceritakan kepada kami, Safwaḥn menceritakan kepada kami, Dari Bukair bin Atiq, dari Saḥlim bin Abd Allaḥ bin Umar, dari Bapaknya dari Umar bin Khattaḥb ra berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya Allah Ta`āla berfirman; Siapa yang selalu sibuk mengingat Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada-Ku. HR. al-Baihaqi.

4. *Riwayat al-Baihaqi*.

598 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الله بن سعد ، حدثنا الحسين بن أحمد بن حفص النيسابوري ، حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا أبو سفيان الحميري ، حدثنا الضحاك بن حمرة ، عن يزيد بن خمير

¹⁰ al-Baihaqi. *Syaḥbu al-Imaḥn*, juz II, h. 139, no.hadis 597.

، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي ﷺ يرويه ، عن ربه تبارك وتعالى قال : « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ».¹¹ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu> Abd Alla>h al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abd Alla>h bin Sa`ad memberitakan kepadaku, al-Husai>n bin Ahmad bin Hafs al-Naisabu>ri> menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Ra>fi` menceriterakan kepada kami, Abu Sufya>n al-Humairi menceriterakan kepada kami, al-Dahha>k bin Hamzah menceriterakan kepada kami, dari Yazid bin Humair, dari Ja>bir bin Abd Alla>h, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya Taba>raka wa Ta`ala berfirman; Siapa yang selalu sibuk mengingat Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada-Ku. HR. al-Baihaqi>.

5. *Riwayat al-Baihaqi>.*

599 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا الحسين بن صفوان البردعي ، أخبرنا عبد الله بن أبي الدنيا ، حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا أبو الأحوص ، عن منصور ، عن مالك بن الحارث قال : يقول الله تبارك وتعالى : « من شغله ذكرى عن مسألتي ، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ».¹² رواه البيهقي

Artinya:

Abu> al-Husai>n bin Basyra>n memberitakan kepada kami, al-Husai>n bin Safwan memberitakan kepada kami, Abd Alla>h bin Abi> al-Dunya> memberitakan kepada kami, Khalaf bin Hisya>m menceriterakan kepada kami, Abu al-Ahwas menceriterakan kepada kami, dari Mans-r, dari Ma>lik bin al-Ha>ris berkata; Allah Taba>raka wa Ta`a>la berfirman; Siapa yang selalu sibuk mengingat Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada-Ku. HR. al-Baihaqi>.

¹¹ al-Baihaqi>. *Sya`bu al-Ima>n*, , juz II, h. 140, no.hadis 598.

¹² al-Baihaqi>. *Sya`bu al-Ima>n*, juz II, h. 141, no. hadis 599.

6. *Riwayat Abi> Nu'ai>m al-Asbaha>ni>*.

200 - حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلحي ، ثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضي الوادعي ، ثنا يحيى بن عبد الحميد ، ثنا صفوان بن أبي الصهباء ، عن بكير بن عتيق ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : قال رسول الله ﷺ : « يقول الله عز وجل : إذا شغل عبدي ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين »¹³. رواه أبي نعيم

Terjemahnya:

Abu> Bakar Abd Alla>h bin Yahya bin Mu''a>wiyah menceritakan kepada kami, Abu Husain Muhammad bin al-Husai>n al-Qa>di> menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdu al-Humaid menceritakan kepada kami, Safwa>n menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Ati>q dari Sa>lim, dari Ibn Umar, dari Umar berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wajalla berfirman; Siapa yang selalu sibuk mengingat Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada-Ku. HR. al-Baihaqi>.

7. *Riwayat al-Qada>'i>*.

553 - أنا أبو النعمان عبد الرحمن بن محمد الأدفوي ، أنا أبو الطيب أحمد بن سليمان الجريري إجازة نا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري نا ابن وكيع وأحمد بن مظهر المصيصي ، قالوا : نا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى ، عن الضحاك بن حمرة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي ﷺ يرويه عن ربه ، تبارك وتعالى قال : « قال جل وعز : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين »¹⁴. رواه الشهاب القضائي

Terjemahnya:

Abi> Nu'ma>n Abd al-Rahma>n bin Muhammad al-Adfawi> menceritakan kepada kami, Abu al-Tayyib Ahmad bin Sulai>ma>n al-Jari>ri> menceritrekkan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari> memberikan ija>zah kepada kami,

¹³ Abi> Nuai>m al-Asbaha>ni>, *Ma'rifat al-Saha>bat li Abi> Nua'i>m al-Asbaha>ni*, juz I, h. 232.no.hadis 200.

¹⁴ al-Qada'i>, *Musnad al-Syiha>b al-Qada>'I>*, juz II, h. 421, no. hadis 553.

Ibn Waki` dan Ahmad bin Muzhar menceritakan kepada kami, Abu Sufya>n al-Humairi> Sa`id bin Yahya menceritakan kepada kami, dari al-Dahha>k bin Hamzah, dari Abi> al-Zubai>r dari Ja>bir bin Abd Allah dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya Sesungguhnya Allah Taba>raka wa Ta``a>la berfirman; Siapa yang selalu sibuk mengingat Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada-Ku. HR. al-Syiha>b al-Qada>'i>.

3. Hadis -Hadis Tentang berZikir dengan Tasbi>h, Tahli>l dan Taqdi>s.

1. Riwayat al-Turmuzi>.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جِرَامٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَیْبُرٌ وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ هَانِيَّ بْنَ عَثْمَانَ عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّكَ بِالنَّسِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَعْفُلْنَ فَنَنْسِينَ الرَّحْمَةَ.¹⁵ رواه الترمذي

Artinya:

M-sa ibn Hiz{a>m dan Abd ibn Humaid dan Abru Wa>hid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyri menceritakan kepada kami, berkata; aku mendengar Ha>ni> ibn Usmā>n dari Ibunya Humaidah binti Ya>sir dari neneknya Yusairah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s (subhanal malikil qudduus) dan hitunglah dengan jari jemari, karena hal itu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap (apa yang ia lakukan) dan apa yang ia ucapkan. Dan janganlah kalian lalai, sehingga kalian melupakan rahmat (Allah).”.... HR. al-Turmuzi>.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

25841 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَانِيُّ بْنُ عَثْمَانَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيَّكَ

¹⁵ al-Turmuzi>, *Sunan al-Turmuzi>*, op.cit., no. hadis 3507.

بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَلَا تَعْفَلَنَّ فَتَنْسِينَ الرَّحْمَةَ وَاعْفِدَنَّ
بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.¹⁶ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muhammad bin Basyri menceritakan kepada kami, berkata; Ha>ni> ibn Usma>n al-Juhani> menceritakan kepada kami dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s dan hitunglah dengan jari jemari, karena hal itu akan dimintai pertanggung jawaban terhadap (apa yang ia lakukan) dan apa yang ia ucapkan. Dan janganlah kalian lalai, sehingga kalian melupakan rahmat (Allah).”.... HR.Ahmad ibn Hanbal.

3. Riwayat al-Tabra>ni>.

20692 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى الْحَمَانِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، ثنا هَانِي بْنُ عُمَانَ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْضَةَ، عَنْ جَدِّهَا يَسِيرَةَ، وَكَانَتْ إِحْدَى الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّقْدِيسِ، وَاعْفِدَنَّ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْطَقَاتٌ، وَمَسْئُولَاتٌ، وَلَا يَعْفَلَنَّ فَيَنْسِينَ الرَّحْمَةَ.¹⁷ رواه الطبراني

Artinya:

Muhammad ibn al-Nadr al-Azdi> menceritakan kepada kami, Abu Gassa>n Ma>lik ibn Isma>'i>l menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Abd Allah al-Hadrami menceritakan kepada kami, Abu Bakar ibn Abu Syaibah, Yahya al-Himmani>, dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyri menceritakan kepada kami, berkata; Ha>ni> ibn Usma>n al-Juhani> menceritakan kepada kami dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.al-Tabra>ni>

¹⁶ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 55, h. 43. No. hadis 25841.

¹⁷ al-Tabra>ni>, *al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>*, , juz XVIII, h. 251. No. hadis 20692.

4. *Riwayat al-Tabra>ni>*,

20693 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَكْتُومٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هَانِي بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْصَةَ، عَنْ جَدَّتِهَا يَسِيرَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يُرَاعِينَ النَّسَبَ، وَالتَّهْلِيلَ، وَالتَّقْدِيرَ، وَيَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، وَيَقُولْنَ: إِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، وَمُسْتَنْطَقَاتٌ.¹⁸ رواه الطبراني

Artinya:

Mu`a>z ibn al-Musanna>, dan Yu>suf al-Qa>di> menceriterakan kepada kami, Musaddad menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Abd Allah al-Hadrami> menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn Makt-m menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Da>wud menceriterakan kepada kami, dari Ha>ni> ibn Usmā>n dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.al-Tabra>ni>

5. *Riwayat Ibn Abi> Syaibah.*

حدثنا محمد بن بشر ثنا هاني بن عثمان فحدث عن أمه حميصة ابنة ياسر عن جدتها بسرة وكانت إحدى المهاجرات قالت قال لها رسول الله ﷺ : (عليكن بالنسب والتهيل والتكبير واعقدن بالانامل فإنهن يأتين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتتسين الرحمة).¹⁹ رواه ابن ابي شيبة

Artinya:

Muhammad bin Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; Ha>ni> ibn Usmā>n al-Juhani> menceriterakan kepada kami dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.Ibn Abi> Syaibah.

¹⁸ al-Tabra>ni>, *al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>*, *Ibid.*. No. hadis 20693

¹⁹ Ibn Abi> Syaibah. *Musannaf ibn Abi> Syaibah*, juz II, h. 282.

6. *Riwayat Ibn Hibba>n.*

843 - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن بشر ، قال : سمعت هانئ بن عثمان ، عن أمه حميصة بنت ياسر ، عن جدتها يسيرة ، وكانت إحدى المهاجرات ، قالت : قال لنا رسول الله ﷺ : « عليك بالتسبيح والتهليل والتقديس ، واعقدن بالأنامل ، فإنهن مسؤولات ومستنطقات ».²⁰ رواه ابن حبان

Artinya:

Abu> Ya`la memberitakan kepada kami, berkata; Abu> Bakar ibn Abi> Syai>bah menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; aku mendengar Ha>ni> ibn Usma>n dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.Ibn Hibba>n

7. *Mawa>rid al-Zamma>n, juz I, h. 579.*

أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر قال سمعت هانئ بن عثمان عن أمه خميصة بنت ياسر عن يسيرة وكانت إحدى المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالتسبيح والتهليل والتقديس فاعقدنهن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات

Artinya:

Abu> Ya`la memberitakan kepada kami, berkata; Abu> Bakar ibn Abi> Syai>bah menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; aku mendengar Ha>ni> ibn Usma>n dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbih, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.Mawa>rid

8. *Riwayat al-Tabra>ni>.*

5173 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال : نا أبو غسان قال : نا محمد بن بشر قال : نا هانئ بن عثمان أبو عثمان بن هانئ عن أمه

²⁰ Ibn Hibba>n, *Sahih ibn Hibba>n*, juz IV, h. 176. No. hadis 843.

حميضة بنت ياسر ، عن جدتها يسيرة وكانت إحدى المهاجرات ، قالت : قال رسول الله ﷺ : « يا نساء المؤمنین ، عليكن بالتهليل ، والتسبيح ، والتقدیس (2) ، واعقدن بالأنامل ، فإنهن مستنطقات ومسئولات ، ولا تغفلن فتنسین الرحمة »²¹. رواه الطبراني

Artinya:

Muhammad ibn al-Nadr al-Azdi> menceriterakan kepada kami, Abu> Gassa>n menceriterakan kepada kami, berkata; Muhammad bin Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; Ha>ni> ibn Usma>n al-Juhani> menceriterakan kepada kami dari ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.al-Tabra>ni>

9. *Riwayat Musnad al-Ja>mi`*,

17671- عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ ، عَنْ جَدَّتِهَا يُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ . قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَلَيكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ ، وَالتَّهْلِيلِ ، وَالتَّقْدِيسِ ، وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٍ مُسْتَنْطَقَاتٍ ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسِينَ الرَّحْمَةَ²².

Artinya:

Dari Humai>dhah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.Musnad al-Ja>mi>

10. *Riwayat Ibn Abi> A<sim*.

2902 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن بشر ، قال : سمعت هانئ بن عثمان ، يذكر عن أمه حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت إحدى المهاجرات قالت : قال رسول الله ﷺ : « عليكن

²¹ al-Tabra>ni>, *al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni>*, , juz XI, h. 251. no.hadis 5173.

²² Musnad al-Ja>mi` , juz X, no.hadis 17671.

بالتسبيح والتقدیس واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة». ²³ رواه ابن أبي عاصم

Artinya:

Abu> Bakar ibn Abi> Syai>bah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyri menceritakan kepada kami, berkata; aku mendengar Ha>ni> ibn Usma>n dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.Ibn Abi> A<sim

11. Riwayat Abdu Humai>d.

1575 - حدثنا محمد بن بشر ، ثنا هانئ بن عثمان ، عن أمه حميضة ابنة ياسر ، عن جدتها يسيرة وكانت من المهاجرات ، قالت : قال لنا رسول الله ﷺ : « عليكن بالتهليل والتسبيح ، والتقدیس ولا تغفلن ، فتنسين الرحمة ، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات ». ²⁴ رواه عبد بن حميد

Terjemahnya:

Muhammad bin Basyri menceritakan kepada kami, berkata; aku mendengar Ha>ni> ibn Usma>n dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusairah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.Abd ibn Humaid

12. Riwayat al-Tabra>ni>.

1662 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي ، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ويحيى الحماني ، وأبو كريب قالوا : ثنا محمد بن بشر ، ثنا هانئ بن عثمان ، عن أمه حميضة عن جدتها يسيرة وكانت إحدى المهاجرات قالت : قال لنا رسول الله ﷺ : « يا نساء المؤمنین عليكن بالتهليل والتقدیس والتسبيح ، واعقدن بالأنامل فإنهن

²³ Ibn Abi> A<sim. ha>d wa al-Masa>ni> li Ibn Abi> A<sim, , juz IX, h. 151. No. hadis 2902

²⁴ Abdu Humai>d, Musnad Abdu Humai>d, juz IV, h. 214. No. hadis 1575.

مستنطقات ومسئولات ولا تغفلن فتنسين الرحمة ²⁵. رواه الطبراني

Artinya:

Muhammad ibn al-Nadr al-Azdi> menceriterakan kepada kami, Abu Gassa>n Ma>lik ibn Isma>'i>l al-Hindi> menceriterakan kepada kami, berkata; Muhammad ibn Abd Allah al-Hadhrami> menceriterakan kepada kami, Abu> Bakar ibn Abi> Syaibah menceriterakan kepada kami, Yahya al-Hammi>, dan Abu> Kurai>b menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; Ha>ni> ibn Usma>n al-Juhani menceriterakan kepada kami dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.al-Tabra>ni>

13. *Riwayat al-Baihaqi>*.

266 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أزهر بن أحمد المنادي ، ببغداد ، حدثنا عبد الملك الرقاشي ، حدثنا عبد الله بن داود الخريبي ، حدثنا هاني بن عثمان ، عن حميضة بنت ياسر ، عن جدتها يسيرة - وكانت إحدى المهاجرات - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليك بالتسبيح ، والتهليل ، والتقديس ، ولا تغفلن فتنسين الرحمة ، واعقدن بالأنامل ، فإنهن مسئولات ومستنطقات ²⁶. رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Azhar ibn Ahmad al-Muna>di> memberitakan kepada kepada kami, Abd al-Ma>lik menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Da>wud menceriterakan kepada kami, dari Ha>ni> ibn Usma>n dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.al-Tabra>ni>

²⁵ al-Tabra>ni>, *al-Du`a li al-Tabra>ni>*, , juz IV, h. 431. No. hadis 1662.

²⁶ al-Baihaqi>, *al-Da`wa>t al-Kabi>r li al-Baihaqi>*, juz I, h. 301. nomor hadis 266.

14. *Riwayat Isha>q ibn Ra>hawiyah.*

2091 - أخبرنا محمد بن بشر العبدي ، نا هانئ بن عثمان ، عن أمه حميضة بنت ياسر ، عن جدتها يسيرة ، وكانت من المهاجرات قالت : قال لنا رسول الله ﷺ : « عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ، واعقدن بالأنامل ، فإنهن مسؤولات مستنطقات ، فلا تغفلن فنتسين الرحمة ». ²⁷ رواه إسحاق بن راهويه

Artinya:

Muhammad bin Basyri menceritakan kepada kami, berkata; Ha>ni> ibn Usma>n menceritakan kepada kami dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s....
HR. Isha>q ibn Ra>hawiyah

4. Hadis Tentang Zikir Sebanyak-banyaknya sehingga dikatakan Gila

1. *Riwayat Ahmad ibn Hanbal.*

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ. ²⁸ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Hasan menceritakan kepada kami, Ibn Lahi>'ah menceritakan kepada kami, Darra>j menceritakan kepada kami, dari Abi> al-Hai>sam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda: Perbanyak Zikir kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. HR. Ahmad ibn Hanbal.

2. *Riwayat al-Ha>kim.*

1793 - حدثنا أبو بكر بن عبد الله الشافعي ، ببغداد ، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، ثنا سعيد بن كثير ، وأصبع بن الفرج ، وأخبرني عبد الله بن موسى ، ثنا محمد بن أيوب ، أنبأ أحمد بن عيسى ، وحدثنا

²⁷ Isha>q ibn Ra>hawiyah. *Musnad Isha>q ibn Ra>hawiyah*, juz V, h. 197. nomor hadis 2091.

²⁸ Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*,

محمد بن صالح ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا أبو الطاهر ، قالوا : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : وأخبرني عمرو بن الحارث ، أن دراجا أبا السمع حدثه ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون».²⁹ رواه الحاكم

Artinya:

Abu Bakar Muhammad ibn Abd Allah al-Sya>fi> `menceriterakan kepada kami, Abu Isma>'i>l Muhammad ibn Isma>i>l menceriterakan kepada kami, Sa>i>d ibn Kasi>r dan Asbag ibn al-Farj menceriterakan kepada kami, ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, Amr ibn al-Ha>ris memberitakan kepada kami, sesungguhnya Aba> al-Samih menceriterakannya, dari Abi> al-Haisam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda: Perbanyak zikir kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. HR.al-Ha>kim.

3. *Riwayat al-Baihaqi>*.

554 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، حدثنا سعيد بن كثير ، وأصبغ بن الفرغ قالوا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن دراجا أبا السمع حدثه ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون».³⁰ رواه البيهقي

Artinya:

Abu Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad ibn Abd Allah al-Sya>fi> `menceriterakan kepada kami, Abu Isma>il Muhammad ibn Isma>il menceriterakan kepada kami, Sa>i>d ibn Kasi>r dan Asbag ibn al-Farj menceriterakan kepada kami, ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, Amr ibn al-Ha>ris memberitakan kepada kami, sesungguhnya Aba> al-Samih menceriterakannya, dari Abi> al-Haisam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda:

²⁹ al-Ha>kim. *Al-Mustadrak ala al-Sahi>hai>n*, juz IV, h. 386. nomor hadis 1793.

³⁰ al-Baihaqi>. *Sya`b al-Ima>n li al-Baihaqi>*, juz II, h. 96. nomor hadis 554.

Perbanyak zikir kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. HR.al-Baihaqi>.

4. *Riwayat Abi> Ya`la.*

1345 - وعن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ أنه قال : « اذكروا الله ذكرا كثيرا حتى يقولوا : مجنون ». ³¹ رواه ابي يعلي

Artinya:

Dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda: Perbanyak zikir kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. HR.Abi> Ya`la.

5. *Riwayat Ibn Hibba>n.*

818 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال : حدثنا أبو الطاهر ، قال : حدثنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، أن أبا السمح حدثه ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا : مجنون ». ³² رواه ابن حبان

Artinya:

Amr ibn Muhammad al-Hamda>ni> menceriterakan kepada kami, Abu Ta>hir menceriterakan kepada kami, ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, Amr ibn al-Ha>ris memberitakan kepada kami, sesungguhnya Aba> al-Samih menceriterakannya, dari Abi> al-Hai>sam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda: Perbanyak zikir kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. HR.Ibn Hibba>n.

6. *Riwayat Ibn Sya>hi>n.*

156 - حدثنا عبد الله بن سليمان ، ثنا أحمد بن عمرو بن السرح ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبي السمح ، عن أبي الهيثم

³¹ Abi> Ya`la. *Musnad Abi> Ya`la al-Mawsuli>* juz III, h. 389. nomor hadis 1345.

³² Ibn Hibba>n. *Sahi>h ibn Hibba>n*, juz IV, h. 126. nomor hadis 818

، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون ». ³³ رواه ابن شاهين

Artinya:

Abd Allah ibn Sulaima>n menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn Amr al-Sarih menceriterakan kepada kami, ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, dari Amr ibn al-Ha>ris dari Abi> al-Samih dari Abi> al-Haisam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda: Perbanyak zikir kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. HR.Ibn Sya>hi>n.

7. *Riwayat al-Tabra>ni>*.

1747 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، ثنا أصبغ بن الفرّج ، ح وحدثنا أحمد بن رشدين ، ثنا أحمد بن صالح ، قالوا : ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون ». ³⁴ رواه الطبراني

Artinya:

Yahya ibn Usma>n menceriterakan kepada kami, Asbag ibn al-Farraj menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn Rusydi>n menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn sa>lih menceriterakan kepada kami, ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, Amr ibn al-Ha>ris memberitakan kepadaku sesungguhnya Darra>j, dari Abi> al-Haisam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda: Perbanyak zikir kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. HR.al-Tabra>ni>.

8. *Riwayat al-Baihaqi>*.

21 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن صالح بن هانى ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا أبو الطاهر ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن دراجا أبا السمح حدثه ، عن أبي

³³ Ibn Sya>hi>n. *Al-Targi>b fi Fadail al-A`ma>l wa Sawa>ba Za>lik*, juz I, h. 178. nomor hadis 156.

³⁴ al-Tabra>ni>. *Al-Du`a li al-Tabra>ni>*, juz V, h. 23. nomor hadis 1747

الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا : مجنون ». ³⁵ رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Abdullah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Muhammad ibn Sa>lih ibn Ha>ni> menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Isma>il menceriterakan kepada kami, Abu> Ta>hir menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, Amr ibn al-Ha>ris memberitakan kepadaku sesungguhnya Darra>j, dari Abi> al-Haisam dari Sa'id al-Khudri> , dari Rasulullah saw., bersabda: Perbanyak zikir kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. HR.al-Baihaqi>.

5. Hadis tentang Memperbanyak Z|ikir dan berharap tidak bertemu musuh.

1. Riwayat al-Da>rimi>.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُّوْا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِنْ لَقَيْتُمُوهُمْ فَاتَّبِعُوهُمْ وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ فَإِنْ أَجْلَبُوا وَضَجُّوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ. ³⁶ رواه الدارمي

Artinya:

Abd Allah bin Yazid>d memberitakan kepada kami, Abd al-Rahma>n bin Ziya>d menceriterakan kepada kami, dari Abd Allah bin Yazid>d, dari Abd Allah Amr sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Janganlah engkau mengharap bertemu musuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada Allah dan apabila kalian bertemu dengan musuh maka hadapilah dengan hati yang teguh dan berzikirlah kepada Allah SWT. dan jika mereka gaduh dan berteriak-teriak maka kalian harus tetap diam..... HR. al-Da>rimi>.

2. Riwayat al-Baihaqi>.

(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب

³⁵ al-Baihaqi>. *al-da`wa>t al-Kabi>r li al-Baihaqi>*, juz I, h. 23. nomor hadis 21.

³⁶ al-Da>rimi>. *Sunan al-Da>rimi>*, nomor hadis 2333.

أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا تمنوا لقاء العدو وسلوا العافية فان لقيتموهم فاثبتوا وأكثروا ذكر الله فان اجلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت.³⁷ رواه البيهقي

Artinya:

Abd Allah al-Ha>fiz, dan Abu> Bakar al-Qa>di> memberitakan kepada kami, Abu al-Abba>s Muhammad bin Ya`qu>b menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Abd Allah bin Abd al-Hakam memberitakan kepada kami, Ibn Wahhab memberitakan kepada kami, Abd al-Rahma>n bin Ziya>d memberitakan kepadaku, dari Abi> Abd al-Rahma>n al-Habali>, dari Abd Allah Amr al-Ash ra. Berkata; Rasulullah saw., bersabda: Janganlah engkau mengharap bertemu musuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada Allah dan apabila kalian bertemu dengan musuh maka hadapilah dengan hati yag teguh dan berzikirlah kepada Allah SWT. dan jika mereka gaduh dan berteriak-teriak maka kalian harus tetap diamHR. al-Baihaqi>.

3. Riwayat Abdu ibn Humai>d.

332 - حدثنا يعلى ، ثنا الأفریقی ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاثبتوا ، وأكثروا ذكر الله عز وجل ، فإن صيحوا وأجلبوا ، فعليكم بالصمت ».³⁸ رواه عبد بن حميد

Artinya:

Ya`la> menceriterakan kepada kami, al-Afriqi> menceriterakan kepada kami, dari Abd Allah bin Yazid>d, dari Abd Allah Amr sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Janganlah engkau mengharap bertemu musuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada Allah dan apabila kalian bertemu dengan musuh maka hadapilah dengan hati yag teguh dan berzikirlah kepada Allah SWT. dan jika mereka gaduh dan berteriak-teriak maka kalian harus tetap diam.....HR. Abd bin Humaid.

³⁷ al-Baihaqi>. *Sunan al-Kubra> li al-Baihaqi>*, juz IX, h. 153.

³⁸ Abdu ibn Humai>d. *Musnad Abdu ibn Humai>d*, juz I, h. 368. nomor hadis 332.

6. Hadis-Hadis Tentang Rasulullah saw., Memperbanyak Zikir.

1. Riwayat al-Nasa'i>.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَزْوَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَقِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ وَلَا يَأْتِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُ الْحَاجَةَ.³⁹ رواه النسائي

Artinya:

Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> al-Abba>s al-Saya>ri> menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn Hila>l menceriterakan kepada kami, Ibra>him bin Hila>l menceriterakan kepada kami, Ali bin al-Hasan Syaqi>q menceriterakan kepada kami, al-Husai>n bin Wa>qid menceriterakan kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceriterakan kepadaku, berkata; aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya.".. HR. al-Nasa>'i>.

2. Riwayat al-Da>rimi>.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ وَلَا يَأْتِفُ وَلَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِي لَهُمَا حَاجَتَهُمَا.⁴⁰ رواه الدارمي

Artinya:

Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu al-Abba>s al-Saya>ri> menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn Hila>l menceriterakan kepada kami, Ibra>him bin Hila>l menceriterakan kepada kami, Ali bin al-Hasan Syaqi>q

³⁹ al-Nasa'i>. *Sunan al-Nasa'i>'i>*, nomor 1397.

⁴⁰ al-Da>rimi>, *Sunan al-Da>rimi>*, nomor hadis

menceriterakan kepada kami, al-Husai>n bin Wa>qid menceriterakan kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceriterakan kepadaku, berkata; aku mendengar Abd Allah bin Abi Aufa berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya." .. HR. al-Da>rimi>.

3. Riwayat al-Nasa`>'i>.

أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثني يحيى بن عقيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الارملة والمسكين فيقضي له حاجته الكلام في الخطبة⁴¹

Artinya:

Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu al-Abba>s al-Saya>ri> menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn Hila>l menceriterakan kepada kami, Ibra>him bin Hila>l menceriterakan kepada kami, Ali bin al-Hasan Syaqi>q menceriterakan kepada kami, al-Husai>n bin Wa>qid menceriterakan kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceriterakan kepadaku, berkata; aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya." .. HR. al-Tabra>ni>.

4. Riwayat al-Ha>kim..

4191 - حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الأدمي القارئ ببغداد ، ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي ، ثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي ، ثنا علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، قال : سمعت يحيى بن عقيل ، يقول : سمعت عبد الله بن أبي أوفى ، يقول : « كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ، ويقل اللغو ، ويطيل الصلاة ،

⁴¹ al-Nasa`>'i>. *Sunan al-Kubra> li al-Nasa`>'i>*, juz I, h. 531.nomor hadis 1716.

ويقصر الخطبة ، ولا يستتكف أن يمشي مع العبد والأرملة حتى يفرغ لهم من حاجتهم » « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه »⁴²

Artinya:

Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu al-Abba>s al-Saya>ri> menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn Hila>l menceriterakan kepada kami, Ibra>him bin Hila>l menceriterakan kepada kami, Ali bin al-Hasan Syaqi>q menceriterakan kepada kami, al-Husai>n bin Wa>qid menceriterakan kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceriterakan kepadaku, berkata; aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa berkata; Rasulullah saw., bersabda:.. HR. al-Tabra>ni.

5. Riwayat al-Ha>kim.

4192 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت عبد الله بن أبي عتبة ، يقول : سمعت أبا سعيد الخدري ، يقول : « كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ، ويقبل اللغو ، ويطيل الصلاة ، ويقصر الخطبة ، ولا يستتكف أن يمشي مع العبد والأرملة حتى يفرغ لهم من حاجتهم » « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ».⁴³ رواه الحاكم

Artinya:

Abu> al-Abba>s Muhammad ibn Yaqu>b menceritakan kepada kami, Ha>ru>n ibn Sulaima>n al-Asbaha>ni> menceriterakan kepada kami, Abd al-Rahma>n ibn Mahdi> menceriterakan kepada kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah berkata; Aku mendengar Abdullah ibn Abi> Utbah berkata; Aku mendengar Abu Sa`i>d al-Khudri> berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw., "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya."..... HR. al-Ha>kim.

⁴² al-Ha>kim. *Mustadrak ala al-Sahihai>n*, juz X, h. 4. nomor hadis 4191.

⁴³ al-Ha>kim. *Mustadrak ala al-Sahihai>n*, juz X, h. 5. nomor hadis 4192.

6. *Riwayat al-Tabra>ni>*.

1377 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ النَّسَائِيُّ، بِسَرٍّ مَنْ رَأَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَقِيلٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيَقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْتِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ يَفْضِي حَوَائِجَهُمَا"،⁴⁴

Artinya:

Al-Husai>n ibn Ahmad al-Nasa>'i> menceritakan kepada kami, Yahya ibn Aksam al-Qa>di> menceriterakan kepada kami, al-Fadl ibn Mu>sa menceriterakan kepada kami, al-Husai>n ibn Wa>qid menceriterakan kepada kami, Ibn Uqail menceriterakan kepadaku, aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa> berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya."..... HR. al-Tabra>ni.

7. *Riwayat al-Tabra>ni>*.

1394 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَةَ، أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيَقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَأْتِي أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ، أَوْ الْمَسْكِينِ فَيَفْضِي حَاجَتَهُ"،⁴⁵

Artinya:

Mu>sa ibn Ha>ru>n memberitakan kepada kami, Isha>q ibn Ra>hawah menceriterakan kepada kami, al-Fadl ibn Mu>sa menceriterakan kepada kami, Husain ibn Wa>qid menceriterakan kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceriterakan kepadaku, berkata; aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa> berkata;

⁴⁴ al-Tabra>ni>. *Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>*, juz XX, h. 74. nomor hadis 1377.

⁴⁵ al-Tabra>ni>. *Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>*, juz XX, h. 81. nomor hadis 1394.

"Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya.".. HR. al-Tabra>ni.

8. *Riwayat al-Tabra>ni*.

8431 - حدثنا موسى بن هارون ، نا إسحاق بن راهويه ، أنا الفضل بن موسى ، عن حسين بن واقد ، عن يحيى بن عقيل ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال : « كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ، ويقبل اللغو ، ويطيل الصلاة ، ويقصر الخطبة ، ولا يأبى أن يمشي مع الأرملة ، أو المسكين فيقضي حاجته »⁴⁶

Artinya:

Mu>sa ibn Ha>ru>n memberitakan kepada kami, Isha>q ibn Ra>hawah menceritakan kepada kami, al-Fadl ibn Mu>sa menceritakan kepada kami, Husain ibn Wa>qid menceritakan kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceritakan kepadaku, berkata; aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa> berkata; "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya.".. HR. al-Tabra>ni.

9. *Riwayat al-Tabra>ni*.

406 - حدثنا الحسين بن أحمد النسائي ، بسر من رأى ، حدثنا يحيى بن أكثم القاضي ، حدثنا الفضل بن موسى السيناني ، حدثنا الحسين بن واقد ، حدثني ابن عقيل ، سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول : « كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ، ويقبل اللغو ، ويطيل الصلاة ، ويقصر الخطبة ، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين يقضي لهما حوائجهما »⁴⁷

Artinya:

⁴⁶ al-Tabra>ni>. *Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni*, juz XVIII, h. 9. nomor hadis 8431.

⁴⁷ al-Tabra>ni>. *Mu`jam al-Sagi>r li al-Tabra>ni*, , juz I, h. 441. nomor hadis 406.

Al-Husain ibn Ahmad al-Nasai menceritakan kepada kami, Yahya ibn Aksam al-Qadi menceritakan kepada kami, al-Fadl ibn Musa menceritakan kepada kami, al-Husain ibn Waqid menceritakan kepada kami, Ibn Uqail menceritakan kepadaku, aku mendengar Abd Allah bin Abi Afa berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya."..... HR. al-Tabrani.

10. Riwayat al-Baihaqi.

278 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، إملاء ، قال : حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الأدمي القاري ببغداد ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزازي ، قال : حدثنا علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، قال : سمعت يحيى بن عقيل ، يقول : سمعت عبد الله بن أبي أوفى ، يقول : « كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ، ويقل اللغو ، ويطيل الصلاة ، ويقصر الخطبة ، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد والأرملة حتى يفرغ لهم من حاجاتهم »⁴⁸

Artinya:

Abu Abd Allah al-Hafiz memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad ibn Ja'far al-Adami al-Qadi menceritakan kepada kami, Abdullah ibn Ahmad ibn Ibrahim menceritakan kepada kami, Ahmad ibn Nasr ibn Malik menceritakan kepada kami, Ali bin al-Hasan Waqid menceritakan kepada kami, dari Bapaknyanya berkata: Yahya bin Uqail menceritakan kepadaku, berkata; aku mendengar Abd Allah bin Abi Afa berkata; "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya." HR.al-Baihaqi

⁴⁸ al-Baihaqi. *Dala'il al-Nubuwwat li al-Baihaqi*, juz I, h. 311. nomor hadis 278.

11. *Riwayat al-Baihaqi*>.

7892 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس السيارى ، نا إبراهيم بن هلال ، نا علي بن الحسن شقيق ، نا الحسين بن واقد ، حدثني يحيى بن عقيل ، قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفى ، يقول : « كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ، ويقبل اللغو ، ويطيل الصلاة ، ويقصر الخطبة ، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة ، والمسكين فيقضي حاجته ⁴⁹»

Artinya:

Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> al-Abba>s al-Saya>ri> menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn Hila>l.....aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa berkata; Sesungguhnya Rasulullah saw., memperbanyak zikir.. HR. al-Baihaqi>.

12. *Riwayat Ibn Hibba*>n.

6530 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا الفضل بن موسى ، حدثنا حسين بن واقد ، عن يحيى بن عقيل ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : « كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ، ويقبل اللغو ، ويطيل الصلاة ، ويقصر الخطبة ، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة أو المسكين ، فيقضي حاجته ⁵⁰»

Artinya:

Abd Allah ibn Muhammad al-Azadi> memberitakan kepada kami, Isha>q ibn Ibra>hi>m menceriterakan kepada kami, al-Fadl ibn Mu>sa menceriterakan kepada kami.....aku mendengar Abd Allah bin Abi Aufi> berkata; Sesungguhnya Rasulullah saw., memperbanyak zikir HR. Ibn Hibba>n.

13. *Riwayat Ibn Hibba*>n.

6531 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أبو عمار الحسين بن واقد ، عن يحيى بن عقيل ، قال : سمعت ابن أبي أوفى ، يقول : «

⁴⁹ al-Baihaqi>. *Sya`b al-Ima>n li al-Baihaqi>*, juz IV, h. 156. nomor hadis 7892.

⁵⁰ Ibn Hibba>n. *Sahi>h ibn Hibba>n*, juz XXVI, h. 378. nomor hadis 6530.

كان رسول الله ﷺ يكثر الذكر ، ويقبل اللغو ، ويطيل الصلاة ، ويقصر الخطبة ، ولا يأنف ولا يستكثر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته»⁵¹

Artinya:

Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah memberitakan kepada kami, Abu al-Amma al-Husai ibn Waqid menceriterakan kepada kami, dari Yahya bin Uqai berkata; aku mendengar Abd Allah bin Abi Afi berkata; Sesungguhnya Rasulullah saw memperbanyak zikir..... HR. Ibn Hibban.

BAGIAN KEDUA

HADIS-HADIS TENTANG BENTUK-BENTUK ZIKIR

A. Hadis Tentang *Zikir La> ila>ha illa> Alla>h.*

1. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ عُبَيْدَةَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعًا وَرَادًا كَتَبَ إِلَيْهِ يَعْني الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَكْتُبُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْني الْمُغِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.⁵² رواه أحمد بن حنبل

Artinya:

Sufyan menceriterakan kepada kami, dari Abdat dan Abd al-Malik, dari Warra ditulis oleh al-Mugirah bin Syubah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syubah ... kepada Muawiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan *La> ila>ha illallah wahdahu la> syarika lahu , lahu al-mulk, walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir,* HR.Ahmad bin Hanbal.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

⁵¹ Ibn Hibban. *Sahih Ibn Hibban*, juz XXVI, h. 380. nomor hadis 6531.

⁵² Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, hadis nomor 17489

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ مَنَحَةً وَرَقًا أَوْ مَنَحَةً لَبِنًا أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِتَاقٍ نَسَمَةٍ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهُوَ كَعِتَاقٍ نَسَمَةٍ.⁵³ رواه أحمد بن حنبل

Artinya:

Affa>n menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Talhah memberitakan kepada kami, dari Talhah ibn Musarfi dari Abd al-Rahma>n ibn Awsajah dari al-Bara>I ibn A<zib : Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: barang siapa yang memberi dirham, susu atau menunjukkan jalan maka bagaikan ia telah membebaskan budak. Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka ia bagaikan orang yang membebaskan budak.....HR.Ahmad bin Hanbal.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ طَلْحَةَ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ مَنَحَةً وَرَقًا أَوْ مَنَحَ وَرَقًا أَوْ هَدَى زُقَاقًا أَوْ سَقَى لَبِنًا كَانَ لَهُ عَدْلٌ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ.⁵⁴ رواه أحمد بن حنبل

Artinya:

Affa>n menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Talhah memberitakan kepada kami, dari Talhah ibn Musarfi dari Abd al-Rahma>n ibn Awsajah dari al-Bara>I ibn A<zib :Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: barang siapa yang memberi dirham, susu atau menunjukkan jalan maka bagaikan ia telah membebaskan budak. Barangsiapa

⁵³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis 17783.

⁵⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis 17786.

yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka ia bagaikan orang yang membebaskan budak.....HR.Ahmad bin Hanbal.

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا قَنَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّهْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ مَنَحَ مَنَحَةً أَوْ هَدَى زُقَافًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً.⁵⁵ رواه أحمد بن حنبل

Artinya:

Abu> Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Qana>nun ibn Abdullah menceritakan kepada kami, dari Abd al-Rahma>n ibn Awsajah dari al-Bara>I ibn A<zib :Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, memberi dirham, susu atau menunjukkan jalan maka ia bagaikan orang yang membebaskan budak.....HR.Ahmad bin Hanbal.

5.Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَحْدِثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرَقٍ أَوْ هَدَى زُقَافًا أَوْ سَقَى لَبْنًا كَانَ لَهُ عَدْلٌ رَقَبَةً أَوْ نَسَمَةً وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَارٍ كَانَ لَهُ عَدْلٌ رَقَبَةً أَوْ نَسَمَةً وَكَانَ يَأْتِينَا إِذَا فُئِمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسُحُ صُدُورَنَا أَوْ عَوَاتِقَنَا يَقُولُ لَا تَحْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ فَتَحْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ وَقَالَ زَيْنُوا

⁵⁵ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz XXXVII, nomor hadis 17800.

الْفُرَّانَ بِأَصْوَاتِكُمْ كُنْتُ نُسَيِّئُهَا فَذَكَرْنِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَرَّاحِمٍ.⁵⁶ رواه أحمد بن حنبل

Artinya:

Yahya dan Muhammad ibn Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Talhah memberitakan kepada kami, dari Talhah ibn Musarfi dari Abd al-Rahman ibn Awsajah dari al-Barra ibn Azib :Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda:Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR.Ahmad bin Hanbal.

2. Hadis tentang afdal al-Zikir *la> ila>ha illalla>h* dan *Afdal al-dua al-hamdulillah*.

1. Riwayat al-Turmuzi>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.⁵⁷ رواه الترميذي

Artinya:

Yahya bin Habi>b bin Arabi> menceritakan kepada kami, Musa bin Ibrahi>m bin Kasi>r al-Ansa>ri> menceritakan kepada kami, Aku mendengar Talhah bin Khira>sy berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah *la ilaha illallah* dan doa yang lebih afdal adalah *alhamdulillah*. HR. al-Turmuzi>.

2. Riwayat Ibnu Ma>jah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ الْفَاكِهَةِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ ابْنَ عَمِّ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁵⁶ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz XXXVIII, nomor hadis 17955.

⁵⁷ Al-Turmuzi>, *Sunan al-Turmuzi>*, juz V, h. 462. nomor hadis 3383

وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.⁵⁸ رواه ابن ماجه

Artinya:

Abd al-Rahma>n bin Ibrahi>m al-Dimasyqi> menceritakan kepada kami, Musa bin Ibrahi>m bin Basyi>r bin al-Fa>kih menceriterakan kepada kami, Aku mendengar Talhah bin Khira>sy bin Am berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah *la ilaha illallah* dan doa yang lebih afdal adalah *alhamdulillah*. HR. Ibnu Maja>h.

3. Riwayat al-Nasa`>'i>.

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَفْضَلَ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.⁵⁹ رواه النسائي

Artinya:

Yahya bin Habi>b bin Arabi> menceritakan kepada kami, Musa bin Ibrahi>m bin Kasi>r al-Ansa>ri> menceriterakan kepada kami, Aku mendengar Talhah bin Khira>sy bin Am berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah *la ilaha illallah* dan doa yang lebih afdal adalah *alhamdulillah*. HR. al-Nasa`>'i>.

4. Riwayat al-Ha>kim

1788 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ ، ثنا جَدِي ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَامِيُّ ، ثنا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ كَثِيرِ الْحَزَامِيِّ ، قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ

⁵⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Ma>jah*, juz II, h. 1249. nomor hadis 3890

⁵⁹ Al-Nasa`>'i>, *Sunan al-Kubra>*, juz VI, h. 208. nomor hadis 10667.

عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ»⁶⁰. رواه الحاكم

Artinya:

Isma>'i>l ibn Muhammad ibn al-Fadl al-Sya'ra>ni> memberitakan kepada kami, Jaddi menceritakan kepada kami, Ibra>him ibn al-Munzir al-Hiza>mi> menceriterakan kepada kami, Mu>sa ibn Ibra>him ibn Basyir ibn Kasi>r berkata; Aku mendengar Talhah bin Khira>sy bin Am berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah *la ilaha illallah* dan doa yang lebih afdal adalah *alhamdulillah*. HR. al-Ha>kim.

5. Riwayat al-Ha>kim

1806 - حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا يحيى بن حبيب بن عريبي ، أنبا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري المدني ، قال : سمعت طلحة بن خراش ، يقول : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، يقول : سمعت يقول : «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ»⁶¹. رواه الحاكم

Artinya:

Abu> al-Walid Hassa>n ibn Muhammad al-Faqi>h menceritrakan kepada kami, Ibra>him ibn Abi Ta>lib menceriterakan kepada kami, Yahya ibn Habi>b ibn Arabi>, Mu>sa ibn Ibra>him ibn Kasi>r al-Ansha>ri> al-Madani>; Aku mendengar Talhah bin Khira>sy bin Am berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah *la ilaha illallah* dan doa yang lebih afdal adalah *alhamdulillah*. HR. al-Ha>kim.

6. Riwayat al-Bai>haqi>.

4201 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ، حدثنا جدي ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ،

⁶⁰ al-Ha>kim , *al-Mustadrak ala al-sahi>hai>hai>n*, juz IV, h. 381. nomor 1788

⁶¹ al-Ha>kim, *al-Mustadrak ala al-Sahihaihai>n* juz IV, h. 399. nomor 1806

ح . وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ، بيغداد ، حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه النجاد ، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ ، حدثنا طَلْحَةَ بْنُ خِرَاشٍ ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْضَلُ الدُّعَاءِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .⁶² رواه البيهقي

Artinya:

Abdullah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Isma>'i>l ibn Muhammad ibn al-Fadl al-Sya'ra>ni> memberitakan kepada kami, Jaddi menceritakan kepada kami, Ibra>him ibn al-Munzir al-Hiza>mi> menceriterakan kepada kami, Mu>sa ibn Ibra>him ibn Basyir ibn Kasi>r berkata; Aku mendengar Talhah bin Khira>sy bin Am berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah *la ilaha illallah* dan doa yang lebih afdal adalah *alhamdulillah*. HR. al-Baihaqi>.

7. Riwayat al-Bai>haqi>.

« . وفي رواية أبي عبد الله ، قال : سمعت طلحة بن خراش ، يقول : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : « أَفْضَلُ الذِّكْرِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ . » .⁶³ رواه البيهقي

Artinya:

Aku mendengar Talhah bin Khira>sy bin Am berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah *la ilaha illallah* dan doa yang lebih afdal adalah *alhamdulillah*. HR. al-Bai>haqi>.

8. Riwayat Ibn Hibba>n.

أخبرنا محمد بن علي الأنصاري ، من ولد أنس بن مالك بالبصرة ، قال : حدثنا يحيى بن حبيب بن عَرَبِيِّ ، قال : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ ، قال : سمعت طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ ، يقول : سَمِعْتُ

⁶² al-Baihaqi>, Sya`b al-Ima>n li al-Bai>haqi>, juz IX, h. 401. nomor hadis 4201.

⁶³ al-Bai>haqi>, Sya`b al-Ima>n li al-Bai>haqi>, juz IX, h. 401. nomor hadis 4201

جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : « أَفْضَلُ الذِّكْرِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .⁶⁴ رواه ابن حبان

Artinya:

Muhammad ibn Ali al-Ansha>ri> menceritakan kepada kami, dari anak Anas ibn Malik berkata; Yahya ibn Habi>b ibn Arabi> berkata; Musa bin Ibrahi>m al-Anshari> menceriterakan kepada kami, Aku mendengar Talhah bin Khira>sy bin Am berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah *la ilaha illallah* dan doa yang lebih afdal adalah *alhamdulillah*. HR. Hibba>n.

3. Hadis tentang Memperbaharui Iman dengan Zikir *La> ila>ha illa> Allah*

1. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ الدَّقِيقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ شَتِيرِ بْنِ نَهَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُونِي لِأَسْقِيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَأَطَاعْتُمْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمَّا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتِ الرَّعْدِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا قَالَ أَكْبِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.⁶⁵ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Sulai>man bin Da>wud al-Taya>lisi> menceriterkan kepada kami, Sadaqah bin M-sa al-Sulai>mi> al-Daqi>qi> menceriterkan kepada kami, Muhammad bin Wa>si'', dari Suyar bin Naha>r, dari Abi> Hurairah; sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Tuhan Azza wa Jalla berfirman: Sekiranya hamba-Ku mengikuti-Ku..... Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya baik sangka dengan Allah Azza wa

⁶⁴ Ibn Hibba>n, *Sahi>h Ibn Hibba>n*, juz IV, h. 184. nomor hadis

⁶⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis

Jalla.....dan Rasulallah saw., bersabda: Perbaharui iman kamu, sahabat bertanya bagaimana cara memperbahauai iman kami, Nabi menjawab: Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. HR. Ahmad bin Hanbal.

2. Riwayat al-Ha>kim.

وقال رسول الله ﷺ : « جددوا إيمانكم » . قيل : يا رسول الله ، وكيف نجدد إيماننا ؟ قال : « أكثروا من قول لا إله إلا الله ».⁶⁶ رواه الحاكم

Artinya:

Rasulullah saw., bersabda: Perbaharui iman kamu, sahabat bertanya bagaimana cara memperbahauai iman kami, Nabi bersabda: Perbanyaklah mengucapkan kalimat *la ilaha illallah*. HR.al-Ha>kim

3. Riwayat Abdu ibn Humai>d.

1428 - ثنا سليمان بن داود ، عن صدقة بن موسى ، ثنا محمد بن واسع ، عن شتير بن نهار العبدي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « قال ربكم عز وجل : لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل ، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتم صوت الرعد » وقال رسول الله ﷺ : « جددوا إيمانكم » قالوا : يا رسول الله ، وكيف نجدد إيماننا ؟ قال : « أكثروا من قول : لا إله إلا الله ».⁶⁷ رواه عبد بن حميد

Artinya:

Sulai>ma>n bin Da>wud menceritakan kepada kami, Sadaqah bin Mu>sa al-Sulai>mi> al-Daqi>qi> menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wa>si'', dari Syar bin Naha>r, dari Abi> Hurairah; sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Tuhan Azza wa Jalla berfirman: Sekiranya hamba-Ku mengikuti-Ku..... Rasulallah saw., bersabda: Sesungguhnya baik sangka dengan Allah Azza wa Jalla.....dan Rasulallah saw., bersabda: Perbaharui iman kamu, sahabat bertanya bagaimana cara memperbahauai iman kami, Nabi

⁶⁶ al-Ha>kim, *Al-Mustadrak ala al-Sahihain li al-Ha>kin*, juz XVIII,h.20.nomor hadis 7766.

⁶⁷ Abdu ibn Humai>d. *Musnad Abdu ibn Humai>d*, juz IV, h. 49. No.hadis 1428

mejawab: Perbanyaklah mengucapkan kalimat *la ilaha illallah*.
HR. Abdu ibn Humaid.

4. Riwayat Muhammad bin Nasr al-Marwizi>

698 - وقد حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا صدقة أبو المغيرة وهو ابن موسى الدقيقي ، ثنا محمد بن واسع ، عن سمير بن نهار ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جددوا إيمانكم » قالوا : وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله ؟ قال : « تقولوا لا إله إلا الله » .⁶⁸ رواه محمد بن نصر المروزي

Artinya:

Muhammad bin Isma`il menceritakan kepadaku, Musa bin Isma`il menceritakan kepada kami, Sadaqah Abu al-Mugirah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wasil` menceritakan kepada kami, dari Sumir bin Naha>r, dari Abi> Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Perbaharui iman kamu, sahabat bertanya bagaimana cara memperbaharui iman kami, Nabi menjawab: Perbanyaklah mengucapkan kalimat *la ilaha illallah*. HR. Muhammad bin Nasr al-Marwizi>.

4. Hadis tentang Zikir Tahli>l, Takbi>r, Tahmi>d ,Tasbi>h dan Hauqalah..

1. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ ثُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَّمْنِي كَلِمًا أَقُولُ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ

⁶⁸ Muhammad bin Nasr al-Marwizi>. *Ta`zi>m Qadr al-Sala>t li Muhammad bin Nasr al-Marwizi>*. juz II, h. 349, nomor hadis 698.

الْحَكِيمَ قَالَ فَهُوَ لِرَبِّي فَمَا لِي قَالِ قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي
وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي.⁶⁹ رواه مسلم

Artinya:

Abu Bakar ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Ali ibn Musy dan Ibn Numair memberitakan kepada kami, dari Mu>sa al-Juhani dari Mus'ab ibn Sa'd dari Bapaknya berkata; datang seorang Arab kepada Rasulullah saw., berkata; Ajari aku sebuah kalimat; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, Allahu Akbar.....HR. Muslim.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَّمَنِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ خَمْسًا قَالَ هُوَ لِرَبِّي فَمَا لِي قَالِ قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي.⁷⁰ رواه أحمد بن حنبل

Artinya:

Yahya ibn Sa'id menceritakan kepada kami, dari Mu>sa al-Juhani, Mus'ab ibn Sa'd dari Bapaknya; Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. al-Bukha>ri>.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي الْجُهَنِيَّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ عَلَّمَنِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قَالَ هُوَ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَمَا

⁶⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz XIII, nomor hadis 4862

⁷⁰ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz III, nomor hadis 1478.

لِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي.⁷¹ رواه أحمد بن حنبل

Artinya:

Abdullah ibn Numair dan Ya'la menceritakan kepada kami, Mu>sa memberitakan kepada kami, dari Mus'ab ibn Sa'd dari Bapaknya; telah datang seorang arab kepada nabi saw dan bertanya: ya nabi, beritahu aku sebaik-baik perkataan. berkata nabi: katakanlah tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal.

5.Hadis Tentang Zikir *La> ila>ha illalla>h Tiga Kali*

1. Riwayat Ibnu Ma>jah.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ قَالَ حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ثُمَّ انْفُتَّ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذُ وَلَا تَعُدُّ.⁷² رواه ابن ماجه

Artinya:

Ahmad bin Muni` menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceritakan kepada kami, berkata;..... Aku telah bersumpah dengan nama lata dan uzza! ” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ucapkanlah, ‘Tidak ada Tuhan yang berhak di sembah selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya’. Kemudian tiupkan ke sebelah kirimu tiga kali, dan berindunglah serta jangan kamu ulangi.” . HR. Ibn Majah.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ أَصْحَابِي قَدْ قُلْتَ هُجْرًا

⁷¹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis 1525.

⁷² Ibn Ma>jah, *Sunan Ibn Ma>jah*, juz VI, nomor hadis 2088.

فَأْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا وَإِنِّي حَافِتٌ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْفُتْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذْ وَلَا تَعُدْ.⁷³ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Yahya ibn Adam` menceriterakan kepada kami, Isra>il menceriterakan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Mus'ab ibn Sa'ad, dari Bapaknya berkata;Rasulullah saw., bersabda: Aku telah bersumpah dengan nama lata dan uzza! ” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ucapkanlah, ‘Tidak ada Tuhan yang berhak di sembah selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya’. Kemudian tiupkan ke sebelah kirimu tiga kali, dan berlindunglah serta jangan kamu ulangi.” HR. Ahmad ibn Hanbal.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُنْتَبِيِّ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ قَدْ قُلْتَ هُجْرًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ حَدِيثًا وَإِنِّي حَافِتٌ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلَاثًا وَانْفُتْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَا تَعُدْ.⁷⁴ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Hujain ibn al-Musanna dan Abu Sa'id menceriterakan kepada kami, Isra>'il menceriterakan kepada kami, dari Abi Ishaq berkata; Abu Sa'id, Abu>Isha>q memberitakan kepada kami, dari Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqa>s dari bapaknya: Aku telah bersumpah dengan nama lata dan uzza! ” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ucapkanlah, ‘Tidak ada Tuhan yang berhak di sembah selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya’.

⁷³Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz IV, nomor hadis 1505.

⁷⁴Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz IV nomor hadis 1536

Kemudian tiupkan ke sebelah kirimu tiga kali, dan berlindunglah serta jangan kamu ulangi.”

... HR. Ahmad ibn Hanbal.

4. Riwayat al-Nasa>'i>

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَفَّتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي أَصْحَابِي بِنَسٍّ مَا قُلْتَ قُلْتَ هُجْرًا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنْفُتُ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ لَا تَعُدْ.⁷⁵ رواه النسائي

Artinya:

Abd al-Hami>d ibn Muhammad` menceriterakan kepada kami,berkata; Muhlalad menceriterakan kepada kami, berkata; Yu>nus ibn Abi Ishaq memberitakan kepada kami, dari Bapaknya berkata; s'ab ibn Sa'ad` menceriterkan kepadaku, dari Bapaknya berkata;..... Aku telah bersumpah dengan nama lata dan uzza! ” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ucapkanlah, ‘Tidak ada Tuhan yang berhak di sembah selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya’. Kemudian tiupkan ke sebelah kirimu tiga kali, dan berlindunglah serta jangan kamu ulangi.” HR. al-Nasa>'i>

B. Hadis-Hadis Tentang Z|ikir Istigfa>r.

I. Hadis Tentang Zikir *Allahumma anta al-Salam waminka al-Salam.*

1. Riwayat Muslim.

932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَفْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁷⁶ رواه مسلم

⁷⁵ Al-Nasa>'i>, *Sunan al-Nasa>'i>*, juz XII, nomor hadis 3717

⁷⁶ Muslim. *Sahih Muslim*, juz III, h. 255, nomor hadis 932.

Artinya:

Abu> Bakar bin Abi> Syaibah dan Ibn Numair menceritakan kepada kami, Abu Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., "Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan salam, beliau tidak duduk selain seukuran membaca bacaan "*allaahumma antas salaam, waminkas salaam, tabaarakta dzal jalaalil wal ikraami* (Ya Allah, Engkau adalah Dzat Pemberi keselamatan, dan dari-Mulah segala keselamatan, Maha Besar Engkau Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan)." . HR. Muslim.

2. Riwayat Abi Da>wud.

1292 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ وَخَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁷⁷ رواه أبي داود

Artinya:

Muslim ibn Ibra>him menceritakan kepada kami, Syu`bah menceritakan kepada kami, dari A<sim al-Ahwal dan KIlha>lid , dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., "Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan salam, beliau tidak duduk selain seukuran membaca bacaan "*allaahumma antas salaam, waminkas salaam, tabaarakta dzal jalaalil wal ikraami* (Ya Allah, Engkau adalah Dzat Pemberi keselamatan, dan dari-Mulah segala keselamatan, Maha Besar Engkau Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan)." HR. Abu> Da>wud.

3. Riwayat al-Turmuzi>.

275 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁷⁸ رواه الترمذي

⁷⁷ Abi> Da>wud. *Sunan Abi> Dawud*, , juz IV, h. 308. nomor hadis 1292.

⁷⁸ al-Turmuzi>, *Sunan al-Turmuzi>*, juz II, h. 4. nomor hadis 275.

Artinya:

Ahmad ibn Mani' menceritakan kepada kami, Abu> Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari ʿisyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. al-Turmuzi.

4. Riwayat al-Nasa>'i>

1321 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁷⁹ رواه النسائي

Artinya:

Muhammad ibn al-Ala>' dan Muhammad ibn Ibra>him ibn Sadra>n menceritakan kepada kami, dari Kha>lid, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. al-Nasai.

5. Riwayat Ibn Ma>jah.

914 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁸⁰ رواه ابن ماجه

Artinya:

Abu> Bakar bin Abi> Syaibah menceritakan kepada kami, Abu> Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya

⁷⁹ al-Nasa>'i> *Sunan al-Nasa`a`>'i>*, juz V, h. 143. nomor hadis 1321.

⁸⁰ Ibn Ma>jah. *Sunan Ibn Ma>jah*., juz III, h. 178. nomor hadis 914.

Rasulullah saw., apabila salam.... mengucapkan: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. Ibn Ma>jah.

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

23202 - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁸¹ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufya>n dari A<sim ibn Sulaima>n, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam.... mengucapkan: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. Ahmad ibn Hanbal.

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

24332 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁸² رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Ali> ibn A<sim menceritakan kepada kami, dari al-Hadda>'i>, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah Ummil Mu'minin berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam.... mengucapkan: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. Ahmad bin Hanbal .

8. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

24787 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَعْدَ

⁸¹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz, 49. h. 358 , nomor hadis 23202

⁸² Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz, 49. h. 358 , nomor hadis 24332.

صَلَاتِهِ إِلَّا قَدَرَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁸³ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Yazid ibn Ha>ru>n menceritakan kepada kami berkata; A<sim ibn al-Ahwal menceritakan kepada kami, dari Abi al-Wali>d, dari dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ahmad bin Hanbal.

9. Riwayat al-Da>rimi>.

1398 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ - هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يَجْلِسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَّا قَدَرَ مَا يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».⁸⁴ رواه الدارمي

Artinya:

Yazid ibn Ha>ru>n menceritakan kepada kami berkata; A<sim ibn al-Ahwal menceritakan kepada kami, dari Abi al-Wali>d, dari dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR.al-Da>rimi>

10. Riwayat Ibn Abi> Syaibah.

(6) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام.⁸⁵ رواه ابن ابي شيبه

Artinya:

⁸³ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 52 h. 444, nomor hadis 24787.

⁸⁴ al-Da>rimi. Sunan al-Da>rimi>, juz IV, h. 151. nomor hadis 1398.

⁸⁵ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, juz I, h. 336. nomor hadis 6.

Abu> Mu'a>wiyah menceritakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ibn Abi Syaibah.

11. Riwayat Ibn Abi> Syai>bah.

(7) حدثنا أبو معاوية عن عوسجة بن الرماح عن ابن أبي الهذيل عن ابن مسعود قال : كان رسول الله ﷺ إذا سلم لم يجلس إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.⁸⁶ رواه ابن أبي شيبة

Artinya:

Abu> Mu'a>wiyah menceritakan kepada kami, dari Awsajah ibn al-Rima>h, dari Abi> al-Huzail dari Ai> Mas'ud berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ibn Abi> Syaibah.

12. Riwayat Ibn Abi> Syai>bah.

(77) ماذا يقول الرجل إذا انصرف حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن نمير قال : حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرة قال : حدثني شيخ عن صهيب بن زفر قال : سمعت ابن عمر يقول في دبر الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.⁸⁷ رواه ابن أبي شيبة

Artinya:

Abu> Bakar menceritakan kepada kami berkata; Abdullah ibn Numair menceritakan kepada kami, berkata; al-A'masy menceritakan kepada kami dari Amr ibn Murrat berkata; Syaikh menceritakan kepada kami dari Suhaib ibn Zafir berkata; aku mendengar Ibn Umar berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ibn Abi> Syaibah.

⁸⁶ Ibn Abi> Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, juz I, h. 336. nomor hadis 7

⁸⁷ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, juz I, h. 337. nomor hadis 77.

13. Riwayat Ibn Abi> Syai>bah.

(6) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عوسجة عن أبي الهذيل عن عبد الله عن عاصم عن عبد الله بن حرب عن عائشة أن : النبي ﷺ كان يقول : (اللهم أنت السلام ومنك السلام) إلا أن في حديث عبد الله (وإليك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام).⁸⁸ رواه ابن ابي شيبه

Artinya:

Abu> Mu'a>wiyah menceritakan kepada kami, dari Asim, dari Awsajah, dari Abi al-Huzail, dari Abd Allah, dari A<sim, dari Abdullah ibn Harb dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ibn Abi> Syaibah.

14. Riwayat Ibn Abi Syaibah.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن محمد بن سعيد عن أبيه أن عمر لما دخل البيت قال : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا ربنا بالسلام.⁸⁹ رواه ابن ابي شيبه

Artinya:

Abu> Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami,berkata; Waki'menceritakan kepada kami, dari Amri dari Muhammad ibn Sa'id dari Bapaknya sesungguhnya Umar ketika masuk al-Bait mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m fahayyina rabba>na bi al-sala>m.. HR. Ibn Abi Syaibah.

15. Riwayat Ibn Abi Syabah.

(10) حدثنا ابن نمير حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرة قال : حدثني شيخ عن صلة بن زفر قال : سمعت ابن عمر يقول في دبر الصلاة :

⁸⁸ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, juz I, h. 338. nomor hadis 6

⁸⁹ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, juz IV, h. 541. nomor hadis 5

" اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والاكرام
".⁹⁰ رواه ابن ابي شيبة

Artinya:

Ibn Numair menceritakan kepada kami, Al-A'masy menceritakan kepada kami, dari Amr ibn Murrat berkata; Syaikh menceritakan kepadaku dari Silat ibn Zafar berkata; aku mendengar Ibn Umar berkata; setelah salat Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR.. Ibn Abi Syaibah.

16. Riwayat Ibn Abi Syaibah.

(2) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا دخل المسجد : الكعبة ، ونظر إلى البيت قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام.⁹¹ رواه ابن ابي شيبة

Artinya:

Abdat ibn Sulaima>n menceritakan kepada kami, dari Yahya ibn Sa'i>d, dari Sa'i>d ibn al-Musayyab sesungguhnya apabila ia masuk mesjid, Ka'bah, atau melihat baitullah mengucapkan: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m fahayyina rabba>na bi al-sala>m*. HR. Ibn Abi Syaibah.

17. Riwayat Ibn Abi Syaibah.

(4) حدثنا وكيع عن العمري عن محمد بن سعيد عن أبيه أن عمر كان إذا دخل البيت قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام.⁹² رواه ابن ابي شيبة

Artinya:

Waki' menceritakan kepada kami, dari Amri dari Muhammad ibn Sa'id dari Bapaknya sesungguhnya Umar ketika masuk al-Bait mengucapkan: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-*

⁹⁰ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, juz V, h. 38. nomor hadis 10.

⁹¹ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, juz V, h.102. nomor hadis 2

⁹² Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, juz VII, h. 103. nomor hadis 4

sala>m fahayyina rabba>na bi al-sala>m. HR. Ibn Abi Syaibah.

18. Riwayat al-Baihaqi>

(أخبرنا) أبو طاهر محمد بن محمد بن محمّش الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عاصم عن أبي الوليد هو عبد الله بن الحارث عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ لا يجلس بعد الصلوة الا بقدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام.⁹³ رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Ta>hir Muhammad ibn Muhammad menceriterakan kepada kami, Abu> Ha>mid Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya al-Bazza>r menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn Abdullah menceriterakan kepada kami, Yazid ibn Ha>ru>n memberitakan kepada kami, A<sim memberitakan kepada kami, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah ra.berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam. mengucapkan: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m.* HR. Al-Baihaqi>.

19. Riwayat al-Baihaqi>

(أخبرنا) أبو سعيد بن ابى عمرو أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد بن المسيب قال كان سعيد إذا حج فرأى الكعبة قال اللهم انت السلام ومنك السلام حيناً ربنا بالسلام.⁹⁴ رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Sa'id ibn Abi Amr menceriterakan kepada kami, Abu> Abdullah Muhammad ibn Ya'qu>b al-Syaiba>ni> menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Abd al-Wahhab menceriterakan kepada kami, Ja'far ibn Awn memberitakan kepada kami, Yahya ibn Sa'id memberitakan kepada kami, dari Muhammad ibn Sa'id ibn al-Musayyab berkata; sesungguhnya Sa'id apabila ia haji dan melihat Ka'bah membaca: *Allahumma*

⁹³ al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, juz II, h. 183.

⁹⁴ al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, juz V, h. 83.

anta al-sala>m wa minka al-sala>m hayyina rabba>na bi al-sala>m. HR. al-Baihaqi>

20. Riwayat al-Ha>ris.

(186) حدثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية ثنا عوسجة عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كان رسول الله ﷺ إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام.⁹⁵ رواه الحارث

Artinya:

Abu> al-Nasr menceritakan kepada kami, Abu> Mu'a>iyah menceritakan kepada kami, Awsajah menceritakan kepada kami dari Abdullah ibn Abi al-Huzail berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Ha>ris.

21. Riwayat Abd al-Razza>q.

عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم الاحول عن عبد الرحمن بن عوسجة عن عبد الرحمن بن الرماح عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ إذا قضى صلاته قال : اللهم ! أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والاکرام.⁹⁶ رواه عبد الرزاق

Artinya:

Abdu al-Razza>q dari Ibn Uyainah, dari Asim ibn al-Ahwal dari Abd al-Rahma>n ibn Awsajah dari Abd al-Rahma>n ibn al-Rima>h dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Abd al-Razza>q.

22. Riwayat al-Nasa>'>i>

(1261) أخبرنا محمد بن عبد الاعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدران عن خالدنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام.⁹⁷ رواه النسائي

⁹⁵ al-Ha>ris. *Bugyat al-Ha>ris*, juz I, h. 67. nomor hadis 186.

⁹⁶ Abd al-Razza>q. *Musannaf Abd al-Razza>q*, juz II, h. 237.

⁹⁷ al-Nasa>'>i>. *Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'>i>*, juz I, h. 398. nomor hadis 1291.

Artinya:

Muhammad ibn Abdu al-A'la dan Muhammad ibn Ibra>him ibn Sadra>n menceriterakan kepada kami, dari Kha>lid, Syu'bah menceriterakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Nasa'>'i>

23. Riwayat al-Nasa'>'i>

(7717) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد قال ثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام ذو العزة.⁹⁸ رواه النسائي

Artinya:

Muhammad ibn Abdu al-A'la menceriterakan kepada kami, Kha>lid menceriterakan kepada kami, Syu'bah menceriterakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m zu> al-Izzat. HR. al-Nasa'>'i>

24. Riwayat al-Nasa'>'i>

(9922) أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عاصم عن رجل يقال له عبد الرحمن بن الرماح عن عبد الرحمن بن عوسجة أحدهما عن الآخر عن عائشة ان النبي ﷺ كان إذا قضى الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام.⁹⁹ رواه النسائي

Artinya:

Ahmad ibn Harb menceriterakan kepada kami, Sufya>n menceriterakan kepada kami, dari A<sim, dari rajul Abd al-Rahma>n ibn al-Rima>h, dari Abd al-Rahma>n ibn Awsajah,

⁹⁸ al-Nasa'>'i>, *Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i* juz IV, h. 409. nomor hadis 7717

⁹⁹ al-Nasa'>'i>. *Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i* juz VI, h. 28. nomor hadis 9922.

dari al-A<khir dari A<isyah berkata; sesungguhnya Nabi saw., apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. al-Nasa`>'i>

25. Riwayat al-Nasa`>'i>

(9923) أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عاصم عن أبي الوليد عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة الا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام.¹⁰⁰ رواه النسائي

Artinya:

Ahmad ibn Sulai>ma>n menceritakan kepada kami, berkata; Yazid menceritakan kepada kami berkata; A<sim memberitakan kepada kami, dari al-Walid dari Aisyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. al-Nasa`>'i>

26. Riwayat al-Nasa>'i

(9924) أخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاکرام.¹⁰¹ رواه النسائي

Artinya:

Muhammad ibn Abdu al-A'la menceritakan kepada kami, Kha>lid menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. al-Nasa`>'i>

27. Riwayat al-Nasa>'i

¹⁰⁰ al-Nasa`>'i. *Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i*, juz VI, h. 28. nomor hadis 9923.

¹⁰¹ al-Nasa`>'i. *Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i* > juz VI, h. 28. nomor hadis 9923.

(9925) أخبرني عبد الله بن الهيثم بن عثمان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عاصم وخالد عن عبد الله بن الحارث عن عائشة ان النبي ﷺ كان إذا سلم من صلاته قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاکرام.¹⁰² رواه النسائي

Artinya:

Abdullah ibn al-Khaisam ibn Usman menceriterakan kepadaku, Muslim ibn Ibrahim menceriterakan kepada kami, Syu'bah menceriterakan kepada kami, dari Asim dan Khalid, dari Abd Allah ibn al-Haris, dari Asiyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram*. HR. al-Nasai

28. Riwayat al-Nasai

(10198) أخبرنا إسحاق بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا معاوية وهو بن عمرو قال حدثنا إسرائيل عن عاصم الاحول عن عوسجة بن الرماح عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله ﷺ إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام.¹⁰³ رواه النسائي

Artinya:

Ishaq ibn Ya'qub ibn Ishaq berkata; menceriterakan kepadaku, Mu'awiyah menceriterakan kepada kami, Isra'il menceriterakan kepada kami, dari Asim al-Ahwal, dari Awsajah ibn al-Rimah dari Abd Allah ibn Abi al-Huzail, dari Abdullah ibn Mas'ud berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram*. HR. al-Nasai

(10199) حدثنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ إذا سلم في

¹⁰² al-Nasai *Sunan al-Kubra li al-Nasai* juz VI, h. 29. nomor hadis 9934.

¹⁰³ al-Nasai *Sunan al-Kubra li al-Nasai*, juz VI, h. 99. nomor hadis 10198

الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاکرام.¹⁰⁴ رواه النسائي

Artinya:

Ahmad ibn Harb menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari A<sim, dari Abdullah ibn al-Ha>ris dari A<isyah berkata; sesungguhnya Nabi saw., apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. al-Nasa`>'i>

29. Riwayat Azraqi

322 - حدثنا جدي ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن طريف ، عن حميد بن يعقوب ، عن ابن المسيب قال : سمعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة ما بقي أحد ممن سمعها منه غيري سمعته يقول حين رأى البيت : « اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ».¹⁰⁵ رواه ازرقى

Artinya:

Jaddi> menceritakan kepada kami berkata; Sufya>n ibn Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ibra>him ibn Tari>f, dari dari Humai>d ibn Ya'qu>b, dari Ibn al-Musayyab berkata; Aku mendengar dari Umar ibn Khattab ra berkata; sesungguhnya dia berdoa; *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m fahayyina> rabba>na bi al-sala>m*. HR. Arza>qi>.

30. Riwayat Azraqi>.

323 - حدثني جدي ، قال : حدثنا مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : كان عمر بن الخطاب إذا رأى البيت قال : « اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ».¹⁰⁶ رواه ازرقى

Artinya:

Jaddi> menceritakan kepada kami berkata;, Muslim ibn Kha>lid menceritakan kepada kami, dari Ibn Juraij berkata; Yahya ibn Sa'i>d menceritakan kepadaku, dari Sa'i>d ibn al-

¹⁰⁴ al-Nasa`>'i Sunan al-Kubra> li al-Nasa`>'i juz VI, h. 99. nomor hadis 10198

¹⁰⁵ Azraqi>. *Akhbar Makkah li Israqi*, juz I, h. 378. nomor hadis 322.

¹⁰⁶ *Akhba>r Makkah li Israqi*, juz I, h. 379. nomor hadis 323

Musayyab berkata; sesungguhnya Umar ibn Khatta>b apabila ia melihat Baitullah ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m fahayyina> rabba>na bi al-sala>m. HR. Arza>qi>.

31. Riwayat Azraqi>

326 - حدثني جدي ، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج ، قال : أخبرني غالب بن عبد الله ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان إذا نظر إلى البيت قال : « اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام »¹⁰⁷ . رواه ازرقى .

Artinya:

Jaddi> menceritakan kepadaku, dari Sa'id ibn Sa>lim, dari Usma>n ibn Sa>ji berkata; Ga>lib ibn Abdullah menceritakan kepadaku, dari Sa'i>d ibn al-Musayyab berkata; sesungguhnya Umar ibn Khatta>b apabila ia melihat Baitullah ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m fahayyina> rabba>na bi al-sala>m. HR. Arza>qi>.

32. Riwayat al-Tabra>ni>

2175 - حدثنا أحمد ، قال نا جابر بن كردي الواسطي قال : نا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال : نا قيس بن الربيع ، عن المقدم بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان النبي ﷺ إذا سلم من الصلاة قال : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام »¹⁰⁸ . رواه الطبراني .

Artinya:

Ahmad menceritakan kepada kami berkata; Ja>bir menceritakan kepada kami berkata; Yahya ibn Isha>q menceritakan kepada kami berkata; Qais ibn al-Rabi` menceritakan kepada kami, dari al-Muqadda>m ibn Suraih, dari Bapaknya, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Nabi saw.,

¹⁰⁷ Azraqi>. *Akhba>r Makkah li Israqi>*, juz I, h. 382. nomor hadis 326

¹⁰⁸ al-Tabra>ni>. *Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni>*, juz V, h. 134. nomor hadis 2175.

apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Muslim.

33. Riwayat al-Tabra>ni>

3431 - حدثنا بكر بن محمد القزاز البصري قال : نا عبد الله بن معاوية الجمحي قال : نا وهيب بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يجلس بعدما يسلم حتى يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام »¹⁰⁹ رواه الطبراني.

Artinya:

Bakar ibn Muhammad menceriterakan kepada kami berkata; Abdullah ibn Mu`a>wiyah menceriterakan kepada kami berkata; Wuhaib ibn Kha>lid menceriterakan kepada kami, dari Hisya>m ibn Urwat, dari Bapaknya, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Tabra>ni>.

34. Riwayat al-Tabra>ni>

4756 - حدثنا عبدان بن أحمد قال : نا هشام بن عمار قال : نا إسماعيل بن عياش ، عن عتبة بن حميد ، عن خالد الحذاء ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عائشة ، قالت : كان النبي ﷺ إذا انصرف من صلاته يقول : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ».¹¹⁰ رواه الطبراني

Artinya:

Abda>n ibn Ahmad menceriterakan kepada kami berkata; Hisya>m ibn Amma>rah menceriterakan kepada kami berkata; Isma`i>l ibn Ayya>s menceriterakan kepada kami, dari Utbah ibn Humaid, dari Kha>lid al-Khadda>`i, dari A<sim al-Ahwal, dari Abdullah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Nabi saw., apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Tabra>ni>.

¹⁰⁹ al-Tabra>ni>. *Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni>*, juz V, h. 401. nomor hadis 3431.

¹¹⁰ al-Tabra>ni>. *Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni>*, juz X, h. 311. nomor hadis 4756

35. Riwayat al-Tabra>ni.

307 - حدثنا بكر بن محمد القزاز أبو عمر البصري المعدل ، حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ، حدثنا وهيب بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يجلس بعدما يسلم حتى يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام .¹¹¹ رواه الطبراني

Artinya:

Bakar ibn Muhammad menceritakan kepada kami berkata; Abdullah ibn Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami berkata; Wuhaib ibn Kha>lid menceritakan kepada kami, dari Hisya>m ibn Urwat, dari Bapaknya, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Tabra>ni>.

36. Riwayat Abi> Awa>nah.

1634 - حدثنا أبو علي الزعفراني قال : ثنا مروان بن معاوية ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله ﷺ لا يقعد بعد التسليم إلا قدر ما يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام .¹¹² رواه ابي عوانة

Artinya:

Abu> Ali> menceritakan kepada kami berkata; Marwa>n ibn Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, dari A<sim al-Ahwal, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Abi> Awa>nah.

37. Riwayat Abi> Awa>nah.

¹¹¹ al-Tabra>ni>. *Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni>*, juz I, h. 327. nomor hadis 307

¹¹² Abi> Awa>nah. *Mustakhraj Abi> Awa>nah*, juz IV, h. 392. nomor hadis 1634.

1635 - حدثنا الصغاني ، وأبو أمية قالا : ثنا روح بن عباد قال : ثنا شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عائشة ، أن رسول الله ﷺ كان إذا سلم قال : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ».¹¹³ رواه أبي عوانة

Artinya:

Al-Saga>ni> dan Abu> Umayyah menceriterakan kepada kami berkata; Ruh ibn Uba>dah menceriterakan kepada kami, dari Syu'bah dari A<sim al-Ahwal, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. Abi> Awa>nah.

38. Riwayat Abi> Awa>nah.

1636 - حدثنا محمد بن إسحاق السجزي قال : ثنا الفريابي قال : ثنا سفیان ، عن عاصم بن سليمان ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عائشة ، أن النبي ﷺ كان يقول بعد ما يسلم : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ».¹¹⁴ رواه أبي عوانة

Artinya:

Muhammad ibn Isha>q menceriterakan kepada kami berkata; al-Faryabi> menceriterakan kepada kami, dari A<sim ibn Sulaiman, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. Abi> Awa>nah.

39. Riwayat Abi Ya`la.

4598 - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : كانوا يحبون إذا قضى الرجل

¹¹³ Abi> Awa>nah. *Mustakhraj Abi> Awa>nah*, juz IV, h. 393. nomor hadis 1635

¹¹⁴ Abi> Awa>nah. *Mustakhraj Abi> Awa>nah*, juz IV, h. 394. nomor hadis 1636

الصلاة أن يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام . تباركت يا ذا الجلال والإكرام » .¹¹⁵ رواه ابي يعلي

Artinya:

Abdullah ibn al-A'la> menceriterakan kepada kami, Kha>lid ibn Abdullah menceriterakan kepada kami, dari Abi> Sina>n , dari Abdullah ibn Abi> al-Huzai>l berkata; sesungguhnya apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. Abi> Ya`la.

40. Riwayat Ibn Hibba>n.

2034 - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان ، بالرقعة ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا مروان بن معاوية ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث الأنصاري ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله ﷺ لا يقعد بعد التسليم إلا قدر ما يقول : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام » .¹¹⁶ رواه ابن حبان

Artinya:

Al-Husain ibn Abdullah menceriterakan kepada kami, Hisya>m ibn Amma>r menceriterakan kepada kami berkata; Marwa>n ibn Mu'a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari A<sim al-Ahwal, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. Ibn Hibba>n.

41. Riwayat Ibn Hibba>n.

2035 - أخبرنا شباب بن صالح ، بواسط ، قال : حدثنا وهب بن بقية ، قال : أخبرنا خالد ، عن خالد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله ﷺ إذا سلم قال : « اللهم أنت السلام

¹¹⁵ Abi> Ya`la. *Musnad Abi> Ya`la> al-Mawsuli>*, juz IX, h. 483. nomor hadis 4598.

¹¹⁶ Ibn Hibba>n. *Sahi>h Ibn Hibba>n*, juz VIII, h. 488. nomor hadis 2034.

، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام .¹¹⁷ رواه ابن حبان

Artinya:

Syaba>b ibn Sa>lih memberitakan kepada kami berkata; Wahab ibn Baqiyat menceriterakan kepada kami, Khalid memberitakan kepada kami, dari Khalid dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari ʿisyah berkata; sesungguhnya apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. Ibn Hibba>n.

42. Riwayat Ibn Hibba>n.

2036 - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا محمد بن الصباح الدولابي ، منذ ثمانين سنة ، قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن عاصم الأحول ، عن عوسجة بن الرماح ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن ابن مسعود ، قال : كان رسول الله ﷺ لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام » .¹¹⁸ رواه ابن حبان

Artinya:

Abu Ya'la> menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn al-Sabba>h menceriterakan kepada kami, Isma'ʿil ibn Zakariya> menceriterakan kepada kami, dari A<sim al-Ahwal, dari Awsajah ibn al-Rima>h dari Abdullah ibn Abi al-Huzai>l, dari Abi> Mas'ud berkata; sesungguhnya apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. Ibn Hibba>n.

43. Riwayat Ibn Huzaimah.

713 - نا يعقوب الدورقي ، نا أبو معاوية ، عن عاصم الأحول ، عن عوسجة بن الرماح ، عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله ﷺ إذا سلم في الصلاة لا يجلس إلا

¹¹⁷ Ibn Hibba>n. *Sahi>h Ibn Hibba>n*, juz VIII, h. 490. nomor hadis 2035

¹¹⁸ Ibn Hibba>n. *Sahi>h Ibn Hibba>n*, juz VIII, h. 492. nomor hadis 2036.

مقدار ما يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ». ¹¹⁹ رواه ابن خزيمة

Artinya:

Ya'qu>b al-Dauraqi> menceritakan kepada kami, Abu> Mu'a>wiyah menceritakan kepada kami, dari A<sim al-Ahwal, dari Awsajah ibn al-Rima>h dari Abdullah ibn Abi al-Huzai>l, dari Abi> Mas'ud berkata; sesungguhnya apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. Ibn Huzaimah

44. Riwayat al-Baihaqi>

991 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال : حدثنا محمد بن أبي بكر قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عائشة ، أن النبي ﷺ ، كان إذا سلم من صلاته قال : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ¹²⁰ رواه البيهقي

Artinya:

Abu> al-Hasan Ali ibn Muhammad> menceritakan kepada kami, al-Hasan ibn Muhammad ibn Isha>q menceritakan kepada kami, Yusuf ibn Ya'qu>b berkata; Muhammad ibn Abi> Bakar menceritakan kepada kami, Abd al-Wahha>b menceritakan kepada kami, dari Halid, dari Abdllah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Nabi saw., apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. al-Baihaqi>

45. Riwayat al-Baihaqi>

3011 - وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن سعيد بن المسيب ، عن أبيه : أنه كان

¹¹⁹ Ibn Huzaimah. *Sahih Ibn Huzaimah*, juz III, h. 201. nomor hadis 713.

¹²⁰ al-Baihaqi *Ma`rifat al-Sunnah wa al-A<sar li al-Baihaqi>*, juz III, h. 173. nomor hadis 991

حين ينظر إلى البيت ، يقول : اللهم « أنت السلام ، ومنك السلام ،
فحيناً ربنا بالسلام ». ¹²¹ رواه البيهقي

Artinya:

Al-Syafi'i> menceritakan kepada kami, Ibn Uyainah menceritakan kepada kami, dari Yahya ibn Sa'i>d, dari Muhammad ibn Sa'i>d ibn al-Musayyab, dari Bapaknya berkata; sesungguhnya apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m fahayyina rabba>na bi al-sala>m*. HR. al-Baihaqi>

46. Riwayat al-Taya>lisi>

367 - حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني عاصم ، عن عوسجة ، عن ابن أبي الهذيل ، عن ابن مسعود ، قال : كان يقول إذا سلم : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ¹²² رواه الطيالسي

Artinya:

Abu> Da>wud menceritakan kepada kami berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami berkata, A<sim al-Ahwal menceritakan kepadaku, dari Awsajah ibn al-Rima>h dari Abdullah ibn Abi al-Huzai>l, dari Abi> Mas'ud berkata; sesungguhnya apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. al-Taya>lisi>

46. Riwayat al-Taya>lisi>

1651 - حدثنا يونس قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا ثابت أبو زيد ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عائشة ، قالت : ما كان رسول الله ﷺ ينتظر إذا سلم من الصلاة إلا أن يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ». ¹²³ رواه الطيالسي

Artinya:

¹²¹ Abi> Awa>nah, *Mustakhraj Abi> Awa>nah*, juz IV, h. 393. nomor hadis 1635

¹²² al-Taya>lisi>. *Musnad al-Taya>lisi>*, juz II, h. 382. nomor hadis 367.

¹²³ al-Taya>lisi. *Musnad al-Taya>lisi>*, , juz IV, h. 442. nomor hadis 1651.

Yunu>s menceriterakan kepada kami, Abu> Da>wud menceriterakan kepada kami, Sa>bit Abu Zaid menceriterakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata; sesungguhnya apabila salam ia berdoa: *Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m*. HR. al-Taya>lisi>

2. Hadis tentang Z[ikir *Astagfirullah* al-Azim Allazi> La> Ila>ha Illa Huwa al-Hayyul Qayyum.

1. Riwayat al-Turmuzi>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَسَارَ بْنَ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنْ الرَّحْفِ. ¹²⁴ رواه الترميذي

Artinya:

Muhammad bin Isma>'il menceriterakan kepada kami, Mu>sa bin Isma>'il menceriterakan kepada kami, Hafs bin Umar al-Sysyanni>yyu menceriterakan kepada kami, Abi> Umar bin Murrat menceriterakan kepadaku,berkata; aku mendengar Bila>l bin Yassa>r bin Zaid Maula al-Nabi> saw., Bapakku menceriterakan kepadaku dari nenekku mendengar Nabi saw., bersabda: Baransiapa yang mengucapkan *astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m wa atu>bu ilaih*. Maka diampunkan baginya sekalipun ia telah lari dari peperangan. ... HR. al-Turmuzi>

2. Riwayat Abu> Da>wud.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ الشَّيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَسَارَ بْنَ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُنِيهِ عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ

¹²⁴ Al-Turmuzi>, *Sunan al-TurmuzI*, nomor hadis 3501.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنْ الرَّحْفِ.¹²⁵ رواه ابوداود

Artinya:

Mu>sa bin Isma>'il menceriterakan kepada kami, Hafs bin Umar al-Sysyanni>yyu menceriterakan kepada kami, Abi> Umar bin Murrat menceriterakan kepadaku,berkata; aku mendengar Bila>l bin Yassa>r bin Zaid Maula al-Nabi> saw., Bapakku menceriterakan kepadaku dari nenekku mendengar Nabi saw., bersabda: Baransiapa yang mengucapkan *astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m wa atu>bu ilaih*. Maka diampunkan baginya ... HR. Abi> Da>wud.

3. Riwayat al-Ha>kim

1838 - أنبأنا بكر بن محمد الصيرفي ، ثنا أحمد بن عبيد الله النرسي ، ثنا محمد بن سابق ، ثنا إسرائيل ، عن أبي سنان ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، وأتوب إليه ثلاثا ، غفرت له ذنوبه ، وإن كان فارا من الزحف .¹²⁶ رواه الحاكم

Artinya:

Bakar ibn Muhammad memberitakan kepada kami, Ahmad ibn Ubaidullah menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Sa>biq menceriterakan kepadaku,berkata; Isra>'il menceriterakan kepada kami, dari Abi> Sinan dari Abi al-Ahwas, dari Ibn Mas'ud ra; Rasullah saw., bersabda; Baransiapa yang mengucapkan *astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m wa atu>bu ilaih*. Maka diampunkan baginya sekalipun ia telah lari dari peperangan... HR. al-Ha>kim.

4. Riwayat al-Ha>kim

2503 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي ، ثنا محمد بن يوسف الفريابي ، ثنا إسرائيل ، عن أبي سنان ،

¹²⁵ Ab- Da>wud. *Sunan Abi> Da>wud*, nomor hadis 1397.

¹²⁶ Al-Ha>kim, *al-Mustadrak ala al-Sahi>hai>n li al-Hakim*, juz IV, h. 431, nomor hadis 1838.

عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، وأتوب إليه ، ثلاثا غفرت ذنوبه ، وإن كان فارا من الزحف » « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »¹²⁷. رواه الحاكم

Artinya:

Abu> al-Abba>s Muhammad ibn Ya'qu>b memberitakan kepada kami, Muhammad ibn ibn Maimau>n menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Yu>suf menceriterakan kepadaku, berkata; Isra>'il menceriterakan kepada kami, dari Abi> Sinan dari Abi al-Ahwas, dari Ibn Mas'ud ra; Rasulullah saw., bersabda; Baransiapa yang mengucapkan *astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m wa atu>bu ilaih*. Maka diampunkan baginya ... HR. al-Ha>kim.

5. Riwayat al-Tabra>ni>.

4537- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّيْبِيُّ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ ، عَنْ جَدِّي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرًّا مِنَ الزَّحْفِ .¹²⁸ . رواه الطبراني

Artinya:

Al-Abba>s ibn al-Fadl menceriterakan kepada kami, Mu>sa bin Isma>'il menceriterakan kepada kami, Hafs bin Umar al-Sysyanni>yyu menceriterakan kepada kami, Umar bin Murrat menceriterakan kepadaku, berkata; aku mendengar Bila>l bin Yassa>r bin Zaid Maula al-Nabi> saw., Bapakku menceriterakan kepadaku dari nenekku mendengar Nabi saw., bersabda: Baransiapa yang mengucapkan *astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m wa*

¹²⁷ Al-Ha>kim, *al-Mustadrak ala al-Sahihain li al-Ha>kim*, juz VI, h. 155, nomor hadis 2503.

¹²⁸ al-Tabra>ni>, *al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni*, juz IV, h.486 , nomor hadis 4537.

atu>bu ilaih. Maka diampunkan baginya ... HR. al-Tabra>ni>.

6. Riwayat al-Tabra>ni>

8463 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّائِغِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا خُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "لَا يَقُولُ رَجُلٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا".¹²⁹ رواه الطبراني

Artinya:

Muhammad ibn al-Sa>igh menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Mansu>r menceriterakan kepada kami, Hudaij ibn Mu'a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari Abi Isha>q, dari Abd al-Rahma>n, ibn Abd Allah, dari Abdullah ibn Mas'u>d berkata; tidak berkata seorang laki-laki *astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m wa atu>bu ilaih tiga kali* . Maka diampunkan baginya ... HR. al-Tabra>ni>.

7. Riwayat al-Tabra>ni>

7954 - حدثنا محمد بن يعقوب ، نا يعقوب بن إسحاق ، نا علي بن حميد ، نا عمر بن فرقد البزار ، عن عبد الله بن المختار ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال دبر (1) كل صلاة : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ، وإن فر من الزحف .¹³⁰ رواه الطبراني

Artinya:

Muhammad ibn Ya'qu>b menceriterakan kepda kami, Ya'qu>b ibn Isha>q menceriterakan kepada kami, Ali ibn Humaid menceriterakan kepada kami, Umar ibn Farqad dari Abdulllah ibn al-Mukhtar dari Abi Ishaq dari al-Barra>'i> berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan *astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m wa atu>bu ilaih*. Maka diampunkan baginya ... HR. al-Tabra>ni>.

¹²⁹ al-Tabra>ni>, *al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni*, juz VII, h. 500, nomor hadis 8436.

¹³⁰ al-Tabra>ni, *al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>n*, juz IV, h. 30, nomor hadis 7954

8. Riwayat al-Tabra>ni>.

840 - حدثنا محمد بن يعقوب الأهوازي الخطيب ، حدثنا يعقوب أبو يوسف القلوسي ، حدثنا علي بن حميد الذهلي ، حدثنا عمرو بن فرقد القزاز ، عن عبد الله بن المختار ، عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال دبر كل صلاة : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، وأتوب إليه غفر له ، وإن كان فر من الزحف.¹³¹ رواه الطبراني

Artinya:

Muhammad ibn Ya'qu>b menceriterakan kepada kami, Ya'qu>b Abu> Yusu>f menceriterakan kepada kami, Ali ibn Humaid menceriterakan kepada kami, Amr ibn Farqad dari Abdullah ibn al-Mukhtar dari Abi Ishaq dari al-Barra>'i> berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan *astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m wa atu>bu ilaih*. Maka diampunkan baginya ... HR. al-Tabra>ni>.

9. Riwayat Abu> Nuai>m al-Asbaha>ni>

2519 - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حفص بن عمر الشني ، حدثني عمر بن مرة ، قال : سمعت بلال بن يسار بن زيد ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : سمعت أبي يحدث ، عن جدي ، أن رسول الله ﷺ قال : « من قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو ، وأتوب إليه ، غفر له وإن كان فر من الزحف.¹³² رواه ابي نعيم الا صبهاني

Artinya:

Sulaiman ibn Ahmad menceriterakan kepada kami, al-Abbas ibn al-Fadl menceriterakan kepada kami, Mu>sa bin Isma>'il menceriterakan kepada kami, Hafs bin Umar al-Sysyanni>yyu menceriterakan kepada kami, Umar bin Murrat menceriterakan kepadaku, berkata; aku mendengar Bila>l bin Yassa>r bin Zaid Maula al-Nabi> saw., Bapakku menceriterakan kepadaku dari

¹³¹ al-Tabra>ni, *al-Mu`jam al-Sagi>r li al-Tabra>ni*, juz II, h. 480, nomor hadis 840.

¹³² Abi> Nuai>m al-Asbaha>ni>, *Ma`rifat al-Saha>bah li Abi Nuaim al-Asbaha>ni>*, , juz VIII, h. 147, no.hadis 2519.

nenekku mendengar Nabi saw., bersabda: Baransiapa yang mengucapkan *astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m wa atu>bu ilaih*. Maka diampunkan baginya ... HR. Abu> Nuai>m al-Asbaha>ni>.

3. Hadis Tentang Kelaziman Zikir beristigfa>r.

1. Riwayat Abu> Da>wud.

1297 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.¹³³ رواه ابو داود

Artinya:

Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, al-Hakam bin Mus'ab menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Abd Allah bin Abbas menceritakan kepada kami, dari Bapaknya, dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang senantiasa beristigfar, Allah menjadikan baginya dari setiap kesempitan ada jalan keluar dari segala kedukaan ada kegembiraan, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. HR. Abu> Da>wud.

2. Riwayat Ibn Ma>jah.

3809 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.¹³⁴ رواه ابن ماجه

Artinya:

Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, al-Hakam bin

¹³³ Abu> Da>wud. *Sunan Abi> Da>wud*, juz IV, h. 314, nomor hadis 1297.

¹³⁴ Ibn Ma>jah. *Sunan Ibn Ma>jah*, juz XI, h. 266, nomor hadis 3809.

Mu's`ab menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Abd Allah bin Abba>s menceritakan kepada kami, dari Bapakny, dari Ibn Abba>s berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang senantiasa beristigfa>r, Allah menjadikan baginya dari setiap kesempitan ada jalan keluar dari segala keduakaan ada kegembiraan, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. HR.Ibn Ma>jah.

3. Riwayat al-Baihaqi>

(اخبرنا) علي بن احمد بن عبدان انبا احمد بن عبيد الصفار ثنا اسمعيل بن الفضل ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد هو ابن مسلم ثنا الحكم هو ابن مصعب ثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه انه حدثه عن ابيه عبد الله بن عباس قال قال رسول الله ﷺ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.¹³⁵ رواه البيهقي

Artinya:

Ali> bin Ahmad bin Abda>n memberitakan kepada kami, Ahmad bin Ubaid al-Saffa>r memberitakan kepada kami, Isma>'i>l bin al-Fadl menceritakan kepada kami, Hisya>m bin Amma>r menceritakan kepada kami, al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, al-Hakam bin Mus`ab menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Abd Allah bin Abba>s menceritakan kepada kami, dari Bapakny, dari Ibn Abba>s berkata: Rasulullah saw., bersabda:Barangsiapa yang senantiasa beristigfa>r, Allah menjadikan baginya dari setiap kesempitan ada jalan keluar dari segala keduakaan ada kegembiraan, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. HR.al-Baihaqi>

4. Riwayat al-Tabra>ni>

- حدثنا مُصْعَبٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَزِمَ الاستِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.¹³⁶ . رواه الطبراني

Artinya:

¹³⁵ al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi>*, juz III, h. 351.

¹³⁶ al-Tabra>ni>, *al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>*, juz III, h.

Mus`ab menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Abd Allah bin Abbas menceritakan kepada kami, dari Bapakny, dari neneknya berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang senantiasa beristigfa>r, Allah menjadikan baginya dari setiap kesempitan ada jalan keluar dari segala kedukaan ada kegembiraan, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. HR.al-Tabra>ni>

5. Riwayat al-Tabra>ni>

6473 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ، نَا مَهْدِيَّ بْنَ جَعْفَرِ الرَّمْلِيِّ ، ثنا الوليد بن مسلم ، عن الحكم بن مصعب ، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب . »¹³⁷ رواه الطبراني

Artinya:

Muhammad bin Ali> al-Sa>ni` menceritakan kepada kami, Mahdi> bin Ja`far al-Ramli menceritakan kepada kami, al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, al-Hakam bin Mus`ab menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Abd Allah bin Abba>s menceritakan kepada kami, dari Bapakny, dari neneknya berkata: Rasulullah saw., bersabda:Barangsiapa yang senantiasa beristigfa>r, Allah menjadikan baginya dari setiap kesempitan ada jalan keluar dari segala kedukaan ada kegembiraan, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. HR. al-Tabra>ni>

4. Hadis Tentang Zikir *Sayyid al-Istigfa>r*.

1. Riwayat al-Bukha>ri>.

5831 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُسَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى

¹³⁷ al-Tabra>ni>, *al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>*, juz XIV, h. 51, nomor hadis 6473.

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.¹³⁸ رواه البخاري

Artinya:

Abu Ma`mar menceritakan kepada kami, Abd al-Waris menceritakan kepada kami, al-Husain menceritakan kepada kami, Abdullah ibn Buraidah menceritakan kepada kami, berkata: "Sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah; kamu mengucapkan: '*allahumma anta rabbi laa ilaaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu a'uudzu bika min syarri maa shana'tu abuu`u laka bidzanbi wa abuu`u laka bini'matika 'alayya faghfirli fa innahu laa yaghfiru adz dzunuuba illa anta* (Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui dosaku kepada-Mu dan aku akui nikmat-Mu kepadaku, maka ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain-Mu) '." Beliau bersabda: 'Jika ia mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk dari penghuni surga. Dan jika ia membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk dari penghuni surga.'.....HR. Al-Bukha>ri.

2. Riwayat al-Bukha>ri.

5848 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ إِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَانَ مِنْ

¹³⁸ al-Bukha>ri>, Sahi>h al-Bukha>ri>, , juz XIX, h. 363, nomor hadis 5831

أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ.¹³⁹ رواه البخاري

Artinya:

Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid ibn Zura'î menceritakan kepada kami, al-Husain menceritakan kepada kami, Abdullah ibn Buraidah menceritakan kepada kami, berkata: Busyair ibn Ka`ab menceritakan kepadaku berkata; Sadda>d ibn Aus menceritakan kepadaku ra dari Nabi saw., bersabda: "Sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah; jika seorang hamba mengucapkan: *'allahumma anta rabbi laa ilaaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu a'uudzu bika min syarri maa shana'tu abuu'u laka bidzanbi wa abuu'u laka bini'matika 'alayya faghfirli fa innahu laa yaghfiru adz dzunuuba illa anta a'uudzu bi syarri maa shana'tu* (Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui dosaku kepada-Mu dan aku akui nikmat-Mu kepadaku, maka ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain-Mu, dan aku meminta ampun dari segala yang pernah aku perbuat) '. Jika ia mengucapkan di waktu sore lalu meninggal, maka ia akan masuk surga. Dan jika ia membacanya di waktu pagi lalu meninggal pada hari, maka ia mendapatkan seperti itu juga (masuk surga)."HR. Al-Bukha>ri>.

3. Riwayat al-Turmuzi>

3315 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى سَيِّدِ الْإِسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَعْتَرِفُ بِذُنُوبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ لَا يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدْرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إِلَّا وَجِبَتْ

¹³⁹ al-Bukha>ri>, *Sahi>h al-Bukha>ri>*, juz XIX, h. 393, nomor hadis 5848.

لَهُ الْجَنَّةُ وَلَا يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدْرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ إِلَّا
وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.¹⁴⁰ رواه الترميذي

Artinya:

al-Husain ibn Hurais menceritakan kepada kami, Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dari Kasir ibn Zaid, dari Usman ibn Rabi`ah dari Saddad ibn Aus menceritakan kepadaku ra dari Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfar yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR. al-Turmuzi.

4. Riwayat al-Nasa`i>

5427 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ
شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سَيِّدَ الْإِسْتِغْفَارِ
أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ
لَكَ بِدِينِي وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ فَأَعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ فَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ
يُمْسِي مُوقِنًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.¹⁴¹ رواه النسائي

Artinya:

Amru ibn Ali menceritakan kepada kami, Yazid ibn Zurai` menceritakan kepada kami, al-Husain menceritakan kepada kami, Abdullah ibn Buraidah menceritakan kepada kami, berkata: Busyair ibn Ka`ab menceritakan kepadaku berkata; Saddad ibn Aus menceritakan kepadaku ra dari Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfar yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR. al-Nasa`i>

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

¹⁴⁰ al-Turmuzi>. *Sunan al-Turmuzi*>, juz XI, h. 255, nomor hadis 3315.

¹⁴¹ Al-Nasa`i> *Sunan al-Nasa`i*> juz XVI, h. 445, nomor hadis 5327.

16488 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِالنِّعْمَةِ وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ إِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا ثُمَّ مَاتَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُمْسِي مُوقِنًا بِهَا ثُمَّ مَاتَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.¹⁴² رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Yahya ibn Sa`id menceritakan kepada kami, dari al-Husain al-Mu`allim, Abdullah ibn Buraidah menceritakan kepada kami, berkata: Busyair ibn Ka`ab menceritakan kepadaku berkata; Sadda>d ibn Aus menceritakan kepadaku ra dari Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR. Ahmad ibn Hanbal.

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

16508 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ مَنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُمْسِي مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.¹⁴³ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muhammad ibn Abi Adi menceritakan kepada kami, dari al-Husain al-Mu`allim, Abdullah ibn Buraidah menceritakan

¹⁴² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 34, h. 475, nomor hadis16488.

¹⁴³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 34, h. 459, nomor hadis 16508

kepada kami, berkata: Busyair ibn Ka`ab menceritakan kepadaku berkata; Sadda>d ibn Aus menceritakan kepadaku ra dari Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR. Ahmad ibn Hanbal.

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بَرِيدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِيُّ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.¹⁴⁴ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Abdul al-Samad menceritakan kepada kami, Abi menceritakan kepada kami, al-Husain al-Mu`allim menceritakan kepada kami, dari Abdullah ibn Buraidah berkata: Busyair ibn Ka`ab menceritakan kepadaku berkata; Saddad ibn Aus mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sayyid al-Istigfar seperti yang disebutkan dalam hadis. HR. Ahmad ibn Hanbal.

8. Riwayat Ibn Abi> Syai>bah.

حدثنا أبو أسامة عن حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن يونس قال : قال رسول الله ﷺ : " سيد الاستغفار أن يقول : اللهم أنت ربي وأنا عبدك لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنوبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " .¹⁴⁵ رواه ابن ابي شيبة

Artinya:

Abu Usa>mah menceritakan kepada kami, dari Husai>n ibn Zakwa> dari Abdullah ibn Buraidah dari Busyair ibn Ka`ab ,dari Sadda>d ibn Yunus berkata; mendengar Rasulullah saw.,

¹⁴⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* juz 34, h. 475, nomor hadis 16508

¹⁴⁵ Ibn Abi> Syai>bah, *Musannaf Ibn Abi> Syai>bah*, juz VII, h. 69. nomor hadis 1

bersabda: bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a:
Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau,
Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu
HR. Ibn Abi> Syaibah.

9. Riwayat Ibn Abi> Syai>bah.

(2) حدثنا زيد بن الحباب حدثني كثير بن زيد قال حدثني المغيرة بن سعيد بن نويفل عن شداد بن أوس أن رسول الله ﷺ قال له : " ألا أدلك على سيد الاستغفار ؟ أن تقول : أنت إلهي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنوبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ما من عبد يقولها فيأتيه قدره في يومه قبل يمسي ، أو في مسائه قبل يصبح ، إلا كان من أهل الجنة " .¹⁴⁶ رواه ابن أبي شيبة

Artinya:

Za'id ibn Huba>b menceritakan kepada kami, Kasi>r ibn Zaid menceritakan kepadaku berkata; al-Mugi>rah ibn Sa'i>d menceritakan kepadaku, dari Sadda>d ibn Aus berkata; mendengar Rasulullah saw., bersabda: bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu HR. Ibn Abi> Syaibah.

10. Riwayat al-Nasa>'i>

(7963) أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي ﷺ قال ان سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإن

¹⁴⁶ Ibn Abi> Syai>bah, *Musannaf Ibn Abi> Syai>bah*, juz VII, h. 70, nomor hadis 2.

قالها حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة وإن قالها حين يمسي موقنا بها دخل الجنة.¹⁴⁷ رواه النسائي

Artinya:

Amr ibn Ali> menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami, al-Husain al-Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Abdullah ibn Buraidah dari Busyair ibn Ka'ab dari Sadda>d ibn Aus dari Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo'a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR. al-Nasa>'i>

11. Riwayat al-Nasa>'i>

(10298) أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى بن سعيد وابن أبي عدي قالوا حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس قال قال رسول الله ﷺ إن سيد الاستغفار أن يقول العبد لا إله إلا أنت أنت خلقتني وأنا عبدك أنت على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإن قالها حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة وإن قالها حين يمسي موقنا بها فمات دخل الجنة.¹⁴⁸ رواه النسائي

Artinya:

Amr ibn Ali> menceritakan kepada kami, Yazid ibn Zurai, Basyr ibn al-Mufaddal, Yahya ibn Sa'i>d dan Ibn A<di> menceritakan kepada kami, al-Husain al-Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Abdullah ibn Buraidah dari Busyair ibn Ka'ab dari Sadda>d ibn Aus dari Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo'a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR. al-Nasa>'i>

12. Riwayat al-Nasa>'i>

¹⁴⁷ Al-Nasa>'i>, *al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i> juz IV*, h.465, nomor hadis 7963.

¹⁴⁸ Al-Nasa>'i> *al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i> juz VI*, h.465, nomor hadis 10298.

(10301) أخبرني زكريا بن يحيى حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن كامجر قال حدثني محمد بن منيب العبدى قال عرضنا على السري بن يحيى عن هشام عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.¹⁴⁹ رواه النسائي

Artinya:

Zakariya> ibn Yahya menceriterakan kepada kami, Isha>q ibn Ibra>him menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Muni>b menceriterakan kepadaku, dari Hisya>m dari Abi> al-Zubai>r dari Ja>bir berkata; Nabi saw., bersabda: Sayyid *al-istigfa>r* yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR. al-Nasa>'i>

13. Riwayat al-Nasa>'i>

(10416) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي ﷺ قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بالنعمة وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإن قالها حين يصبح موقنا بها ثم مات كان من أهل الجنة وإن قالها بعدما يمسي موقنا بها ثم مات كان من أهل الجنة.¹⁵⁰ رواه النسائي

Artinya:

Ya'qu>b ibn Ibra>him menceriterakan kepada kami, dari Yahya ibn Sa'i>d dari al-Husain al-Mu`allim dari Abdullah ibn Buraidah dari Busyair ibn Ka`'ab dari Sadda>d ibn Aus dari Nabi saw., bersabda: Sayyid *al-istigfa>r* yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau

¹⁴⁹ Al-Nasa>'i> *al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i>*, juz VI, h.121, nomor hadis 10301

¹⁵⁰ Al-Nasa>'i> *al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i>*, juz VI, h.150, nomor hadis 10416

yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR. al-Nasa>'i>

14. Riwayat al-Ha>kim.

3666 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، ثنا أبو أسامة ، حدثني حسين بن ذكوان ، عن عبد الله بن بريدة ، عن بشير بن كعب ، عن شداد بن أوس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ، وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بذنوبي ، وأبوء لك بنعمتك علي ، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ».¹⁵¹ رواه الحاكم

Artinya:

Abu> al-Abba>s Muhammad ibn Ya'qu>b menceritakan kepada kami, al-Hasan ibn Ali> ibn Affa>n menceritakan kepada kami, Abu> Usa>amah menceritakan kepada kami, Husai>n ibn Zakwa>n menceritakan kepadaku dari Abdullah ibn Buraidah dari Busyair ibn Ka`'ab dari Sadda>d ibn Aus ra. Berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR.al-Ha>kim

15. Riwayat al-Tabra>ni>

7026 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْخَوْضِيُّ ، حَدَّثَنَا مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : "سَيِّدُ الْاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي."¹⁵² رواه الطبراني

Artinya:

¹⁵¹ Al-Ha>kim, *al-Mustadrak ala al-Sahi>hai>n li al-Ha>kim*, juz VIII, h. 383, nomor hadis 3666.

¹⁵² al-Tabra>ni>, *Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>*, juz VI, h. 449, nomor hadis 7026.

Ahmad ibn Da>wud al-Makki> menceriterakan kepada kami, Hafaz ibn Umar menceriterakan kepada kami, Murajja> ibn Murajja> menceriterakan kepada kami, dari al-Husain al-Mu'allim dari Abdullah ibn Buraidah dari Busyair ibn Ka'`ab dari Sadda>d ibn Aus dari Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. HR.al-Tabra>ni>.

16. Riwayat al-Tabra>ni>

7039 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الشُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدِ الْمَدَنِيِّ، حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: "أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى سَيِّدِ الْإِسْتِغْفَارِ؟ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ إِلَهِي، أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ سِرِّ مَا صَنَعْتَ، وَأَبْوَاءِ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبْوَاءِ لَكَ بِذُنُوبِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُهَا فَيَأْتِيهِ قَدْرُهُ فِي يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، أَوْ فِي مَسَائِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ".¹⁵³ رواه الطبراني

Artinya:

Al-Husai>n ibn Isha>q menceriterakan kepada kami, Usma>n ibn Abi Syaibah menceriterakan kepada kami, Zaid ibn Huba>b menceriterakan kepada kami, kasi>r ibn Zaid al-Madani> menceriterakan kepadaku, al-Mugi>rah ibn Sa'i>d menceriterakan kepadaku, dari Sadda>d ibn Aus sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR.al-Tabra>ni>

17. Riwayat al-Tabra>ni>

1026 - حدثنا أحمد قال : نا حفص قال : نا مرجى بن رجاء ، عن حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن بشير بن كعب العدوي ، عن شداد بن أوس ، عن النبي ﷺ قال : « سيد الاستغفار أن تقول :

¹⁵³ al-Tabra>ni>, *Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>*, juz VI, h. 455, nomor hadis 7039.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك
ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، وأبوء بنعمتك
علي ، وأبوء بذنبي ، فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، فإن
من قالها بعد ما يمسي ، فمات من ليلته دخل الجنة ، وإن قالها بعدما
يصبح من نومه دخل الجنة».¹⁵⁴ رواه الطبراني

Artinya:

Ahmad menceriterakan kepada kami, Hafaz menceriterakan kepada kami, Murajja> ibn Murajja> menceriterakan kepada kami, dari al-Husain al-Mu`allim dari Abdullah ibn Buraidah dari Busyair ibn Ka`ab dari Sadda>d ibn Aus dari Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. HR.al-Tabra>ni>.

18. Riwayat al-Baihaqi>

686 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
حدثنا الحسن بن علي العامري ، حدثنا أبو أسامة ، حدثني حسين بن
ذكوان ، عن عبد الله بن بريدة ، عن بشير بن كعب عن شداد بن
أوس ، قال : قال رسول الله ﷺ : سيد الاستغفار أن يقول العبد : «
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنوبي ،
وأبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .¹⁵⁵
رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Abdullah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> al-
Abba>s Muhammad ibn Ya`qu>b menceriterakan kepada kami,
al-Hasan ibn Ali> ibn Affa>n menceriterakan kepada kami, Abu>
Usa>amah menceriterakan kepada kami, Husai>n ibn Zakwa>n
menceriterakan kepadaku dari Abdullah ibn Buraidah dari
Busyair ibn Ka`ab dari Sadda>d ibn Aus ra. Berkata; Rasulullah
saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya
Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau

¹⁵⁴ Tabra>ni>, *Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni>*, juz III, h. 25, nomor hadis 1026.

¹⁵⁵ Al-Baihaqi>, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi>*, juz II, h. 228, nomor hadis 686.

yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR.al-Baihaqi>

19. Riwayat Ibn Hibba>n.

934 - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبَةَ ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا حسين بن ذكوان ، عن عبد الله بن بريدة ، عن بشير بن كعب ، عن شداد بن أوس ، قال : قال رسول الله ﷺ : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي ، وأنا عبدك ، لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، وأبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء لك بذنوبي ، فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ».¹⁵⁶ رواه ابن حبان

Artinya:

Abu> Ya'la> memberitakan kepada kami, Abu> Bakar ibn Abi> Syaibah menceriterakan kepada kami, Abu> Usa>amah menceriterakan kepada kami, Husai>n ibn Zakwa>n menceriterakan kepada kami, dari Abdullah ibn Buraidah dari Busyair ibn Ka'`ab dari Sadda>d ibn Aus ra. berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR.Ibn Hibba>n>

20. Riwayat Ibn Hibba>n.

935 - أخبرنا أحمد بن محمد الحيري أبو عمرو ، قال : حدثنا عبد الله بن هاشم ، قال : حدثنا يحيى القطان ، عن حسين المعلم ، قال : حدثني عبد الله بن بريدة ، عن بشير بن كعب ، عن شداد بن أوس ، قال : قال رسول الله ﷺ : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أبوء لك بالنعمة ، وأبوء لك بذنبي ، فاغفر لي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . فإن ، قالها بعدما يصبح موقنا بها ثم مات ،

¹⁵⁶ Ibn Hibba>n, *Sahi>h Ibn Hibba>n*, juz IV, h. 354, nomor hadis 634.

كان من أهل الجنة ، وإن ، قالها بعدما يمسي موقنا بها ، كان من أهل الجنة » .¹⁵⁷ رواه ابن حبان

Artinya:

Ahmad ibn Muhammad memberitakan kepada kami, Abdullah ibn Ha>syim menceriterakan kepada kami, Yahya ibn Qatta>n menceriterakan kepada kami, dari Husai>n al-Muallim, Abdullah ibn Buraidah menceriterakan kepadaku dari Busyair ibn Ka`'ab dari Sadda>d ibn Aus ra. Berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR.Ibn Hibba>n.

21. Riwayat Abd bin Humai>d.

1065 - حدثني محمد بن منيب العدني ، أنا السري بن يحيى ، عن هشام ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله ﷺ قال : « تعلموا سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » .¹⁵⁸ رواه عبد بن حميد

Artinya:

Muhammad ibn Muni>b menceriterakan kepadaku,al-Sari> ibn Yahya menceriterakan kepada kami, darin Hisya>m, dari Abi al-Zubai>r, dari Ja>bir Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMuHR.Abdu ibn Humai>d.

C. Hadis-Hadis Tentang Taqdi>s

1. Hadis Tentang zikir *Subb-hun Quddu>sun*.

1. Riwayat Muslim.

¹⁵⁷ Ibn Hibba>n, *Sahi>h Ibn Hibba>n*, juz IV, h. 356, nomor hadis 935

¹⁵⁸ Abdu bin Humai>d, *Musnad Abdu bin Humai>d*, juz III, h. 184, nomor hadis 1065.

752 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁵⁹ رواه مسلم

Artinya:

Abu> Bakar bin Abi> Syai>bah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyri al-Abdi> menceritakan kepada kami, Sa`i>d bin Abi> Uru>bat menceritakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif bin Abd Alla>h sesungguhnya A<isyah memberitakannya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, *Subb-hun Qudd-sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h*. HR. Muslim.

2. Riwayat Abi> Da>wud

738 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁶⁰ رواه ابوداود

Artinya:

Muslim ibn Ibra>him menceritakan kepada kami, Hisya>m menceritakan kepada kami, Qata>dah menceritakan kepada kami, dari Mutarrif, dari A<isyah sesungguhnya Nabi saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, *Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h*. HR.Abu> Da>wud.

3. Riwayat al-Nasa>'i>

1038 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنبَأَنِي قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁶¹ رواه النسائي

Artinya:

¹⁵⁹ Muslim. *Sahi>h Muslim*, juz III, h. 37. nomor hadis 752.

¹⁶⁰ Abi Da>wud. *Sunan Abi Da>wud*, juz III, h. 37, nomor hadis 739.

¹⁶¹ al-Nasa>'i> *Sunan al-Nasa>'i>*, juz IV, h. 182, nomor hadis

Muhammad ibn Abdi al-A'la> memberitakan kepada kami, Khali menceriterakan kepada kami, Syu'bah menceriterakan kepada kami, Qata>dah memberitakan kepadaku, dari Mutarrif, dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.al-Nasa>'i>

4. Riwayat al-Nasa>'i>

1122 - أَخْبَرَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁶² رواه النسائي

Artinya:

Bunda>r Muhammad ibn Basysya>r kepada kami, Yahya ibn Sa'i>d dan Ibn Abi> A<di> menceriterakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sa'i>d, dari Qata>dah, dari Mutarrif dari A<isyah memberitakannya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h”. HR. al-Nasa>'i>

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal

22934. - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁶³ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Amru ibn al-Haisam menceriterakan kepada kami, Hisya>m menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal.

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

¹⁶² al-Nasa>'i>.Sunan al-Nasa>'i>, juz IV, h. 330, nomor hadis 1122.

¹⁶³ Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 49, h. 90, nomor hadis 22934.

23489 - حَدَّثَنَا بَهْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁶⁴ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal.

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

23699 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَفَّانُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁶⁵ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Sulaima>n ibn Harb dan Affa>n menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami berkata, Affa>n berkata; Qata>dah berkata; dari Mutarrif, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal.

8. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

23991 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ وَرُكُوعِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁶⁶ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muhammad ibn Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari

¹⁶⁴ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 50, h. 145, nomor hadis 23489.

¹⁶⁵ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 50, h. 355, nomor hadis 23699.

¹⁶⁶ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 51, h. 148, nomor hadis 23991.

A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal.

9. Riwayat Ahmad bin Hanbal

24009 - حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ .¹⁶⁷ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Sulaima>n ibn Harb menceriterakan kepada kami, Syu'bah menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal.

10. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

24263 - حَدَّثَنَا بِهِزُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁶⁸ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Bahz menceriterakan kepada kami, Syu'bah menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal.

11. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

24428 - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ شَكَتْ يَحْيَى فِي ثَلَاثٍ.¹⁶⁹ رواه احمد بن حنبل

¹⁶⁷ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 51, h. 166, nomor hadis 24009.

¹⁶⁸ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 51, h. 420, nomor hadis 24263.

¹⁶⁹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 52, h. 85, nomor hadis 24428.

Artinya:

Yahya menceritakan kepada kami, Sa'i>d menceritakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal.

12. Riwayat Ahmad bin Hanbal

24457 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ أَوْ رُكُوعِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁷⁰ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Abd al-Razza>q menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal.

13. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

24876 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁷¹ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Ru>h menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Aku mendengar dari Qata>dah berkata, aku mendengar dari Mutarrif berkata, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal.

14. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

¹⁷⁰ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 52, h. 114, nomor hadis 24457.

¹⁷¹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 53, h. 33, nomor hadis 24876.

24877 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.¹⁷² رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Ru>h menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Aku mendengar dari Qata>dah berkata, aku mendengar dari Mutarrif berkata, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, *Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h*. HR.Ahmad ibn Hanbal.

15. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

25090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَأَلَ سَعِيدٌ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.^{174 173} رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Abd al-Wahha>b menceritakan kepada kami berkata, aku bertanya kepada Sa'i>d apa yang diucapkan oleh seorang laki-laki saat ruku`, maka dia mengabarkan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif berkata, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, *Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h*. HR.Ahmad ibn Hanbal.

16. Riwayat Ibn Abi Syaibah,

(18) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده : (سبوح قدوس رب الملائكة والروح).¹⁷⁵

¹⁷² Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 53, h. 34, nomor hadis 24877.

¹⁷³ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 53, h. 34, nomor hadis 24877.

¹⁷⁴ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 53, h. 248, nomor hadis 25090.

¹⁷⁵ Ibn Abi Syaibah, juz I, h. 281. nomor hadis 18.

Artinya:

Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Basysya>r menceritakan kepada kami, Sa'i>d menceritakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif berkata, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca", *Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h*. HR.Ibn Abi Syaibah.

17. Riwayat al-Baihaqi>

(حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي املاء انبأ أبو بكر محمد بن احمد بن دلويه الدقاق ثنا أبو الازهر السليطي ثنا سعيد بن عامر ثنا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عائشة ان رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده سبح قدوس رب الملائكة والروح¹⁷⁶

Artinya:

Abu al-Hasan Muhammad ibn al-Husai>n menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad menceritakan kepada kami, Abu> al-Azhar menceritakan kepada kami, Sa'id ibn A<mir menceritakan kepada kami, Sa'id ibn Abu Urubat meneceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif berkata, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca", *Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h*. HR.Ibn Abi Syaibah.

18. Riwayat al-Nasa>'i>

(اخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد انبأ أبو على اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن مكرم ثنا سعيد ابن عامر ثنا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله ﷺ كان يقول في سجوده سبح قدوس رب الملائكة والروح¹⁷⁷

Artinya:

¹⁷⁶ al-Baihaqi. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, juz II, h. 87.

¹⁷⁷ al-Nasa`i. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, juz II, h. 109

Abu al-Husain ibn Basyra>n menceriterakan kepada kami, Abu> Ali> Isma'il ibn Muhammad menceriterakan kepada kami, al-Hasan ibn Mukram menceriterakan kepada kami, Sa'iid bin Abi Uru>bat menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. al-Nasa>'i>

19. Riwayat al-Nasa>'i>

(636) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة عن مطرف عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح نوع آخر من الذكر في الركوع¹⁷⁸

Artinya:

Muhammad ibn al-A'la> menceriterakan kepada kami, Halid menceriterakan kepada kami, Syu'bah menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.al-Nasa>'i>

20. Riwayat al-Nasa>'i>

(7693) أخبرنا أبو الأشعث قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة عن مطرف عن عائشة نبت أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح¹⁷⁹

Artinya:

Abu> al-Asy'asy menceriterakan kepada kami, Yazid>d menceriterakan kepada kami, Sa'id menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. al-Nasa>'i>

21. Riwayat al-Nasa>'i>

¹⁷⁸ al-Nasa>'i Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i juz I, h. 219. nomor hadis 636.

¹⁷⁹ al-Nasa>'i Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i juz IV, h. 402. nomor hadis 7693.

(7723) أخبرنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه وسجوده سبح قدوس رب الملائكة والروح العزة والقدرة¹⁸⁰

Artinya:

Muhammad ibn Basysya>r menceritakan kepada kami, dari Yahya ibn Sa'id dan Ibn A<di, dari Syu'bah, dari Qata>dah, dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. al-Nasa>'i

22. Riwayat al-Nasa>'i>

(11687) أنا محمد بن عبد الأعلى نا خالد نا شعبة قال أنبأني قتادة عن مطرف عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه سبح قدوس رب الملائكة والروح¹⁸¹

Artinya:

Muhammad ibn al-A'la> menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami berkata;, Qata>dah mmberitatakan kepadaku, dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. al-Nasa>'i

23. Riwayat Abi Awa>nah.

1436 - حدثنا يزيد بن سنان قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، وحدثنا أبو الأزهر ، والصغاني قالوا : ثنا سعيد بن عامر ، ح . وحدثنا عباس الدوري قال : ثنا محمد بن بشر العبدي قالوا : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى

¹⁸⁰ al-Nasa>'i *Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i* juz IV, h. 410. nomor hadis 410.

¹⁸¹ al-Nasa>'i *Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i* juz VI, h. 519. nomor hadis 11787.

الله عليه وسلم كان يقول في سجوده : « سبح قدوس رب الملائكة والروح »¹⁸²

Artinya:

Yazid ibn Sina>n menceriterakan kepada kami, Yahya ibn Sa'id menceriterakan kepada kami, Abu al-Azhar dan al-Saga>ni menceriterakan kepada kami, Sa'id ibn Amir menceriterakan kepada kami, Abba>s al-Dawri>, Muhammad ibn Basysyar menceriterakan kepada kami, Sa'id ibn Arubat menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Abi> Awa>nah.

24. Riwayat Abi> Awa>nah,

1437 - حدثنا أبو داود الحراني قال : ثنا أبو عتاب قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، وهشام ، وهمام ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن عائشة قالت : كان النبي ﷺ يقول في ركوعه وسجوده : « سبح قدوس رب الملائكة والروح »¹⁸³

Artinya:

Abu> Da>wud al-Hara>ni menceriterakan kepada kami, Abu> Atta>b, menceriterakan kepada kami, Sa'id ibn Arubat Hisya>m, dan Hamma>m menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Abi> Awa>nah.

25. Riwayat Abi> Awa>nah,

1500 - حدثنا أبو داود الحراني قال : ثنا أبو عتاب قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، وهشام ، وهمام ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن عائشة

¹⁸² Abi Awa>nah, *Mustakhraj Abi Awa>nah*, juz IV, h. 158, nomor hadis 1436.

¹⁸³ Abi Awa>nah, *Mustakhraj Abi> Awa>nah*, juz IV, h. 159, nomor hadis 1437.

قالت : كان النبي ﷺ « يقول في ركوعه وسجوده : « سبح قدوس رب الملائكة والروح »¹⁸⁴

Artinya:

Abu> Da>wud al-Hara>ni menceriterakan kepada kami, Abu> Atta>b, menceriterakan kepada kami, Sa'id ibn Arubat Hisya>m, dan Hamma>m menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Abi> Awa>nah.

26. Riwayat al-Da>raqtuni>

1316 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقْبَقِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ « سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ».¹⁸⁵

Artinya:

Al-Husain ibn Isma'i>l menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Abdul Malik menceriterakan kepada kami, Sulaima>n ibn Harb menceriterakan kepada kami, Syu'bah menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.al-Da>raqtuni>

27. Riwayat Ibn Hibba>n.

1932 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن بشر ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، أن عائشة ، أنبأته أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه ، وفي سجوده : « سبح ، قدوس ، رب الملائكة والروح »¹⁸⁶

Artinya:

¹⁸⁴Abi> Awa>nah, *Mustakhraj Abi> Awa>nah*, juz IV, h. 228, nomor hadis 1500

¹⁸⁵al-Da>raqtuni>. *Sunan al-Da>raqtuni*, juz III, h. 440. nomor hadis 1316.

¹⁸⁶Ibn Hibba>n. *Sahih Ibn Hibba>n*, juz VIII, h. 287. nomor hadis 1932.

Imra>n ibn Mu>sa menceriterakan kepada kami, Usma>n ibn Abi Syaibah menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Basysyar menceriterakan kepada kami, Sa'id menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ibn Hibba>n

28. Riwayat Ibn Khuzaimah.

582 - نا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - حدثنا شعبة قال : أنبأني قتادة ، عن مطرف ، عن عائشة ، أنها قالت : كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه : « سبح قدوس رب الملائكة والروح »¹⁸⁷

Artinya:

Muhammad ibn al-A'la> menceriterakan kepada kami, Kha>lid menceriterakan kepada kami, Syu'bah menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada kami, dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, *Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h*. HR.Ibn Huzaimah.

27. Riwayat Ibn Ra>hawaih.

أخبرنا عبدة بن سليمان نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ في ركوعه وسجوده يقول سبح قدوس رب الملائكة والروح¹⁸⁸

Artinya:

Abdat ibn Sulaiman menceriterakan kepada kami, Saiid bin Abi Urubat menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif bin Abd Alla>h dari Aisyah memberitakannya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku`

¹⁸⁷ Ibn Khuzaimah. Sahih Ibn Khuzaimah, juz II, h. 487. nomor hadis 582.

¹⁸⁸ Ibn Rahawaih. Musnad Ibn Rahawaih, juz III, h. 719.

dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. Ibn Ra>hawaih.

28. Riwayat Ibn Ra>hawaih.

أخبرنا عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح¹⁸⁹

Artinya:

Abdu al-Razza>q menceriterakan kepada kami, Ma'mar menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ibn Rawahah

29. Riwayat al-Baihaqi>.

56 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر ، محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا جعفر بن محمد بن شاکر ، ثنا عفان ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت : إن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح » .¹⁹⁰ رواه البيهقي

Artinya:

Abu> al-Husain ibn Basyra>n menceriterakan kepada kami, Abu Ja'far dan Muhammad ibn Amr menceriterakan kepada kami, Ja'far ibn Muhammad menceriterakan kepada kami, Affa>n menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif bin Abd Alla>h dari Aisyah memberitakannya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. Al-Baihaqi>

30. Riwayat Ibn al-Mundzir.

¹⁸⁹ Ibn Ra>hawaih. Musnad Ibn Rahawaih, juz III, h. 720.

¹⁹⁰ al-Baihaqi. Al-Asma` wa al-Sifa>t li al-Baihaqi>, juz I, h. 66, nomor hadis 56.

1365 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن عائشة : « أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه : « سبح قدوس رب الملائكة والروح » فذكرته لهشام ، فقال : في ركوعه وسجوده.¹⁹¹ رواه ابن المنذر

Artinya:

Muhammad ibn Ismail menceritakan kepada kami, Affa>n menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif bin Abd Alla>h dari Aisyah memberitakannya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. HR. Ibn Munzir.’

31. Riwayat Ibn al-Mundzir.

1430 - حدثنا محمد بن مهلهل قال : ثنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عائشة ، أن النبي ﷺ : « كان يقول في سجوده : « سبح قدوس رب الملائكة والروح ، سبقت رحمة ربي غضبه ».¹⁹² رواه ابن المنذر

Artinya:

Muhammad ibn Mahl mencerietrakan kepada kami, Abdu al-Razza>q menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ibn Munzir.’

32. Riwayat Ibn Mundah.

283 - حدثنا علي بن عباس بن الأشعث قال : حدثنا محمد بن حماد ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي ﷺ كان

¹⁹¹ Ibn al-Mundzir. Al-Au>sat li Ibn al-Mundzir, juz IV, h. 342, nomor hadis 1365.

¹⁹² Ibn al-Mundzir. Al-Ausat li Ibn al-Mundzir, juz IV, h. 444, nomor hadis 1430.

يقول في سجوده : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح » .¹⁹³
رواه ابن منده

Artinya:

Ali Ibn Abba>s mencerietrakan kepada kami, Muhammad ibn Hamma>d menceriterakan kepada kami, Abdu al-Razza>q menceriterakan kepada kami, Ma'mar menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ibn Mundah.’

33. Riwayat Ibn Mundah.

310 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن إسماعيل قال : حدثنا حذيفة بن غياث قال : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عائشة ، أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح »¹⁹⁴

Artinya:

Ahmad ibn al-Husain menceriterakan kepada kami, Huzaifah ibn Gayyas menceriterakan kepada kami, Abu al-Walid menceriterakan kepada kami, Syu'bah menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. Ibn Mundah.’

34. Riwayat al-Tabra>ni

498 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عائشة ، رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه أو في سجوده : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح ».¹⁹⁵ رواه الطبراني

Artinya:

¹⁹³ Ibn Mundah. Al-Tauhid li Ibn Mundah, juz I, h. 319, nomor hadis 283

¹⁹⁴ Ibn Mundah. Al-Tau>hid li Ibn Mundah, juz I, h. 319, nomor hadis

310

¹⁹⁵ al-Tabra>ni. al-Du`a li al-Tabra>ni, juz II, h. 64, nomor hadis 498.

Isha>q ibn Ibra>him mencerietrakan kepada kami, Abdu al-Razza>q menceriterakan kepada kami, Ma'mar menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, *Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h*. HR.al-Tabra>ni>

35. Riwayat al-Tabra>ni

499 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن عائشة ، رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح »¹⁹⁶ . رواه الطبراني

Terjemahnya:

Ali Abdul Aziz menceriterakan kepada kami Muslim ibn Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hamma>m menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif dar Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, *Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h*. HR. al-Tabra>ni.

36. Riwayat al-Baihaqi

71 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الطاهر الدقاق ببغداد ، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن سليمان الخرقى ، حدثنا أبو قلابة الرقاشي ، حدثنا سعيد بن عامر ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، قال : وحدثنا عبد الصمد ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، كلاهما ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وسجوده : « سبوح قدوس ، رب الملائكة والروح »¹⁹⁷ . رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Abdullah Muhammad ibn Ahmad menceriterakan kepada kami, Abu al-Hasan Ali> ibn Ahmad ibn Sulaima>n menceriterakan kepada kami, Abu> Qila>bat menceriterakan

¹⁹⁶ al-Tabra>ni. al-Du`a li al-Tabrani, juz II, h. 65, nomor hadis 499.

¹⁹⁷ al-Baihaqi>. Al-Da`wa>t al-Kabi>r li al-Baihaqi>, juz I, h. 86, nomor hadis 71.

kepada kami, Sa'id ibn A'mir menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Uru'bat menceritakan kepada kami, Abdul Samad menceritakan kepada kami, Hisyam ibn Abdullah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Mutarrif bin Abd Allah dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca", Subb-hun Qudd-sun rabbu al-Malaikat wa al-r-h. HR. al-Baihaqi.

37. Riwayat Muhammad bin Nasr al-Maruzi
 229 - حدثنا عباس بن الوليد النرسي ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، أن عائشة ، رضي الله عنها نbat أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه وفي سجوده : « سبح قدوس رب الملائكة والروح » .¹⁹⁸ رواه محمد بن نصر

Artinya:

Abbas ibn al-Walid menceritakan kepada kami, Yazid ibn Zurai menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Mutarrif bin Abd Allah sesungguhnya Aisyah memberitakannya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca", Subb-hun Qudd-sun rabbu al-Malaikat wa al-r-h. HR. Muhammad bin Nasr al-Maruzi.

38. Riwayat Ishaq bin Rahawiyah.
 1186 - أخبرنا عبدة بن سليمان ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عائشة ، قالت : « كان رسول الله ﷺ في ركوعه وسجوده يقول : سبح قدوس ، رب الملائكة والروح » أخبرنا سعيد بن عامر الضبعي ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل في سجوده¹⁹⁹

Artinya:

¹⁹⁸ Muhammad bin Nasr al-Maruzi Mukhtasar Qiya'm al-Lai li Muhammad bin Nasr al-Maruzi. juz I, h. 285. nomor hadis 229.

¹⁹⁹ Ishaq bin Rahawiyah. Musnad Ishaq bin Rahawiyah, juz III, h. 229, nomor hadis 1186.

Abdat ibn Sulaiman menceritakan kepada kami, Said bin Abi> Urubat menceritakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif bin Abd Alla>h dari isyah memberitakannya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. Isha>q bin Ra>hawiyah.

39. Riwayat Isha>q bin Ra>hawiyah.

1187 - أخبرنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عائشة ، قالت : « كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه وسجوده : سبوح قدوس رب الملائكة والروح »²⁰⁰

Artinya:

Abdu al-Razza>q menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ibn Rawahah

2.Hadis Tentang Zikir Subbu>hun Quddu>sun sabaqat rahmati.

1. Riwayat al-Tabra>ni>.

99 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ جِبَانَ الرَّقِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ، بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَائِدُ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْتُ: يَا جَبْرِيْلُ، أَيُّصَلِّي رَبُّكَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: مَا صَلَاتُهُ؟»، قَالَ: سُبُوْحُ قُدُّوسٌ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي.²⁰¹ رواه الطبراني

Artinya:

Ahmad ibn Yahya menceritakan kepada kami, Yahya ibn Sulaima>n menceritakan kepada kami, Ammi> Amr ibn Usma>n menceritakan kepada kami, Abu Muslim

²⁰⁰ Isha>q bin Ra>hawiyah. *Musnad Isha>q bin Ra>hawiyah*, juz III, h. 230, nomor hadis 1187.

²⁰¹ al-Tabra>ni>. *Mu`jam al-Kabir. li al-Tabra>ni*, juz XIX, h. 38, nomor hadis 99.

menceriterakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Amr ibn Murrat dari A<tha>' dari Abu> Hurairah berkata; Rasulullah saw bersabda: Ya, Jibril apa doa yang terbaik untuk Allah SWT. berkata Jibril: *Subbu>hun Quddu>sun sabaqat rahmati> gadabi>, sabaqat rahmati> gadabi*. HR.al-Tabra>ni>

2. Riwayat al-Tabra>ni

235 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ، قَائِدُ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِجِبْرِيلَ: "هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ؟" قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَمَا صَلَاتُهُ؟ قَالَ: سُبُوحٌ قُدُوسٌ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي.²⁰² رواه الطبراني

Artinya:

Ahmad ibn Yahya menceriterakan kepada kami, Yahya ibn Sulaima>n menceriterakan kepada kami, Ammi> Amr ibn Usmā>n menceriterakan kepada kami, Abu Muslim menceriterakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Amr ibn Murrat dari A<tha>' dari Abu> Hurairah berkata; Rasulullah saw bersabda: Ya, Jibril apa doa yang terbaik untuk Allah SWT. berkata Jibril: *Subbu>hun Quddu>sun sabaqat rahmati> gadabi>, sabaqat rahmati> gadabi....* HR.al-Tabra>ni>

3. Riwayat al-Tabra>ni>.

114 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَعْفِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِي أَبُو مُسْلِمٍ ، قَائِدُ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجِبْرِيلَ : « هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَا صَلَاتُهُ ؟ قَالَ : سُبُوحٌ قُدُوسٌ ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي .²⁰³ رواه الطبراني

²⁰² al-Tabrani>. *Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>*, juz XIX, h. 105, nomor hadis 235.

²⁰³ al-Tabra>ni>. *Mu`jam al-Au>sat li al-Tabra>ni>*, juz I, h. 117, nomor hadis 114.

Artinya:

Ahmad ibn Yahya menceritakan kepada kami, Yahya ibn Sulaima>n menceritakan kepada kami, Ammi> Amr ibn Usmā>n menceritakan kepada kami, Abu Muslim menceritakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Amr ibn Murrat dari A<tha>' dari Abu> Hurairah berkata; Rasulullah saw bersabda: Ya, Jibril.....*Subbu>hun Quddu>sun sabaqat rahmati> gadabi>, sabaqat rahmati> gadabi.* HR.al-Tabra>ni>

4. Riwayat al-Tabra>ni.

43 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقي أبو العباس المصري بمصر ، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا عمي عمرو بن عثمان قال : حدثنا أبو مسلم قائد الأعمش ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : قلت : يا جبريل ، أيصلي ربك جل ذكره وتعالى جده ؟ قال : نعم ، قلت : ما صلاته ؟ قال : « سبح قدوس ، سبقت رحمتي غضبي ، سبقت رحمتي غضبي »²⁰⁴ . رواه الطبراني

Artinya:

Ahmad ibn Yahya menceritakan kepada kami, Yahya ibn Sulaima>n menceritakan kepada kami, Ammi> Amr ibn Usmā>n menceritakan kepada kami, Abu Muslim menceritakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Amr ibn Murrat dari A<tha>' dari Abu> Hurairah berkata; Rasulullah saw bersabda: Ya, Jibril.....*Subbu>hun Quddu>sun sabaqat rahmati> gadabi>, sabaqat rahmati> gadabi.* HR.al-Tabra>ni>

5. Riwayat Abd al-Razza>q.

يسألني فأعطيه ، ومن يستغفرنني فأغفر له ، ويقول الملك : سبحوا الملك القدوس ، حتى إذا كان الفجر صعد الرب ، فأتابع قول الملك : سبحان الملك القدوس ، وأما سبح قدوس سبقت رحمة ربي غضبه ، فبلغني أن النبي ﷺ لما أسري به ، كان كلما مر قسما سلمت عليه الملائكة ، حتى إذا جاء السماء السادسة قال له جبريل : هذا ملك ، فسلم عليه ، فبدره الملك فبدأه بالسلام ، فقال النبي ﷺ : ودت لو أني

²⁰⁴ al-Tabra>ni. *al-Mu`jam al-Sagir li al-Tabra>ni*, juz I, h. 46, nomor hadis 43.

سلمت عليه قبل أن يسلم علي ، فلما جاء السماء السابعة قال له جبريل : إن الله عزوجل يصلي ، فقال له النبي ﷺ : أهو يصلي ؟ قال : نعم ، قال : وما صلاته ؟ قال : يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، سبقت رحمتي غضبي ، فأتبع ذلك قال قلت : أقدم بعض ذلك قبل بعض ، قال : إن شئت.²⁰⁵ رواه عبد الرزاق

6. Riwayat Abd al-Razza>q.

2901 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : كنت أسمع ابن الزبير كثيرا يقول في سجوده : سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمة ربي غضبه.²⁰⁶ رواه عبد الرزاق

Artinya:

Abd al-Razza>q menceriterakan kepada kami, Ibn Juraij menceriterakan kepada kami, dari A<tha>' berkata; Aku mendengar Ibn al-Zubair pada waktu sujud berkata; *Subbu>hun Quddu>sun sabaqat rahmati> gadabi>*. HR.Abd al-Razza>q.

7. Riwayat Abd Allah bin Ahmad.

437 - أخبرت عن حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء ، فذكر حديثا ، وأما سبحان الملك القدوس فبلغني حسبت أنه يخبر ذلك عن عبيد بن عمير قال : ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول : « من يسألني فأعطيه ، من يستغفرنني فأغفر له » ، ويقول ملك سبحوا الملك القدوس ، وأما سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمة ربي غضبه ، قال : فبلغني أن النبي ﷺ قال لما أسري به : كلما مر بسماء سلمت عليه الملائكة حتى جاء السماء السادسة فقال جبريل عليه السلام هذا ملك فسلم فبدره الملك فسلم عليه ، فقال النبي ﷺ : وددت أني سلمت عليه قبل أن يسلم علي « قال : فلما جاء السماء السابعة قال جبريل عليه السلام : « إن الله يصلي » ، قال النبي ﷺ : وهو يصلي ؟ قال : نعم ، قال : وما صلاته ؟ قال : يقول « سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت

²⁰⁵ Abd al-Razza>q. *Musannaf Abd al-Razza>q*, juz II, h. 162.

²⁰⁶ Abd al-Razza>q. *Musannaf Abd al-Razza>q*, juz II, h. 162, nomor hadis 2901.

رحمتي غضبي» ، قال : فاتبع ذلك قلت : أقدم بعض ذلك قبل بعض ؟ قال : نعم إن شئت.²⁰⁷ رواه عبد الله بن احمد

Artinya:

Ahmad ibn Yahya menceritakan kepada kami, Yahya ibn Sulaima>n menceritakan kepada kami, Ammi> Amr ibn Usmā>n menceritakan kepada kami, Abu Muslim menceritakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Amr ibn Murrat dari A<tha>' dari Abu> Hurairah berkata; Rasulullah saw bersabda: Ya, Jibril.....*Subbu>hun Quddu>sun sabaqat rahmati> gadabi>, sabaqat rahmati> gadabi.* HR.al-Tabra>ni>

8. Riwayat al-Dau>la>bi>.

1577 - حدثنا أحمد بن حرب الطائي ، وشعيب بن أيوب القاضي الصيرفي ، قالوا : حدثنا أبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ، قال : حدثني الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن عطاء ، في قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته قال : صلاته : سبوح قدوس ، سبقت رحمتي غضبي.²⁰⁸ رواه الدولابي

Artinya:

Ahmad ibn Harb dan Syu'aib ibn Ayyu>b menceritakan kepada kami, Abu> Yahya Abdul Humai>d ibn Abd al-Rahma>n menceritakan kepada kami, al-A'masy menceritakan kepadaku, dari Amr ibn Murrat dari A<tha>' dari Firman Allah Huwa allazi yusalli alaikum wa mala>ikatahu, qala; sala>tuhu :*Subbu>hun Quddu>sun sabaqat rahmati> gadabi>, HR.al-Daulabi>>*

D. Hadis-Hadis Tentang Tasbih.

1. hadis Tentang Empat kalam yang Dicintai Oleh Allah.

1. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ

²⁰⁷ Abd Allah bin Ahmad. *Al-Sunnah li Abd Alla>h bin Ahmad*, juz I, h. 468. nomor hadis 437.

²⁰⁸ al-Dau>la>bi. *al-Kunni> wa al-Asma` li al-Dau>labi*, juz VI, h. 312, nomor hadis 1577.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ وَلَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَنْتُمْ هُوَ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَيَّ.²⁰⁹ رواه مسلم

Artinya:

Ahmad bin Abd Allah bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Mansur menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Yasaf dari Rabi' bin Umailat dari Samurat bin Jundab berkata: Rasulullah saw., bersabda: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus; Telah menceritakan kepada kami Zuhair; Telah menceritakan kepada kami Manshur dari Hilal bin Yasaf dari Rabi' bin 'Umailah dari Samurah bin Jundab ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada empat ucapan yang paling di sukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala; 1) Subhanallah, 2) Al Hamdulillah, 3) Laa ilaaha illallah, 3) Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Selain itu, janganlah kamu memberi nama anakmu dengan nama; Yasar, Rabah, Najih, atau Aflah. Karena, jika kamu bertanya; 'Apakah memang demikian (keadaanmu sesuai dengan namamu) dan ternyata tidak seperti itu, maka ia akan menjawab; 'Tidak.' Hanya empat itulah kalimat yang saya dengar maka janganlah sekali-kali kamu menambahkannya atas namaku.' . HR.Muslim

2. Riwayat Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ أَفْضَلُ الْكَلَامِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.²¹⁰ رواه ابن ماجه

Artinya:

Abu Umar Hafis bin Amr menceritakan kepada kami, Abd al-Rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada Kami, dari Salamah bin Kuhail dari Hilal bin Yasaf dari Samurat bin Jundab dari Nabi saw., bersabda: Empat kalimat yang lebih afdal, tidak akan menimpa

²⁰⁹ Muslim. *Sahih Muslim*, nomor hadis 3985.

²¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, nomor hadis 3801

kamu kemudaranan yaitu, Tasbih, Tahmid, Tahli>l, dan Takbi>r.
HR. Ibn Ma>jah.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.²¹¹
رواه احمد بن حنبل ُ

Artinya:

Waki` menceriterakan kepada kami, al- A`masy menceriterakan kepada kami, dari Abi Sa>lih dari sebahagian sahabat Nabi saw., dari Nabi saw., bersabda: Empat kalimat yang lebih afdal, tidak akan menimpa kamu kemudaranan yaitu, Tasbih, Tahmid, Tahlil, dan Takbir. HR.Ahmad bin Hanbal.

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ
عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَمِيْلَةَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَيَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْبَعٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ لَا تُسَمِّينَ
غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحًا فَإِنَّكَ تَقُولُ أَنْتُمْ هُوَ فَلَا
يَكُونُ فَيَقُولُ لَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ لَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ.²¹² رواه احمد بن حنبل

Artihnya:

Hasan bin M-sa menceriterakan kepada kami, Zuhai>r menceriterakan kepada kami, dari Mansu>r dari Hila>l bin Yasa>f dari Rabi` bin Umailat dari Samurat bin Jundab berkata: Rasulullah saw., bersabda: Empat kalimat yang lebih afdal, tidak akan menimpa kamu kemudaranan yaitu, Tasbih, Tahmid, Tahlil, dan Takbir. HR. Ahmad bin Hanbal

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

²¹¹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis 15816.

²¹² Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis 19248.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثْتُمْ حَدِيثًا فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَيْهِ وَقَالَ أَرْبَعٌ مِنْ أَطْيَبِ الْكَلَامِ وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ أَفْلَحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا.²¹³ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Salamat Kuhail dari Hilal bin Yasa dari Samurat bin Jundab berkata: Rasulullah saw., bersabda: Empat kalimat yang lebih afdal, tidak akan menimpa kamu kemudaratannya yaitu, Tasbih, Tahmid, Tahlil, dan Takbir. HR. Ahmad bin Hanbal

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهِيَ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.²¹⁴ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Salamat bin Kuhail, dari Hilal bin Yasa, dari Samurat bin Jundab berkata: Rasulullah saw., bersabda: Empat kalimat yang lebih afdal, tidak akan menimpa kamu kemudaratannya yaitu, Tasbih, Tahmid, Tahlil, dan Takbir. HR. Ahmad bin Hanbal

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَمِيَلَةَ الْفَرَارِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَيَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْبَعٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ وَلَا

²¹³ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis 19267.

²¹⁴ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis 19357.

تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَنْتُمْ هُوَ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَيَّ.²¹⁵ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Mans-r dari Hilal bin Yasa> dari Rabi` bin Umailat dari Samurat bin Jundab berkata: Rasulullah saw., bersabda: Empat kalimat yang lebih afdal, tidak akan menimpa kamu kemudahan yaitu, Tasbih, Tahmd, Tahlil, dan Takbir. HR. Ahmad bin Hanbal

2. Hadis Tentang Zikir Tasbih, Tahmi>d, Tahlil, dan Takbir.

1. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.²¹⁶ رواه مسلم

Artinya:

Abu> Bakar bin Abi Syaibah dan Abu> Kuraib menceritakan kepada kami, berkata; Abu> Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abi> Sa>lih, dari Abi Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku berzikir, subhanallah wa al-hamdulilla>h wa la ilaha illa>llah wa Allahu akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya matahari. HR. Muslim.

2. Riwayat al-Turmuzi>.

3521 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

²¹⁵ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis 19373.

²¹⁶ Muslim. *Sahih Muslim*, juz XIII, h. 205. nomor hadis 4861.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.²¹⁷ رواه الترميذي

Artinya:

Abu> Kuraib menceritakan kepada kami, Abu> Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku berzikir, subhanallah wa al-hamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya matahari. HR. al-Turmuzi>

3. Riwayat Ibn Abi Syaibah.

حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : " لان أقول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " أحب إلى مما طلعت عليه الشمس " .²¹⁸ رواه ابن ابي شيبه.

Artinya:

Abu> Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abi Sa>lih, dari Abi Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku berzikir, *subhanallah wa al-hamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar*, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya matahari. HR. Ibn Abi Syaibah.

4. Riwayat al-Nasa>'i>

(10671) أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.²¹⁹ رواه النسائي

Artinya:

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, berkata; Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abi Salih, dari Abu Hurairah

²¹⁷ Al-Turmuzi> *Sunan al-Turmuzi>*, juz XII, h. 24, nomor hadis 3521.

²¹⁸ Ibn Abi Syaibah, *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, juz V, h. 66.

²¹⁹ Al-Nasa>'i>. *Al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>'i*, juz VI, h. 209. nomor hadis 10671.

berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku berzikir, subhanallah wa al-hamdulillah wa l ilaha illallah wa Allahu akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya matahari. HR.al-Nasa>'i

5. Riwayat al-Baihaqi>

621 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو جعفر الرزاز قالاً : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لأن أقول سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس » .²²⁰ رواه البيهقي

Artinya:

Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf menceriterakan kepada kami, berkata; Abu Sa'id ibn al-A'ra>bi> menceriterakan kepada kami, Abu al-Hasan ibn Basyra>n memberitakan kepada kami, Abu Ja'far menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn Abdul Jabba>r menceriterakan kepada kami, Abu Mu`a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abi>Sa>lih, dari Abi> Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku berzikir, subhanallah wa al-hamdulillah wa l ilaha illallah wa Allahu akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya matahari. HR.al-Baihaqi>

6. Riwayat Ibn Hibba>n.

835 - أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق بأرغيان بقرية سبنج ، قال : حدثنا أحمد بن سنان ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن أقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس » .²²¹ رواه ابن حبان

Artinya:

²²⁰ Al-Baihaqi>, Sya`b al-Ima>n li al-Baihaqi> juz II, h. 163. nomor hadis 621.

²²¹ Ibn Hibba>n. Sahih Ibn Hibba>n, juz IV, h. 160, nomor hadis 835.

Muhammad ibn al-Musayyab menceritakan kepada kami, berkata; Ahmad ibn Sina>n menceritakan kepada kami berkata; Abu> Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abi>Sa>lih, dari Abi> Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku berzikir, subhanallah wa al-hamdulillah wa l ilaha illallah wa Allahu akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya matahari. HR.Ibn Hibba>n

7. Riwayat al-Baihaqi>

113 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الرزاز ببغداد ، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قالوا : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لأن أقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ».²²² رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, berkata; Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku berzikir, subhanallah wa al-hamdulillah wa l ilaha illallah wa Allahu akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya matahari. HR.al-Baihaqi>

8. Riwayat Ali bin Muhammad al-Humair.

48 - حدثنا علي ، حدثنا خضر بن أبان ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لأن أقول : سبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ».²²³ رواه علي محمد الحميري

Terjemahnya:

²²² al-Baihaqi. *Al-Da`wa>t al-Kabir li al-Baihaqi*, juz I, h. 134. nomor hadis 113.

²²³ Ali bin Muhammad al-Humair. *Juz`i Ali bin Muhammad al-Humair*, juz I, h. 49, no. hadis 48.

Hadis-Hadis Tentang Zikir

Ali menceritakan kepada kami, Hadr ibn A<ba>n menceritakan kepada kami, Abu> Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abi> Sa>lih, dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku berzikir, subha>nalla>h wa al-hamdulilla>h wa la> ila>ha illa>lla>h wa Allahu akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya matahari. HR. Ali bin Muhammad al-Humair

9. Riwayat Subha>n Lanuftawiyah,

6 - حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لأن أقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس » .²²⁴ رواه سبحان لنفطوية

Artinya:

Ahmad ibn Abdul Jabba>r menceritakan kepada kami, berkata; Abu> Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abi> Sa>lih, dari Abi> Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku berzikir, subha>nalla>h wa al-hamdulilla>h wa la> ila>ha illa>lla>h wa Allahu akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya matahari. HR. Subha>n Lanuftawiyah,

3. Hadis tentang Zikir Tasbih, Tahlil, Takbir tanaman Syurga.

1. Riwayat Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُعْرِسُ غَرَسًا فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِي تُعْرِسُ قُلْتَ غِرَاسًا لِي قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يُعْرِسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ.²²⁵ رواه ابن ماجه

²²⁴ Subha>n Lanuftawiyah, *Mas`alat Subhan Lanuftawiyah* juz I, h. 8, nomor hadis 6.

²²⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Ma>jah*, nomor hadis 3798

Artinya:

Abu> Bakar bin Abi> Syaibah menceritakan kepada kami, Affa>n menceritakan kepada kami, Hamma>d bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Abi Sinan, dari Usma>n bin Abi Saudat dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw pernah melawitnya saat ia sedang menanam tanaman, maka beliau bersabda: "Wahai Abu Hurairah, tanaman apa yang kamu tanam?" dia menjawab; "Tanaman milikku." Beliau bersabda: "Apakah kamu mau kuberitahukan tentang tanaman yang bagimu akan lebih baik dari tanaman ini?" Abu Hurairah menjawab; "Tentu wahai Rasulullah!." Beliau bersabda: "Ucapkanlah olehmu Subhanallah (Maha suci Allah), Al Hamdulillah (Segala puji bagi Allah), Laa ilaaha illallah (tidak ada ilah selain Allah) dan Allahu akbar (Allah Maha besar). Maka setiap bacaan tersebut akan menumbuhkan satu pohon di surga bagimu." ,..... HR. Ibn Ma>jah.

4. Hadis Tentang Z/ikir dengan kalimat Subha>nallah al-Azim, Subha>nallah wa Bihamdihi

1. Riwayat al-Bukha>ri>.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.²²⁶ رواه البخاري

Artinya:

Zuhair ibn Harb menceritakan kepada kami, Ibn Fuda>il menceritakan kepada kami, dari `Uma>rah dari Abi Zur`ah dari Abi Hurairah ra berkata: Nabi saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *subha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azim*. HR. al-Bukha>ri>.

2. Riwayat al-Bukha>ri>.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²²⁶ Al-Bukha>ri, *Sahih al-Bukha>ri*, nomor hadis 5927, h. 21.

وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.²²⁷ رواه البخاري

Artinya:

Qutaibah ibn Sa`id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fuda`il menceritakan kepada kami, dari `Uma>rah bin al-Qa`qa> dari Abi Zur`ah dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam toimbangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *subha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azim*. HR. al-Bukha>ri>.

3. Riwayat al-Bukha>ri>

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْكَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.²²⁸ رواه البخاري

Artinya:

Ahmad ibn Isyka>b menceritakan kepadaku, Muhammad bin Fu<ail menceritakan kepada kami, dari `Uma>rah bin al-Qa`qa>` dari Abu Zur`ah dari Abi Hurairah ra berkata: Nabi saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam toimbangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *subha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azi>m*. HR. al-Bukha>ri>.

4. Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْبَجَلِيِّ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.²²⁹ رواه مسلم

Artinya:

²²⁷ Al-Bukha>ri, *Sahih al-Bukha>ri*, nomor hadis 6188, h.376

²²⁸ Al-Bukha>ri>, *Sahih al-Bukha>ri>*, , nomor hadis 7008, h. 104.

²²⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, nomor hadis 4870, h. 204.

Muhammad ibn Abd Allah ibn Numai>r, Zuhai>r ibn Harb, Abu> Kurai>b, dan Muhammad ibn Tari>f al-Bajali> menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Fudai>l menceriterakan kepada kami, dari `Uma>rah bin al-Qa``qa>` dari Abi> Zur`ah dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam tombangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *suha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azim*. HR. Muslim.

5. Riwayat al-Turmuzi>.

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. ²³⁰ رواه الترميذي

Artinya:

Yu>suf bin I`sa menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Fudai>l menceriterakan kepada kami, dari `Uma>rah bin al-Qa``qa>` dari Abi> Zur`ah bin Amr bin Jari>r dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam tombangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *suha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azim*. HR. al-Turmuzi>.

6. Riwayat Ibn Ma>jah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. ²³¹ رواه ابن ماجه

Artinya:

Abu> Bakr dan Ali> ibn Muhammad menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Fudail menceriterakan kepada kami, dari `Uma>rah bin al-Qa`qa>` dari Abi> Zur`ah dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan

²³⁰ Al-Turmuzi>, *Sunan al-Turmuzi>*, nomor hadis 3389, h. 370.

²³¹ Ibn Ma>jah, *Sunan Ibn Ma>jah*, nomor hadis 3796, h.252

diucapkan lidah, berat dalam tombangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *subha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azim*. HR. Ibn Ma>jah.

7. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.²³² رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muhammad bin Fudai>l menceritakan kepada kami, dari `Uma>rah dari Abi> Zur`ah dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam tombangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *subha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azim*. HR. Ahmad Ibn Hanbal.

8. Riwayat Ibn Abi> Syai>bah.

(2) حدثنا محمد بن [فضل] عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : " كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم " ²³³. رواه ابن ابي شيبة

Artinya:

Muhammad bin Fudail menceritakan kepada kami, dari `Uma>rah dari Abi Zur`ah dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam tombangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *subha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azim*. HR

9. Riwayat al-Baihaqi>.

614 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن فضيل ،

²³² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz XIV, nomor hadis 6870, h. 411

²³³ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi> Syai>bah*, juz VII, h. 66, nomor hadis 2.

حدثنا عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم »²³⁴ رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Abdullah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> Bakar ibn Abdullah memberitakan kepadaku, al-Hasan ibn Sufya>n memberitakan kepada kami, Abu> Haisamah menceriterakan kepada kami, Ibn Fudail menceriterakan kepada kami, `Uma>rah menceriterakan kepada kami,dari Abi> Zur`ah dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam toimbangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *suha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azim*. HR.al-Baihaqi>

10. Riwayat Abi> Ya`la>.

5962 - حدثنا حسين بن الأسود ، حدثنا ابن فضيل ، حدثنا عمارة ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، حبيبتان إلى الرحمن ، ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم »²³⁵. رواه ابي يعلي

Artinya:

Husain ibn al-Aswad menceriterakan kepada kami, Ibn Fudail menceriterakan kepada kami, dari `Uma>rah dari Abi> Zur`ah dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam toimbangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *suha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azim*. HR. Abi> Ya`la>

11. Riwayat Ibn Hibba>n.

²³⁴ Al-Baihaqi. *Sya`bu al-Ima>n li al-Baihaqi*>, juz II, h. 156, nomor hadis 614.

²³⁵ Abi> Ya`la> al-Mausuli, *Musnad Abi> Ya`la al-Mausuli*>, juz XII, h. 350, nomor hadis 5962.

832 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا ابن فضيل ، قال : حدثنا عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، حبيبتان إلى الرحمن ، ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ».²³⁶
رواه ابن حبان

Artinya:

Ahmad ibn Ali> ibn al-Musanna>, Muhammad ibn Abdullah ibn Numai>r, Ibn Fudai>l menceriterakan kepada kami, `Uma>rah menceriterakan kepada kami, dari Abi>Zur`ah dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam toimbangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *subha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azim*. HR. Ibn Hibba>n

12. Riwayat Ibn Hibba>n.

842 - أخبرنا عزوز بن إسحاق العابد بطرسوس ، قال : حدثنا العباس بن يزيد البحراني ، قال : حدثنا ابن فضيل ، قال : أخبرنا عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ».²³⁷
رواه ابن حبان

Artinya:

Izzu>z ibn Ishaq menceriterakan kepada kami, al-Abba>s ibn Yazid menceriterakan kepada kami, Ibn Fudail menceriterakan kepada kami, `Uma>rah memberitakan kepada kami, dari Abi Zur`ah dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam toimbangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; *subha>na Allah wa bihamdihi, subha>na Allah al-Azim*. HR. Ibn Hibba>n.

E.Hadis-Hadis Tentang Tahmid

²³⁶ Ibn Hibba>n. *Sahih Ibn Hibba>n*, juz IV, h. 154, nomor hadis

²³⁷ Ibn Hibba>n. *Sahih Ibn Hibba>n*, juz IV, h. 174, nomor hadis

1.Hadis Tentang Zikir *al-hamdulilla>h.tamla`u al-Mizan*.

1. Riwayat Muslim.

328 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمَعْتَقُهَا أَوْ مُؤَيِّقُهَا.²³⁸ رواه مسلم

Artinya:

Isha>q bin Mansu>r menceriterakan kepada kami, Habba>n bin Hila>l menceriterakan kepada kami, Aba>n menceriterakan kepada kami, Yahya menceriterakan kepada kami, Yazid menceriterakannya, Aba> Salla>m menceriterakannya, dari Abi Ma>lik al-Asy`ari berkata: Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri sebagian dari keimanan, zikir al-hamdulilla>h akan memperberat timbangan kebaikan, subha>nallah wal hamdulilla>h akan memenuhi ruangan langit dan bumi, sala>t akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, kesabaran itu merupakan sinar, dan al-Qur'a>n itu merupakan hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam siksaNya) . HR. Muslim.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

21828 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ قَالَ عَفَّانُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ عَفَّانُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ عَفَّانُ

²³⁸ Muslim. *Sahih Muslim*, juz II, h. 3. nomor hadis 328.

مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ عَلَيْكَ أَوْ لَكَ كُلُّ النَّاسِ يَعُدُّو فَبَايَعِ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا أَوْ مُعْتِقُهَا.²³⁹ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Yahya bin Ishaq menceriterakan kepada kami, Aban bin Yazid menceriterakan kepadaku, Affa bin memberitakan kepada kami, Yahya bin Abi Kasir menceriterakan kepada kami, dari Zaid bin Sallam, dari Abi Sallam, dari Abi Malik al-Asy'ari berkata: Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri sebagian dari keimanan, zikir al-hamdulillah akan memperberat timbangan kebaikan, subhanallah wal hamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi, salawat akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, kesabaran itu merupakan sinar, dan al-Qur'an itu merupakan hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam siksaanNya) . HR.Ahmad bin Hanbal.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

21834 - حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَعُدُّو فَبَايَعِ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا.²⁴⁰ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Affa bin menceriterakan kepada kami, Aban menceriterakan kepada kami, Yahya bin Abi Kasir menceriterakan kepadaku, dari Zaid, dari Abi Sallam, dari Abi Malik al-Asy'ari berkata: Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri sebagian dari

²³⁹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 46, h. 378.nomor hadis 21828.

²⁴⁰ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 46, h.384.nomor hadis 21834

keimanan, ©ikir *al-hamdulilla*>h akan memperberat timbangan kebaikan, *subha*>nallah wal hamdulillah wa Alla>hu akbar akan memenuhi ruangan langit dan bumi, sala>t akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, kesabaran itu merupakan sinar, dan al-Qur`an itu merupakan hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam siksaNya) . HR.Ahmad bin Hanbal.

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ يَعْني
الْعَطَّارَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ
حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَسْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ فَذَكَرَ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّدَقَةُ
نُورٌ.²⁴¹ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Suraij bin al-Nu`ma>n menceritakan kepada kami, Abu>Isha>q Yahya bin Maimun al-Atta>r menceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Kasir menceritakan kepadaku, Zaid bin Salla>m menceritakan kepadaku, dari Abi Salla>m , Abd al-Rahma>n al-Asy`ari> berkata: Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri sebagian dari keimanan, sala>t sebagai bukti, sadakah sebagai cahaya. HR. Ahmad bin Hanbal

5. Riwayat al-Da>rimi>.

678 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ - هُوَ ابْنُ يَزِيدَ - حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَسْعَرِيِّ أَنَّ
نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُ الْمِيزَانَ
، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلِئَانِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ
نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالْوُضُوءُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ

²⁴¹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 46, h.384. nomor hadis 21834.

عَلَيْكَ ، وَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا .²⁴² رواه
الدارمي

Artinya:

Muslim bin Ibra>him memberitakan kepada kami, Aba>n menceriterakan kepada kami, Yahya bin Abi Kasir menceriterakan kepada kami, dari Zaid, dari Abi> Salla>m, dari Abi Ma>lik al-Asy`ari> berkata: Nabi saw., bersabda: Membersihkan diri sebagian dari keimanan, zikir *al-hamdulilla>h* akan memperberat timbangan kebaikan, dan la>ila>ha illalla>h wa Alla>h akbar akan memenuhi ruangan langit dan bumi, sala>t akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, wudhu merupakan sinar, dan al-Qur'an itu merupakan hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam siksaNya) . HR.al-Da>rimi.

6. Riwayat al-Baihaqi>

اخبّرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سهل احمد بن محمد بن زياد القطان ثنا اسحاق بن الحسين الحربى ثنا عفان ثنا ابان ثنا يحيى بن ابى كثير عن زيد بن سلام عن جده مطور عن ابى مالك الأشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والله اكبر تملأ ما بين السماء والارض والصوم جنة والصبر ضياء والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.²⁴³ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu al-Husain Muhammad bin al-Husain menceriterakan kepada kami, Abu Suhail Ahmad bin Muhammad menceriterakan kepada kami, Ishaq bin al-Husain menceriterakan kepada kami, Affan menceriterakan kepada kami, Aban menceriterakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Kasir dari Zaid bin Sallam, dari Mamt-r, dari Abu Malik al-Asy`ari berkata: Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri

²⁴² al-Da>rimi>. *Sunan al-Darimi*, juz II, h. 236. nomor hadis 678.

²⁴³ al-Baihaqi>. *Sunan al-Kubra> li al-Baihaqi>*, juz I, h. 42.

sebagian dari keimanan, ©ikir *al-hamdulillah* akan memperberat timbangan kebaikan, *subhanallah wal hamdulillah* akan memenuhi ruangan langit dan bumi, puasa sebagai perisai, kesabaran itu merupakan sinar, sedekah merupakan bukti, dan al-Qur`an itu merupakan hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam siksaNya) . HR.al-Baihaqi

7. Riwayat al-Tabrani.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ سَلَامٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ يَغْدُو فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا ، أَوْ بَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا " .²⁴⁴ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, M-sa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Kasir menceritakan kepadaku, Yazid menceriterakannya, dari Abu Sallam, dari Abu Malik al-Asy`ari berkata: Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri sebagian dari keimanan, ©ikir *al-hamdulillah* akan memperberat timbangan kebaikan, *subhanallah wal hamdulillah* akan memenuhi ruangan langit dan bumi, salat akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, kesabaran itu merupakan sinar, dan al-Qur`an itu merupakan hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam siksaNya) . HR. al-Tabrani

²⁴⁴ al-Tabrani. *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, kitab *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, bab *juz III*, h. 458.

8. Riwayat al-Tabrani.

3347- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الطَّهُّورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ " .²⁴⁵ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Ibrahim bin Duhaime al-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Bapakku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sya'ib menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Sallam memberitakannya kepadaku dari Zaid bin Sallam, dari neneknya Abu Sallam, dari Abd al-Rahman dari Abu Malik al-Asy'ari berkata: Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri sebagian dari keimanan, ©ikir *al-hamdulillah* akan memperberat timbangan kebaikan, *subhanallah wal hamdulillah* akan memenuhi ruangan langit dan bumi, salat akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, kesabaran itu merupakan sinar. HR.al-Tabrani

9. Riwayat al-Baihaqi.

2595 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيِّ ، بِمَرُورِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَطْحَاءَ ، حَدَّثَنَا عَفَانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ الْأَصْبَهَانِيَّ ، إِمْلَاءً ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ السَّكِينِ ، حَدَّثَنَا عَفَانُ ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « الطَّهُّورُ شَطْرُ (1) الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حِجَابٌ لَكَ

²⁴⁵ al-Tabrani. *Al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, juz III, h. 458.nomor hadis 3347.

أو عليك ، والناس يغدون (2) ، فبائع نفسه فموبقها (3) ، أو مبتاع فمعتقها .²⁴⁶ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Abd Allah Muhammad bin Abd Allah al-Hafiz memberitakan kepada kami, Abu Ahmad Bakar bin Muhammad al-Sairfi memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ali menceriterakan kepada kami, Affan menceriterakan kepada kami, dan Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Abu Bakar Ahmad bin Ishaq menceriterakan kepada kami, Ahmad bin Isa memberitakan kepada kami, Affan menceriterakan kepada kami, Aban bin Yazid memberitakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Kasir, dari Zaid bin Sallam dari Abu Malik al-Asy`ari berkata: Nabi saw., bersabda: Membersihkan diri sebagian dari keimanan, ©ikir al-hamdulillah akan memperberat timbangan kebaikan, subhanallah wal hamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi, salat akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, kesabaran itu merupakan sinar, dan al-Qur`an itu merupakan hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam siksaNya) . HR.al-Baihaqi

10. Riwayat al-Baihaqi.

151 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال : حدثنا محمد بن عيسى قال : حدثنا عفان بن مسلم قال : حدثنا أبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن أبي سلام ، عن أبي مالك الأشعري ، عن النبي ﷺ أنه كان يقول : « الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو ، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » .²⁴⁷ رواه البيهقي

²⁴⁶ al-Baihaqi. *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi*, juz VI, h. 234. nomor hadis 2559.

²⁴⁷ Ab- Bakar Ahmad ibn Husain bin Ali bin Musa al-Baihaqi. *Ma`rifat al-Sunan wa al-sar li al-Baihaqi*, kitab bab al-sunnat al-wudhu` wa

Terjemahnya:

Ali bin Ahmad bin Abdan memberitakan kepada kami, Ahmad bin Ubaid al-Saffar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Isa menceriterakan kepada kami, Affan bin Muslim menceriterakan kepada kami, Aban bin Yazid menceriterakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Kasir, dari Zaid bin Sallam, dari Abu allam, dari Abu Malik al-Asy`ari berkata: Nabi saw., bersabda: Membersihkan diri sebagian dari keimanan, ©ikir al-hamdulillah akan memperberat timbangan kebaikan, subhanallah wal hamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi, salat akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, kesabaran itu merupakan sinar, dan al-Qur`an itu merupakan hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam siksaNya) . HR. al-Baihaqi

2. Hadis Tentang Zikir Subhanallah al-Azim.

Hadis Pertama:

1. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَبْدُ بْنُ مَنِيعٍ وَوَالِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ عُرِسَتْ لَهُ نَحْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.²⁴⁸ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Ahmad ibn Mani` menceriterkan kepada kami, Ruh ibn Ubadah menceriterkan kepada kami, dari Hajjaj al-Sawwaf dari Abi al-Zubair, dari Jabir dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir dengan Subhanallah al-Azim wa bihamdihi maka

fardhihi, bab al-Tuh-ru syatru al-iman wa al-hamdulillah taml`u al-mizan, juz I, h. 184. nomor hadis 151.

²⁴⁸ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat an rasulillah, bab ma ja`a fi fadl al-tasbih wa al-takbir wa al-tahlil wa al-Tahmid, nomor hadis 3386.*

ditanam baginya sebatang pohon kurma di surga..... HR. Al-Turmuzi.

2. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ
الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.²⁴⁹ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Muhammad ibn Rafi` menceriterkan kepada kami, Ma`mul menceriterkan kepada kami, dari Hammad ibn Salamah, dari Abi al-Zubair, dari Jabir dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir dengan Subhanallah al-Azim wa bihamdihi maka ditanam baginya sebatang pohon kurma di surga..... HR. Al-Turmuzi.

Hadis Kedua:

1. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ
أَنْسٍ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ
ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ²⁵⁰ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Nasr ibn Abd al-Rahman al-K-fi menceriterkan kepada kami, al-Muharibi menceriterkan kepada kami, dari Malik ibn Anas, dari Sumayi, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir dengan Subhanallah al-Azim wa bihamdihi seribu kali, maka diampuni dosanya sekalipun sebanyak bui dilaut. HR. Al-Turmuzi.

²⁴⁹ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat an rasulillah, bab ma ja`a fi fadl al-tasbih wa al-takbir wa al-tahlil wa al-Tahmid*, nomor hadis 3387.

²⁵⁰ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat an rasulillah, bab ma ja`a fi fadl al-tasbih wa al-takbir wa al-tahlil wa al-Tahmid*, nomor hadis 3517

2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكُ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ²⁵¹

Terjemahnya:

Abd al-Rahman berkata bahwa Malik membacakan kepadaku, dari Sumayi maula Abi Bakar, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir dengan Subhanallah al-Azim wa bihamdihi seribu kali, maka diampuni dosanya sekalipun sebanyak bui dilaut. HR. Ahmad ibn Hanbal.

3. Hadis Tentang Zikir Subhanallah Rabbi wa bihamdihi.

1. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَهُ أَوْ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ عَادَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ.²⁵² رواه الترميذي

Terjemahnya:

Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqi menceritakan kepada kami, Ismail ibn Ibrahim menceritakan kepada kami, al-Jariri memberitakan kepada kami, dari Abdillah al-Jasri, dari Abdillah ibn al-Samit dari Abi Zar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., ... atau sesungguhnya Abi Zar bertemu Rasulallah saw., berkata: Ya, Abu Engkau Ibu ya, Rasulallah mana kalimat yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla Rasulallah bersabda:

²⁵¹ Ahmad ibn Hanabal, *Kitab baqi musnad al-Mukassirin, bab musnad Abi Hurairah*, nomor hadis 7667.

²⁵² Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da'wat an rasulillah, bab Ayyu al-Kalam ahabbu ilallah*, nomor hadis 3388

kalimat dipilih oleh Allah dan Malaikat yaitu *Subhana Rabbi wa bihamdihi*. HR. Al-Turmuzi.

F. Hadis-Hadis Tentang Hauqalah.

1. Hadis Tentang Zikir *Hauqala* adalah *Kanz al-Arsy*,

1. Riwayat Muslim 4875

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَانُ وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.²⁵³ رواه مسلم

Terjemahnya:

Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, al-Nadr bin Syumail memberitakannya kepada kami, Usman (Ibn Giyaḥ) menceritakan kepada kami, Abu Usman menceritakan kepada kami, dari Abu M-sa al-Asy`ari berkata: Rasulullah saw., berkata kepadaku; ketahuilah aku tunjukkan kepadamu kalimat perbendaharaan surga aku menjawab, ya, maka Rasulullah saw., bersabda; *la haula wa la quwwata illa bi Allah*. HR. Muslim

1) Riwayat Ahmad bin Hanbal nomor hadis 8398

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَلْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Syu`bah menceritakan kepada kami, dari Abu Balj berkata aku mendengar Amr bin Maimun menceritakan dari Abu hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Ketahuilah aku tunjukkan kepadamu kalimat simpanan (tabungan) surga di bawah Arasy yaitu *la haula wala quwwata illa billah*. HR. Ahmad bin Hanbal.

²⁵³ Muslim, *Sahih Muslim, kitab al-Zikr wa al-Du`a wa al-Taubat wa Istigfar, bab Hafz al-Saut bi al-Zikr*, nomor hadis 4875.

1. Riwayat Ahmad Bin Hanbal nomor hadis 20423

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ. رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Mujahid dari Ibn Abu Laila, dari Abu Zar, dari Nabi saw., bersabda: *la haula wa la quwwata illa bi Allah* adalah simpanan dari perbendaharaan syurga. HR. Ahmad bin Hanbal.

2) Riwayat Ahmad bin Hanbal nomor hadis 8398

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَلَجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Balj berkata, aku mendengar Amr bin Maim-n, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Ketahuilah, aku tunjukkan kepadamu kalimat perbendaharaan syurga dari bawah Arasy yaitu, *la quwwata illa billah*. HR. Ahmad bin Hanbal.

1. Riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3814

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Muhammad bin al-Sabbah menceritakan kepada kami, Jarir memberitakan kepada kami, dari 2sim al-Ahwal, dari Abu Usman, dari Abu M-sa berkata: Aku mendengar Nabi saw.,.....*la haula wa la quwwata illa bi Allah*. HR. Ibn Majah

2. Riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3815

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Waki` menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Mujahid, dari Abd al-Rahman bin Abu Laila, dari Abu Zar berkata:ya Rasulullah Rasulullah bersabda: *la haula wa la quwwata illa bi Allah*. HR. Ibn Majah.

2. Hadis tentang Memperbanyak zikir Hauqalah

1. Riwayat Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زَيْنَبٍ مَوْلَى حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا حَازِمُ أَكْثَرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.²⁵⁴ رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazim, perbanyaklah mengucapkan *lahaula wala quwwata illa billah*, sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR. Ibn Majah

2. Riwayat al-Turmuzi,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْعَازِ عَنِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ

²⁵⁴ Ibnu Majah, Sunan ibn Majah, *Kitab al-Adab*, bab *ma ja`a fi la haula wala quwwata illa billah* nomor hadis 3816

مَكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ
كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرِّ أَذْنَاهُنَّ الْفَقْرُ²⁵⁵. رواه الترمذي

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan lahoula wala quwwata illa billah, sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga..... HR.al-Turmuzi

3. Riwayat Ahmad ibn Hanbal,

20447 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ أَمْرِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِسَبْعِ أَمْرِي بِحَبِّ الْمَسَاكِينِ وَالذُّنُوبِ مِنْهُمْ وَأَمْرِي أَنْ أَنْظَرَ إِلَى
مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظَرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمْرِي أَنْ أَصِلَ الرَّجِمَ
وَإِنْ أَدْبَرْتُ وَأَمْرِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمْرِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ
وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمْرِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمْرِي أَنْ أَكْثَرَ
مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتِ
الْعَرْشِ.²⁵⁶ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan lahoula wala quwwata illa billah, sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan di bawah arsy. HR,Ahmad ibn Hanbal

²⁵⁵ Riwayat al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, kitab al-da`wat adan Rasulillah saw, bab fadl la haula wala quwwata illa billah, juz XII, h. 30. nomor hadis 3525

²⁵⁶ Riwayat Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab musnad al-Anjari, bab hadi Ab- Zar al-Giffari radiyallahu anhu, j uz 42, h. 413. nomor hadis 20447

4. Riwayat al-Baihaqi.

(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر الفحام ثنا محمد بن يحيى ثنا عفان بن مسلم ثنا سلام بن سليمان قارئ اهل البصرة (ح وأخبرنا - أبو طاهر قال أنبأ أبو طاهر المحمد أباذى 1 -) ثنا العباس الدوري ثنا يزيد بن عمر بن جنزة المدائني ثنا سلام أبو المنذر المقرئ البصري عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضى الله عنه قال اوصاني خليلي رسول الله ﷺ بسبع امرني ان انظر إلى من هو دوني ولا انظر إلى من هو فوقى وأمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني ان لا اسأل احدا شيئاً وأمرني ان اصل الرحم وان ادبرت وأمرني ان اقول الحق وان كان مرا ، وأمرني ان لا يأخذني في الله لومة لائم وأمرني ان أكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فانها من كنز الجنة.²⁵⁷ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan lahaulā wala quwwata illa billah, sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR. al-Baihaqi

5. Riwayat al-Haris.

(466) حدثنا يزيد ثنا أبو أمية بن فضالة قال سمعت محمد بن واسع يقول قال أبو ذر أوصاني خليلي بسبع انظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقى وان أحب المساكين و أن أدنوا منهم وأن أقول الحق وان كان مرا وأن لا اسأل أحد شيئاً وأن أصل الرحم وان ادبرت وان لا أخاف في الله لومة لائم وان أكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله.²⁵⁸ رواه الحارث

²⁵⁷ al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, jilid I, juz X, h. 91.

²⁵⁸ Al-Haris, *Bugyat al-Haris*, kitab *Bugyat al-Haris*, bab *Bugyat al-Haris* juz I, h. 151. nomor hadis 466

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan *lahaula wala quwwata illa billah*, sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR.al-Haris

6.Riwayat al-Nasa`i.

(10186) أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا أبو حرة عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصمت عن أبي ذر قال أوصاني خليلي أبو القاسم عليه السلام أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة.²⁵⁹ رواه النسائي

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan *lahaula wala quwwata illa billah*, sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR.al-Nasa`i.

7. Riwayat Ibn Abu `jim

2118 - حدثنا يعقوب بن حميد ، نا محمد بن معن بن محمد الغفاري ، حدثني خالد بن سعيد ، عن أبي زينب ، مولى حازم بن حرملة عن حازم صاحب رسول الله عليه السلام قال : مررت بالنبى عليه السلام يوما فدعاني فلما جئته قال : « يا حازم ، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها كنز من كنوز الجنة ».²⁶⁰ رواه ابن أبي عاصم

²⁵⁹ al-Nasa`i. *Kitab Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, h. 96.*
nomor hadis 10186.

²⁶⁰ Ibn Abi `jim , *had wa al-Majani Ibn Abi `jim, juz VI, h. 466.*
nomor hadis 2118

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan lahoula wala quwwata illa billah, sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR. Ibn Abu 2sim

8. Riwayat al-Tabrani,

1625- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا الْعَسَانِيُّ أَبُو مَرْوَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ أَصِلَ رَجَمِي ، وَإِنْ أَدْبَرْتُ ، وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ ، وَإِنْ كَانَ مُرًّا ، وَأَنْ لَا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ ، وَأَنْ أُحِبَّ الْمَسَاكِينَ ، وَأَجَالِسَهُمْ ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتِي ، وَلَا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي ، وَأَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.²⁶¹
رواه الطبراني

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan lahoula wala quwwata illa billah,..... HR. al-Tabrani

9. Riwayat al-Tabrani.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْنَ نَزَلَ عَلَيَّ ، قَالَ : أَلَا أَعْلَمُكَ يَا أَبَا أَيُّوبَ كَلِمَةً مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، قَالَ : أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.²⁶² رواه الطبراني

²⁶¹ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, juz II, h. 212. nomor hadis 1620

²⁶² al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, juz IV, h. 181.

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata Nabi saw., ... perbanyaklah mengucapkan lahoula wala quwwata illa billah,. HR. al-Tabrani

10. Riwayat al-Tabrani,

3803- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَنَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الشُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي الْمُطَلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ ، فَقَالَ لِي : أَلَا أَمْرُكَ بِمَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ .²⁶³ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan lahoula wala quwwata illa billah, sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR.al-Tabrani

11. Riwayat al-Tabrani.

2017 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : نَا ابْنَ أَبِي فَيْدِيكَ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ حِمْرَانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ : أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَةً عَلِمْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا عَم . قَالَ : إِنْ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ عَلَيَّ قَالَ : « أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَةً مِنْ

²⁶³ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani*, kitab bab 2lif, bab min ismihi Ahmad.

« كنز الجنة ؟ » قلت : بلى ، يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي . قال : « أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله »²⁶⁴. رواه الطبراني

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan lahoula wala quwwata illa billah,. HR. Al-Tabrani

12.Riwayat al-Baihaqi.

3276 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداًبأبدي ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يزيد بن جنزة المدائني ، حدثنا سلام أبو المنذر المقرئ البصري ، عن محمد بن واسع ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ، قال أوصاني خليلي ﷺ بسبع : « أمرني أن أنظر إلى من هو دوني ، ولا أنظر إلى من هو فوقني ، وأمرني بحب المساكين والذنو (1) منهم ، وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاً ، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت (2) ، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا ، وأمرني أن لا يأخذني في الله لومة لائم ، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة »²⁶⁵. رواه البيهقي

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan lahoula wala quwwata illa billah, sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR.al-Baihaqi

²⁶⁴ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani, bab juz IV, h. 479. nomor hadis 2017*

²⁶⁵ al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, juz V, 433. nomor hadis 3276*

13. Riwayat Ibn Hibban.

450 - أخبرنا الحسن بن إسحاق الأصبهاني بالكرخ ، قال : حدثنا إسماعيل بن يزيد القطان ، قال : حدثنا أبو داود ، عن الأسود بن شيبان ، عن محمد بن واسع ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ، قال : أوصاني خليلي ﷺ ، بخصال من الخير : أوصاني : « بأن لا أنظر إلى من هو فوقني ، وأن أنظر إلى من هو دوني (1) ، وأوصاني بحب المساكين والذنو (2) منهم ، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت ، وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم ، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا ، وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنها كنز من كنوز الجنة »²⁶⁶. رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan lahaulaha wala quwwata illa billah, sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR. Ibn Hibban

14. Riwayat Abu Na`im.

1462 - حدثنا أبو بكر بن خالد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا أبو أمية بن فضالة ، قال : سمعت محمد بن واسع ، يقول ح وحدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا القاسم بن أحمد بن زياد الشيباني ، حدثنا عفان ، ثنا سلام أبو المنذر ، عن محمد بن واسع ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ، قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع : « أنظر إلى من هو أسفل مني ، ولا أنظر إلى من هو فوقني ، وأن أحب المساكين ، وأن أدنو منهم ، وأن أقول الحق وإن كان مرا ، ولا أسأل أحدا شيئا ، وأن أصل الرحم وإن

²⁶⁶ Ibn Hibban, *ṣahih ibn Hibban, kitab al-bir wa al-Ihsan, bab silatu al-rahim wa qatauha*, juz II, h. 389. nomor hadis 450

أدبرت ولا أخاف في الله لومة (1) لائم ، وأن أكثر من قول : لا حول (2) ولا قوة إلا بالله²⁶⁷. رواه أبي نعيم

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan lahaulā wala quwwata illa billah, HR.Abi Nu`aim

15. Riwayat Abu Na`im.

2055 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، وأبو أحمد محمد بن أحمد قالوا : حدثنا الحسن بن سفيان ، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، ح وحدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا عباس الأسفاطي ، ثنا إبراهيم بن حمزة ، ح وحدثنا محمد بن الحسن اليقطيني ، ثنا عمر بن سنان ، ثنا حامد بن يحيى البلخي ، قالوا : ثنا محمد بن معن بن نضلة الغفاري ، حدثني خالد بن سعيد ، أخبرني أبو زبيب ، مولى حازم بن حرملة ، عن حازم بن حرملة ، قال : مررت برسول الله ﷺ فدعاني أو نوديت له ، فلما وقفت عليه قال : « يا حازم أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة »²⁶⁸. رواه أبي نعيم

Terjemahnya:

Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma`n menceritakan kepada kami, Khalid bin Sa`id menceritakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, perbanyaklah mengucapkan lahaulā wala quwwata illa billah, sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan surga. HR. Abu Nu`aim

²⁶⁷ Abi Na`im, *Ma`rifah al-ṣahābah li Abi Na`im al-Asbahani*, kitab al-jim, bab min ismih jundub, juz V, h. 14. nomor hadis 1462

²⁶⁸ Abi Na`im, *Ma`rifah al-ṣahābah li Abi Na`im al-Asbahani*, kitab bab al-ha`i, bab min ismih Huḡain , juz VI, h. 280. nomor hadis 2055

Hadis-Hadis Tentang Zikir

BAGIAN KETIGA HADIS-HADIS TENTANG ZIKIR SALAWAT

1. Hadis Tentang Salawat Kepada Nabi dan Keluarganya:

1. Riwayat Malik.

358 - وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرْنَا اللَّهَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.²⁶⁹ رواه موطأ مالك

Terjemahnya:

Telah Menceritakan pada kami Yahya bin Yahya Attamimiy, dia berkata : Saya telah membacakan pada Malik, dari Nu'aim bin Abdillah Almujmir Bahwa sungguh Muhammad bin Abdillah bin Zaid Al-anshoriy, dan Abdulloh bin Zaid , dia yg saya perhatikan panggilan sholat telah menceritakan padanya dari Abi Mas'ud Al-anshoriy , dia berkata : "Rasulullah saw mendatangi kami dan kami sedang dalam majlisnya Sa'ad bin 'Ubadah. Maka Basyir bin Sa'd bertanya pada Nabi saw : "Alloh ta'ala telah memerintahkan kami agar kami bersholawat pada Engkau ya Rosulalloh, maka bagaimana kami bersholawat oada Engkau ? Berkata rowi : maka Rasulullah saw diam, sehingga kami berharap-harap bahwa sungguh dia (Basyir) tidaklah bertanya pada Beliau. Kemudian Rasulullah saw bersabda : "Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid.* Sedang ucapan salam seperti salam yg sungguh kalian telah mengetahuinya".

2. Riwayat al-Bukhari

²⁶⁹ Riwayat Malik. *Muwatta`Malik*, juz II, h. 21. nomor hadis 358.

3119 - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ مُسْلِمٌ بْنُ سَالِمِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْسَى سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِيهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁷⁰ رواه البخاري

Terjemahnya:

.....Kemudian Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid.....*".

3. Riwayat al-Bukhari.

4423 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁷¹ رواه البخاري

Terjemahnya:

"Rasulullah saw mendatangi kami dan kami sedang dalam majlisnya Sa'ad bin 'Ubadah. Maka Basyir bin Sa'd bertanya pada Nabi saw : "Alloh ta'ala telah memerintahkan kami agar kami bersholawat pada Engkau ya Rosulalloh, maka bagaimana kami bersholawat oada Engkau ? Berkata rowi : maka Rasulullah saw diam, sehingga kami berharap-harap bahwa sungguh dia (Basyir) tidaklah bertanya pada Beliau. Kemudian Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh

²⁷⁰ al-Bukhari. ʿahih al-Bukhari, juz XI, h. 156, nomor hadis 3119.

²⁷¹ ʿahih al-Bukhari, juz XIV, h. 848, nomor hadis 4423 .

kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid.*
HR.al-Bukhari

4. Riwayat al-Bukhari.

5880 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ أَقْبَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁷² رواه البخاري

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya.
.....HR.al-Bukhari

5. Riwayat Muslim.

613 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُؤُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ

²⁷² ṣahih al-Bukhari, juz XIX, h. 441, nomor hadis 5880

إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.²⁷³ رواه مسلم

Terjemahnya:

"Rasulullah saw mendatangi kami dan kami sedang dalam majlisnya Sa'ad bin 'Ubadah. Maka Basyir bin Sa'd bertanya pada Nabi saw : "Allah ta'ala telah memerintahkan kami agar kami bersholawat pada Engkau ya Rosulalloh, maka bagaimana kami bersholawat pada Engkau ? Berkata rowi : maka Rasulullah saw diam, sehingga kami berharap-harap bahwa sungguh dia (Basyir) tidaklah bertanya pada Beliau. Kemudian Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid.* Sedang ucapan salam seperti salam yg sungguh kalian telah mengetahuinya". HR.Muslim

6. Riwayat Muslim.

614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نَسَلِمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فُؤَلُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁷⁴ رواه مسلم

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya.HR.Muslim

7. Riwayat Abu Dawud.

830 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ

²⁷³ Cahih Muslim, juz II, h. 373, nomor hadis 613.

²⁷⁴ Cahih Muslim, juz II, h. 374, nomor hadis 614.

عَلَيْكَ وَأَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ فَأَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ
قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ.²⁷⁵ رواه ابو داود

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi Dawud

8. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ صَلَّى
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁷⁶ رواه ابو داود

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi Dawud

9. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا الْفَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي أُرِيَ التَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرْنَا اللَّهُ أَنْ
نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ

²⁷⁵ Sunan Abi Dawud, juz III, h. 161, nomor hadis 830.

²⁷⁶ Sunan Abi Dawud, juz III, h. 161, nomor hadis 830.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ فِي آخِرِهِ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁷⁷ رواه ابو داود

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi Dawud

10. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْةِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.²⁷⁸ رواه ابو داود

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi Dawud

11. Riwayat al-Turmuzi.

445 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ وَالْأَجْلَحِ وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁷⁹ رواه الترميذي

²⁷⁷ Abi Dawud. Sunan Abi Dawud, juz III, h. 162.

²⁷⁸ Abi Dawud. Sunan Abi Dawud, juz III, h. 162.

²⁷⁹ al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, juz II, h. 303, nomor hadis 445.

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Turmuzi

12. Riwayat al-Turmuzi.

3144 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ الَّذِي كَانَ أَرِيَّ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بِشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ²⁸⁰

Terjemahnya:

Telah Menceritakan pada kami Yahya bin Yahya Attamimiy, dia berkataRasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid.* Sedang ucapan salam seperti salam yg sungguh kalian telah mengetahuinya". HR.al-Turmuzi

13. Riwayat al-Nasa'i.

1268 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْأَفَسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ الَّذِي أَرِيَّ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ

²⁸⁰ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi*, juz XI, h. 9, nomor hadis 3144.

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ
بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ
نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ
يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ فُؤُؤُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ .²⁸¹ رواه
النسائي

Terjemahnya:

Telah Menceritakan pada kami Yahya bin Yahya Attamimiy, dia berkataRasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid.* Sedang ucapan salam seperti salam yg sungguh kalian telah mengetahuinya". HR.al-Nasa'i.

14. Riwayat al-Nasa'i.

1270 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ
بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ
قَدْ عَرَفْنَاكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ فُؤُؤُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ.²⁸² رواه النسائي

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Nasa'i

²⁸¹ al-Nasa'i. Sunan al-Nasa'i, juz V, h. 57, nomor hadis 1268.

²⁸² al-Nasa'i. Sunan al-Nasa'i, juz V, h. 61, nomor hadis 1270.

15. Riwayat al-Nasa`i.

1271 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁸³ رواه النسائي

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya.
HR.al-Nasa`i

16. Riwayat al-Nasa`i.

1272 - أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ لِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَاكَ كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁸⁴ رواه النسائي ُ

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya.
HR.al-Nasa`i

17. Riwayat al-Nasa`i.

1273 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ

²⁸³ al-Nasa`i. *Sunan al-Nasa`i*, juz V, h. 62, nomor hadis 1271.

²⁸⁴ al-Nasa`i. *Sunan al-Nasa`i*, juz V, h. 63, nomor hadis 1272.

قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁸⁵ رواه النسائي

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Nasa`i

18. Riwayat al-Nasa`i.

1274 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁸⁶ رواه النسائي

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Nasa`i.

19. Riwayat Ibn Majah.

894 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةَ حَرَجٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

²⁸⁵ al-Nasa`i. Sunan al-Nasa`i, juz V, h. 65, nomor hadis 1273.

²⁸⁶ al-Nasa`i. Sunan al-Nasa`i, juz V, h. 66, nomor hadis 1274.

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.²⁸⁷ رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Ibn Majah.

20. Riwayat Ibn Majah.

896 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَيَانَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي فَاخْتَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالُوا لَهُ فَعَلَّمْنَا قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغِيبُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.²⁸⁸ رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Ibn Majah.

²⁸⁷ Ibn Majah. Sunan Ibn Majah, juz III, h. 151, nomor hadis 894.\

²⁸⁸ Ibn Majah. Sunan Ibn Majah, juz III, h. 153, nomor hadis 896.

21. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

1323 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا
عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁸⁹ رواه احمد
بن حنبل

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Ahmad ibn Hanbal.

22. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

1621 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
حَكِيمٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلْمَةَ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دَعَا مُوسَى
بْنَ طَلْحَةَ جِئِن عَرَسَ عَلَى ابْنِهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَيْسَى كَيْفَ بَلَغَكَ فِي
الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُوسَى سَأَلْتُ زَيْدُ بْنُ
خَارِجَةَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَيْدُ ابْنِي
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِي فَقُلْتُ كَيْفَ الصَّلَاةُ
عَلَيْكَ قَالَ صَلُّوا وَاجْتَهِدُوا ثُمَّ قُولُوا اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁹⁰ رواه احمد بن
حنبل

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ahmad ibn Hanbal.

²⁸⁹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III, h. 331, nomor hadis 1323.

²⁹⁰ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz IV, h. 137, nomor hadis 1621.

23. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

16450 - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁹¹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ahmad ibn Hanbal.

24. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

17409 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁹² رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ahmad ibn Hanbal.

²⁹¹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz XXXIV, h. 436, nomor hadis 16450.

²⁹² Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz XXXVII, h. 64 nomor hadis 17409.

25. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

17410 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا أَوْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁹³ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ahmad ibn Hanbal.

26. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

17425 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ فَعَلِمَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.²⁹⁴ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim.

²⁹³ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz XXXVII, h. 65, nomor hadis 17410.

²⁹⁴ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz XXXVII juz III, h. 331, nomor hadis 17425.

Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ahmad ibn Hanbal.

27. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

17431 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } قَالُوا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .²⁹⁵
رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ahmad ibn Hanbal.

28. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

21320 - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمَّرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرْنَا اللَّهَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.²⁹⁶
رواه احمد بن حنبل

²⁹⁵ Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz XXXVII, h. 86, nomor hadis 17431

²⁹⁶ Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 45, h. 334, nomor hadis 21320.

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ahmad ibn Hanbal.

29. Riwayat Ibn Abi Syaibah.

(4) حدثنا محمد بن بشر عن مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة قال : " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد " ²⁹⁷.

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn Abi Syaibah.

30. Riwayat al-Baihaqi.

(اخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني من اصل كتابه ثنا أبو سعيد بن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبد الله بن نافع ثنا مالك (ح واخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن عبد السلام الوراق ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجرم ان محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري و عبد الله بن زيد هو الذي كان ارى النداء بالصلوة اخبره عن ابي مسعود قال اتانا رسول الله ﷺ ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلى عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك قال فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا انه لم يسأله ثم قال رسول الله ﷺ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

²⁹⁷ Abi Syaibah, Musannaf Ibn Abi Syaibah, juz II, h. 391, nomor hadis 4.

كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم²⁹⁸

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Al-Baihaqi.

31. Riwayat al-Baihaqi

(اخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني عبد الرحمن بن الحراث بن الحسن بن احمد الاسدي انبأ ابراهيم بن الحسن ثنا آدم بن ابى اياس ثنا شعبة ثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن ابى ليلى يقول لقيني كعب بن عجرة فقال لى الا اهدى لك هدية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد²⁹⁹

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. HR. Al-Baihaqi.

32. Riwayat al-Baihaqi.

(اخبرنا) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ غير مرة انبأ أبو بكر احمد بن سلمان الفقيه ببغداد انبأ أبو بكر احمد ابن زهير بن حرب ثنا أبو سلمة موسى بن اسمعيل ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو فروة حدثني عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ابى ليلى انه سمع عبد الرحمن بن ابى ليلى يقول لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدى لك

²⁹⁸ Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, , juz II, h. 146,

²⁹⁹ Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, , juz II, h. 147,

هدية سمعتها من النبي ﷺ فقلت بلى فاهده إلى قال سألنا رسول الله ﷺ قلنا يا رسول الله كيف الصلوة عليكم اهل البيت قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمداً وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد³⁰⁰

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. HR. Al-Baihaqi.

33. Riwayat Ibn Abi Syaibah

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال : " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد " .³⁰¹

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn Abi Syaibah.

34. Riwayat al-Baihaqi.

(واخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ أحمد بن ابراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن يحيى بن السباق عن رجل من بنى الحارث

³⁰⁰ Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, , juz II, h. 148,

³⁰¹ Abi Syaibah, Musannaf Ibn Abi Syaibah, juz II, h. 390, nomor hadis 4.

عن ابن مسعود عن رسول الله ﷺ انه قال إذا تشهد احدكم في الصلوة فليقل اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك (1) على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد³⁰²

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. HR. Al-Baihaqi.

35. Riwayat Abd al-Razzaq.

3106 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : كنت جالسا عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال : قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال قولوا : اللهم ! صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.³⁰³

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abd al-Razzaq.

36. Riwayat Abd al-Razzaq.

3107 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن كعب ابن عجرة قال : يارسول الله ! قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم ! صل على آل محمد ، اللهم ! بارك

³⁰² Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, juz II, h. 379,

³⁰³ Abd. Al-Razzaq, *Musannaf Abd al-Razzaq*, juz II, h.212, nomor hadis 3106

على آل محمد كما باركت وصليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد
مجيد.³⁰⁴

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abd al-Razzaq.

37. Riwayat Abd al-Razzaq.

عمر بن الخطاب أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره [عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : أتانا رسول الله ﷺ فجلس معنا في مجلس سعد بن عباد ، فقال له بشير بن سعد - وهو أبو النعمان بن بشير - أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : فصمت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال : قولوا ! اللهم ! صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد ، [وعلى آل محمد كما باركت على (آل) إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد] والسلام] كما قد علمتم³⁰⁵.

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abd al-Razzaq.

38. Riwayat al-Tahawi.

1865 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، وفهد ، قالوا : حدثنا القعني ، قال : حدثنا داود بن قيس ، عن نعيم بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، (ح) وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : ثنا حاجب بن سليمان ، قال :

³⁰⁴ Abd. Al-Razzaq, *Musannaf Abd al-Razzaq*, juz II, h.212.nomor hadis 3107

³⁰⁵ Abd. Al-Razzaq, *Musannaf Abd al-Razzaq*, juz II, h.213.

حدثنا ابن أبي فديك ، قال : حدثنا داود بن قيس ، عن نعيم بن عبد الله المجرم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، والسلام كما قد علمتم³⁰⁶

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya.
HR. Al-Tahawi

39. Riwayat al-Nasa`i.

(1208) أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجرم أن محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري وعبد الله بن زيد الذي أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الانصاري أنه قال اتانا رسول الله ﷺ في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم³⁰⁷

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian :
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil

³⁰⁶ Al-Tahawi, *Musykil al-Asar li al-Tahawi*, juz V, h. 227, nomor hadis 1865.

³⁰⁷ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz I, h. 381.nomor hadis 1208.

'*alamina innaka hamiidun majid*. Sedang ucapan salam seperti salam yg sungguh kalian telah mengetahuinya".. HR. al-Nasa`i.

40. Riwayat al-Nasa`i.

(1210) أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار من كتابه قال نا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد³⁰⁸

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

41. Riwayat al-Nasa`i.

(1211) أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال نا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجر قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد³⁰⁹

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

42. Riwayat al-Nasa`i.

³⁰⁸ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz I, h. 382.nomor hadis 1210.

³⁰⁹ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz I, h. 382.nomor hadis 1211.

(1212) أخبرنا سويد بن نصر أنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى قال قال لي كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية قلنايا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد³¹⁰

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

43. Riwayat al-Nasa`i.

(1213) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا محمد بن بشر قال نا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنايا رسول الله كيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد³¹¹

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

44. Riwayat al-Nasa`i.

(1214) أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال نا عمر قال نا شريك عن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى نبي الله ﷺ فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله قال قولوا

³¹⁰ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz I, h. 382.nomor hadis 1212.

³¹¹ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz I, h. 383.nomor hadis 1213.

اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد³¹²

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

45. Riwayat al-Nasa`i.

(1215) أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال سألت زيد بن خارجة قال أنا سألت رسول الله ﷺ فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد³¹³

Terjemahnya:

Sa`id ibn Yahya ibn Sa`id al-Amawi memberitakan kepada kami, dari Bapaknya, dari Usman ibn Hakim, dari Khalid ibn Salamah, dari M-sa ibn Talhah berkata; aku bertanya kepada Zaid ibn Harijah berkata sesungguhnya aku bertanya kepada Rasulullah saw., beliau bersabda: Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya.HR. al-Nasa`i.

46. Riwayat al-Nasa`i.

(7671) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا محمد بن بشر قال ثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد³¹⁴

Terjemahnya:

³¹² al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz I, h. 383.nomor hadis 1214.

³¹³ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz I, h. 383.nomor hadis 1215.

³¹⁴ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz IV, h. 396 nomor hadis

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

47. Riwayat al-Nasa`i.

(7672) أخبرنا محمد بن معمر قال ثنا أبو هشام المخزومي قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا عثمان بن حكيم قال ثنا خالد بن سلمة قال سمعت موسى بن طلحة وسأله عبد الحميد كيف الصلاة على النبي ﷺ قال سألت زيد بن خارجة الانصاري قال سألت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال صلوا علي ثم قولوا اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحليم الكريم³¹⁵

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

48. Riwayat al-Nasa`i.

(9875) أخبرنا حاجب بن سليمان قال حدثنا بن أبي فديق قال حدثنا داود بن قيس عن نعيم بن عبد الله المجرم عن أبي هريرة قال قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم³¹⁶

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama*

³¹⁵ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz IV, h. 396 nomor hadis 7672.

³¹⁶ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz IV, h. 396 nomor hadis 7672.

shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid. Sedang ucapan salam seperti salam yg sungguh kalian telah mengetahuinya". HR. al-Nasa`i.

49. Riwayat al-Nasa`i.

(9876) أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجرم ان محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري أخبره عن أبي مسعود الانصاري قال اتى رسول الله ﷺ في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك يا رسول الله فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا انه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد³¹⁷

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

50. Riwayat al-Nasa`i.

(9878) أخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن عبد الرحمن وهو بن بشر عن أبي مسعود الانصاري قال قيل للنبي ﷺ أمرنا الله ان نصلي عليك ونسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم³¹⁸

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan

³¹⁷ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz VI, h. 17 nomor hadis 9876.

³¹⁸ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz VI, h. 18 nomor hadis 9878.

kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

51. Riwayat al-Nasa`i.

(9881) أخبرني سعيد بن يحيى بن سعيد في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال سألت زيد بن خارجة قال انا سألت رسول الله ﷺ قال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد³¹⁹

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

52. Riwayat al-Nasa`i

(9882) أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى قال قال كعب بن عجرة الا أهدي لك هدية قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل وآل محمد وآل محمد كما صليت على (آل) (1) إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وآل محمد ، كما باركت على (آل) إبراهيم إنك حميد مجيد³²⁰

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

53. Riwayat al-Nasa`i.

(10191) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عبد الكريم عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن كعب بن

³¹⁹ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz VI, h. 19 nomor hadis 9881.

³²⁰ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz VI, h. 19 nomor hadis 9882.

عجزة قال قانتيا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد³²¹

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

54. Riwayat al-Nasa`i.

(9879) أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر قال قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف التسليم عليك فكيف بالصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم³²²

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

55. Riwayat al-Nasa`i.

(9880) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد³²³

³²¹ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz VI, h. 97 nomor hadis

10191.

³²² al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz VI, h. nomor hadis 9879.

³²³ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz VI, h. 18 nomor hadis 9880.

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

56. Riwayat al-Nasa`i.

قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى نبي الله ﷺ فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد³²⁴

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

57. Riwayat al-Nasa`i.

(10193) حدثنا أبو عبد الرحمن قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يحيى الثقفي ثقة مأمون قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن سلمة قال سمعت عبد الحميد سأل موسى بن طلحة كيف الصلاة على النبي ﷺ فقال موسى سألت زيد بن خارجه فقال سألت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال صلوا ثم قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد³²⁵

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan

³²⁴ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz VI, h. 98 nomor hadis

³²⁵ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz VI, h. 98 nomor hadis 10193

kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

58. Riwayat al-Nasa`i.

(11423) أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا بن القاسم عن مالك قال حدثني نعيم المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره عن أبي مسعود الانصاري أنه قال اتانا رسول الله ﷺ في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم³²⁶

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

59. Riwayat Akhbar Makah al-Fakihi.

966 - حدثنا محمد بن أبي عمر قال : حدثنا سفيان ، عن سالم بن أبي حفصة قال : « أول ما عرفت سعيد بن جببر بمكة صليت ليلة وراء المقام ، فلبثت قريبا من سعيد ، وأنا لا أعرفه بعد ، فقلت : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد³²⁷

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad dan

³²⁶ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz VI, h. 436 nomor hadis 11423

³²⁷ al-Akhbar Makah, juz III, h. 79 nomor hadis 966

kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Ahbar Makkah.

60. Riwayat Ibn Abi Asim.

1767 - حدثنا يعقوب بن حميد ، ثنا مروان بن معاوية ، ثنا عثمان بن حكيم ، عن خالد بن سلمة ، عن موسى بن طلحة ، عن زيد بن خارجة ، أخ لبني حارثة بن الخزرج رضي الله عنه قال : سألت رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال : « صلوا علي وقولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد »³²⁸

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Ibn Abi Asim.

61. Riwayat al-Hakim.

942 - حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ محمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن يحيى بن السباق ، عن رجل ، من بني الحارث ، عن ابن مسعود ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، وارحم محمدًا ، وآل محمد كما صليت ، وباركت ، وترحمت ، على إبراهيم إنك حميد مجيد »³²⁹

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad dan

³²⁸ al-Ibn Abi Asim, *al-Ahadis wa al-Masani*, juz V, h. 445 nomor hadis 1767

³²⁹ al-Hakim`i, *al-Mustadrak ala al-Sahihain*, , juz II, h. 498 .nomor hadis 942.

kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Hakim

62. Riwayat al-Hakim.

4693 - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ببغداد ، ثنا أحمد بن زهير بن حرب ، ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا أبو فروة ، حدثني عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى ، قال : فاهدها إلي ، قال : سألتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله ، كيف الصلاة عليكم أهل البيت ، قال : « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »³³⁰

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Hakim

63. Riwayat al-Tabrani.

4998 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَوَّحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِجَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

³³⁰ al-Hakim`i, *al-Mustadrak ala al-Sahihain*, , juz XI, h. 17 .nomor hadis 4693.

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Tabrani.

64. Riwayat al-Tabrani

14144- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمَّرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَثَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ قَدْ عَلِمْتُمْ".³³¹

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

65. Riwayat al-Tabrani

15588- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ

³³¹ al-Tabrani, al-Mu`jam al-kabir , juz II, h. 228 .nomor hadis 14144.

عُجْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟، قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".³³²

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

66. Riwayat al-Tabrani

15589- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَحْسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرَارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟، قَالَ: "قُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".³³³

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

70. Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 482)

³³² al-Tabrani, al-Mu`jam al-kabir , juz XIII, h. 472 .nomor hadis 15588.

³³³ al-Tabrani, al-Mu`jam al-kabir , juz XIII, h. 473 .nomor hadis 15589.

15608- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ؟، قَالَ: "فُؤُلُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

71.Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 483)
15609- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟، قَالَ: "فُؤُلُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

72.Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 484)

15610- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ح، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيِّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح، وَحَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، "فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟"، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

73. Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 486)
15612- حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَنْبِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْأَسْنَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: أَلَا أُهْدِيكَ هَدِيَّةً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا، أَوْ قَالَ: قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ، "فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟"، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

74. Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 486)
 15613- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ الْحَلْبِيِّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، "فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟"، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

75. Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 487)
 15614- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ بَنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ" [الأحزاب آية 56] ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، "فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟"، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkat Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

76. Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 488)
15615- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَتَّاتِ، حَدَّثَنَا مُنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرِ ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمِ الرَّازِيِّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَثْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كُلُّهُمُ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامِ عَلَيْكَ، "فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟"، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkat Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

77. Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 489)
15616- حَدَّثَنَا الْمُفْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغْبِرَةِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، وَحَمْرَةُ الزِّيَّاتِ ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمْرَةُ الزِّيَّاتِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامِ عَلَيْكَ، "فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟"، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

78. Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 490)
15617- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الصَّبَّاحُ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُقْبِلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِفِ
النَّيْمِيِّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ
عُجْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَدُ
عَرَفْنَاهُ، "فَكَيْفَ نَصَلِّي عَلَيْكَ؟"، قَالَ: فُؤَلُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79. Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 490)
15618- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَدَقَةَ الْبَغْدَادِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
خَالِدِ بْنِ خُلَيْبِ الْجُمَيْيِّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَلْمَةُ الْعَوْصِيَّةُ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ صَالِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ
عُجْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَدُ

عَرَفْنَاهُ، "فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"،

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79.Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 492)
15620- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَنْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو فَرَوَةَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟، قُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِ لِي، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، "كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ؟، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79.Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 493)
15621- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ الْفَرَّازِيِّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ لَهُ: أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، "فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟"، قَالَ: قُلُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79.Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 494)
 15622- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حُدَيْفَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ" [الأحزاب آية 56] ، الْحَدِيثُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" [الأحزاب آية 56] ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، قُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ، "فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟"، قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79. Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 495)
15623- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارَبِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الْبَقَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَا، "فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟" قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79. Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 13 / ص 496)
15624- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، "فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟" قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan

rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79.Riwayat al-Tabrani

المعجم الكبير للطبراني - (ج 14 / ص 26)
 15674- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْفَطَّانِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ النَّسْتَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ السَّلَامِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ؟، فَقَالَ: "تَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79.Riwayat al-Tabrani

المعجم الأوسط للطبراني - (ج 5 / ص 414)
 2458 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ : نا عبید الله بن محمد ابن عائشة التيمي قال : نا عبد الواحد بن زياد ، قال أبو فروة سلم بن سالم قال : نا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية ؟ قلت : بلى ، فاهدها لي قال : قلت : يا رسول الله ، كيف الصلاة عليكم أهل البيت ، فإنا قد علمنا كيف نسلم ؟ قال : « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79. Riwayat al-Tabrani

المعجم الأوسط للطبراني - (ج 6 / ص 141)
2685 - حدثنا أبو مسلم قال : نا الحكم قال : نا إسرائيل ، عن عثمان بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه قال : قلنا : قد علمنا كيف السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79. Riwayat al-Tabrani

المعجم الأوسط للطبراني - (ج 6 / ص 143)
2687 - حدثنا أبو مسلم قال : نا الربيع قال : نا مالك بن مغول ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة قال : ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى قال : قال رجل : يا رسول الله ، قد علمنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد ، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim.

Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79.Riwayat al-Tabrani

المعجم الأوسط للطبراني - (ج 7 / ص 26)
 3070 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم النسيبي قال : نا ميمون بن الأصبع قال : نا أبو بكر الحنفي قال : نا مسعر بن كدام ، عن سلمة بن كهيل ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة قال : قال رجل : يا رسول الله ، هذا السلام عليك قد عرفناه ، فكيف الصلاة ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79.Riwayat al-Tabrani

المعجم الأوسط للطبراني - (ج 10 / ص 194)
 4640 - حدثنا عبد الله بن علي الجارودي قال : نا أحمد بن حفص قال : حدثني أبي قال : نا إبراهيم بن طهمان ، عن إسماعيل السدي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة قال : قلنا يا رسول الله ، هذا السلام عليك ، قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim.

Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79.Riwayat al-Tabrani

المعجم الأوسط للطبراني - (ج 15 / ص 108)
7030 - حدثنا محمد بن معاذ ، نا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، أن أصحاب النبي ﷺ ، قالوا : يا رسول الله ، هذا السلام عليك قد عرفناه ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79.Riwayat al-Tabrani

المعجم الصغير للطبراني - (ج 1 / ص 204)
201 - حدثنا أحمد بن محمد بن عمر أبو بشر المروزي ، ببغداد بأصبهان ، حدثنا محمود بن آدم المروزي ، حدثنا الفضل بن موسى السيناني ، عن أبي هانئ عمرو بن بشير ، حدثنا الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال : أما السلام فقد عرفته ، فكيف الصلاة ؟ فعلمه أن يقول : « اللهم ، صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد (1) ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim.

Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79. Riwayat al-Tabrani

المعجم الصغير للطبراني - (ج 1 / ص 237)
 233 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم النسيبي ، حدثنا ميمون بن الأصبع ، حدثنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا مسعر بن كدام ، عن سلمة بن كهيل ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة قال : قال رجل : يا رسول الله ، هذا السلام عليك قد عرفناه ، فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم ، صل على محمد ، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد (1) ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

79. Riwayat al-Baihaqi

شعب الإيمان للبيهقي - (ج 4 / ص 74)
 1515 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ح وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ، أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا زيد بن الحباب حدثني مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا محمد بن عبد السلام الوراق ، حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نعيم بن عبد الله المجرم ، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري ، وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : أتانا رسول الله ﷺ ، ونحن في مجلس سعد بن عبادة ، فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله ، فكيف نصلّي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا : « اللهم صل

على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد ، والسلام كما قد علمتم

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Baihaqi.

Riwayat al-Baihaqi

شعب الإيمان للبيهقي - (ج 4 / ص 109)
1549 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وعدهن في يدي قال : عدهن في يدي أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة قال : عدهن في يدي علي بن أحمد العجلي ، وقال : لي عدهن في يدي حرب بن الحسن الطحان ، وقال لي : عدهن في يدي يحيى بن المساور الحناط وقال لي : عدهن في يدي عمرو بن خالد وعد الإمام أحمد في أيدي من سمع منه ح قال : وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وعدهن في يدي ، أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني بالكوفة ، وعدهن في يدي ، أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن بن كاس بالرملة وعدهن في يدي ، حدثنا جدي لأبي سليمان بن إبراهيم بن عبيد المحاربي ، وعدهن في يدي ، حدثنا نصر بن مزاحم المنقري وعدهن في يدي ، حدثنا إبراهيم بن الزبرقان وعدهن في يدي ، حدثنا أبو خالد عمرو بن خالد وعدهن في يدي قال لي : وعدهن في يدي زيد بن علي ، وقال لي : عدهن في يدي أبي علي بن الحسين وقال لي : عدهن في يدي أبي الحسين بن علي ، وقال لي : عدهن في يدي علي بن أبي طالب قال لي : عدهن في يدي رسول الله ﷺ ، وقال رسول الله ﷺ : « عدهن في يدي جبريل عليه السلام وقال جبريل هكذا أنزلت من عند رب العزة : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم وترحم على محمد ، وعلى آل

محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، اللهم وتحزن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid.* " Riwayat al-Baihaqi

شعب الإيمان للبيهقي - (ج 9 / ص 107)

3916 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسيدي الحافظ بهمدان ، حدثنا علي بن الحسن بن عبد الصمد الطيالسي . علان الحافظ ، حدثنا أبو إبراهيم الترمذاني ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الطلحي ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن محمد بن سوقة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ، ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة ، ثم يقرأ قل هو الله أحد مائة مرة ، ثم يقول : اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

Terjemahnya:

.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid.* "HR. al-Baihaqi.

Riwayat al-Darimi.

سنن الدارمي - (ج 4 / ص 142)

1392 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي قَالَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : لَقَيْتَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قَالَ : « فُؤَلُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Darimi.

Riwayat al-Darimi.

سنن الدارمي - (ج 4 / ص 143)
1393 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمِرِ
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي
كَانَ أَرَى النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا
مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : أَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَجَلَسَ مَعَنَا فِي مَجْلِسِ
سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ لَهُ بِشِيرُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ بْنِ بِشِيرٍ :
أَمَرْنَا اللَّهَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ؟ قَالَ :
فَصَمَّتْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ : « فُؤُلُوا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ،
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي
الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ » .

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Darimi.

Riwayat Abi Awanah.

مستخرج أبي عوانة - (ج 4 / ص 298)
1556 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَنبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَا مَالِكَا
حَدَّثَهُ ، عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَجْمَرِ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ

الأنصاري ، وعبد الله بن زيد - هو الذي أري النداء بالصلاة أخبره - عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : أتانا رسول الله ﷺ في مسجد سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك وكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت النبي ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله ﷺ : « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد » والسلام كما قد علمتم

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi Awanah.

Riwayat Abi Awanah.

مستخرج أبي عوانة - (ج 4 / ص 299)
 557 - حدثنا يوسف بن مسلم قال : ثنا حجاج بن محمد قال : حدثني ح ،
 . وحدثني عباس الدوري قال : ثنا شبابة ، ح . وحدثنا يونس بن
 حبيب قال : ثنا أبو داود ، ح . وحدثنا يزيد بن عبد الصمد قال : ثنا
 آدم كلهم ، عن شعبة ، عن الحكم قال : سمعت ابن أبي ليلى يحدث ،
 عن كعب بن عجرة ، أنه قال : ألا أهدي إليك هدية خرج علينا
 رسول الله ﷺ فقلنا : « يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف
 نصلي ؟ فقال : « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
 على إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما
 باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi Awanah.

Riwayat Abi Ya`la.

مسند أبي يعلى الموصلي - (ج 2 / ص 131)
626 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر العبدى ، حدثنا مجمع بن يحيى ، عن عثمان بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه ، قال : قلنا : يا رسول الله ، قد علمنا كيف السلام عليك ، فكيف الصلاة ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi Ya`la.

Riwayat Abi Ya`la.

مسند أبي يعلى الموصلي - (ج 2 / ص 132)
627 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري ، حدثنا عثمان بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ، كيف الصلاة عليك ؟ فقال : « قل اللهم صل على محمد ، كما صليت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi Ya`la.

Riwayat al-Humaidi.

مسند الحميدي - (ج 2 / ص 63)

745 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَقَالَ : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Humaidi.

Riwayat Ibn Hibban.

صحيح ابن حبان - (ج 4 / ص 314)
 914 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا وكيع ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : قال لي كعب بن عجرة : ألا أهدي لك هدية ؟ خرج إلينا رسول الله ﷺ ، فقلنا : يا رسول الله ، قد عرفنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ ، قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » .

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn Hibban.

Riwayat Ibn Hibban.

صحيح ابن حبان - (ج 8 / ص 402)
 1991 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع ، عن مسعر ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن

أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، قال : قلنا : يا رسول الله ، قد علمنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn Hibban.

Riwayat Ibn Hibban.

صحيح ابن حبان - (ج 8 / ص 404)
1992 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي ، قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن نعيم بن عبد الله المجرم ، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري ، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري ، أنه قال : أتانا رسول الله ﷺ ونحن في مجلس سعد بن عباد ، فقال بشير بن سعد : أمرنا الله يا رسول الله أن نصلي عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال : « قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، في العالمين إنك حميد مجيد ، والسلام كما قد علمتم »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn Hibban.

Riwayat Ibn Hibban.

صحيح ابن حبان - (ج 8 / ص 416)

1998 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، مولى ثقيف ، قال : حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا مسعر ، وشعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، قال : ألا أهدي لك هدية ؟ قلنا : بلى ، قال : قلت : يا رسول الله ، قد عرفنا كيف السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn Hibban.

Riwayat Ibn Hibban.

صحيح ابن حبان - (ج 8 / ص 418)

1999 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان ، قال : حدثنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن نعيم بن عبد الله المجرم ، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري ، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري ، أنه قال : أتانا رسول الله ﷺ ونحن في مجلس سعد بن عبادة ، فقال بشير بن سعد : أمرنا الله يا رسول الله أن نصلي عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال : « قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم ، في العالمين ، إنك حميد مجيد ، والسلام كما قد علمتم »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn Hibban.

Riwayat Abdu ibn Humaid.

مسند عبد بن حميد - (ج 1 / ص 415)
370 - حدثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأجلح ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، قال : لما نزلت : (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (1)) قمت إليه ، فقلت : التسليم قد عرفناه فكيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال : « قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abdu ibn Humaid.

Riwayat al-Syafii.

مسند الشافعي - (ج 1 / ص 167)
164 - أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثني سعد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ أنه كان يقول في الصلاة : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Syafi'i.

Riwayat al-Baihaqi.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 3 / ص 112)

935 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال : أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نعيم بن عبد الله المجرم ، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره ، وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة ، عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : أتانا رسول الله ﷺ في مجلس سعد بن عباد ، فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك يا نبي الله ، فكيف نصلي عليك ؟ فسكت النبي ﷺ ، حتى تمنينا أنه لم يسأله ، فقال رسول الله ﷺ : « قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Baihaqi.

Riwayat al-Baihaqi.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 3 / ص 116)
939 - وأخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثني سعد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي ﷺ أنه كان يقول في الصلاة : « اللهم صل على محمد ، وآل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ، وبارك على محمد ، وآل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim.

Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Baihaqi.

Riwayat al-Baihaqi.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 3 / ص 117)
940 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني الحكم قال : سمعت ابن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة ، فقال : ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله ﷺ ، فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك قال : « قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Baihaqi.

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج 1 / ص 427)
379 - حدثنا حبيب بن الحسن ، وفاروق الخطابي ، قالا ، ثنا أبو مسلم الكشي ، ثنا الحكم بن مروان ، ثنا إسرائيل ، عن عثمان بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه ، قال : قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi Nu`aim al-Asbahani.

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج 8 / ص 261)
 2623 - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا إسماعيل بن عبد الله ، ح وحدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا عباس الإسفاطي ، قالوا : ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا عثمان بن حكيم ، حدثني خالد بن سلمة ، قال : سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن ، يسأل موسى بن طلحة عن الصلاة على النبي ﷺ ؟ فقال : سألت زيدا الأنصاري فقال : سألت رسول الله ﷺ قال : « صلوا علي ثم قولوا : بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi Nu`aim al-Asbahani.

Riwayat Abi Nu`aim al-Asbahani.

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج 8 / ص 262)
 2624 - حدثناه محمد بن إبراهيم الفروي ، ثنا هارون بن يوسف بن زياد ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا مروان بن معاوية ، ثنا عثمان بن حكيم الأنصاري ، مولى آل حنيف ، عن خالد بن سلمة ، عن موسى بن طلحة ، عن زيد بن خارجة ، أخي بني الخزرج قال : سألت النبي ﷺ قلت : كيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ قال : « صلوا علي قولوا : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi Nu`aim al-Asbahani.

Riwayat Abi Nu`aim al-Asbahani.

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج 15 / ص 249)
4830 - حدثنا محمد بن بدر ، ثنا بكر بن سهل ، ثنا عبد الله بن يوسف
التنيسي ، ثنا مالك بن أنس ، عن نعيم بن عبد الله المجرم ، أن محمد
بن عبد الله بن زيد الأنصاري ، أخبره - وعبد الله ، هو الذي أرى
النداء عن أبي مسعود الأنصاري ، أنه قال : أتانا رسول الله صلى
الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عباد ، فقال له بشير بن سعد :
أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله ، فكيف نصلي عليك ؟ قال :
فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال : « قولوا :
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ،
في العالمين ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi Nu`aim al-Asbahani.

Riwayat Abi Nu`aim al-Asbahani.

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج 19 / ص 269)
6017 - حدثنا محمد بن محمد ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا سويد
بن سعيد ، ثنا مروان بن معاوية ، عن عثمان بن حكيم ، عن خالد
بن سلمة ، عن موسى بن طلحة ، عن يزيد بن جارية ، قال : «
سألت رسول الله ﷺ : كيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ قال : «
صلوا علي ، قولوا : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi Nu`aim al-Asbahani.

Riwayat al-Tayalisi.

مسند الطيالسي - (ج 3 / ص 228)

1144 - حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني الحكم ، قال : سمعت ابن أبي ليلى ، قال لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي إليك هدية ؟ خرج النبي ﷺ فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Tayalisi.

Riwayat al-Tahawi.

مشكل الآثار للطحاوي - (ج 5 / ص 217)

1855 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قررة بن أبي خليفة الرعيني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي قال : حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن بشر العبدي ، عن مجمع بن يحيى ، عن عثمان بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه ، قال : قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Tahawi.

Riwayat al-Tahawi.

مشكل الآثار للطحاوي - (ج 5 / ص 218)

1856 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، أن مالك بن أنس حدثه عن نعيم بن عبد الله المجرم ، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري ، وعبد الله بن زيد ، هو الذي كان أري النداء بالصلاة ، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : أتانا رسول الله ﷺ ونحن في مجلس سعد بن عباد ، فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله ﷺ حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ، والسلام كما قد علمتم »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tahawi.

Riwayat al-Tahawi.

مشكل الآثار للطحاوي - (ج 5 / ص 219)

1857 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا عيسى بن يونس عن خالد بن سلمة ، أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب دخل على موسى بن طلحة ، فقال : يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي ﷺ ؟ فقال موسى : سألت زيد بن خارجة عن الصلاة على النبي ﷺ ، فقال زيد بن خارجة : سألت رسول الله ﷺ ، يعني قلت : كيف الصلاة عليك ؟ فقال : « صلوا فاجتهدوا ، ثم قولوا : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim.

Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tahawi.

Riwayat al-Tahawi.

مشكل الآثار للطحاوي - (ج 5 / ص 220)
 1858 - حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، قال : لما نزلت : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (1) جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه ، فكيف الصلاة ؟ قال : « قل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tahawi.

Riwayat al-Tahawi.

مشكل الآثار للطحاوي - (ج 5 / ص 221)
 1859 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثني أبو عامر العقدي ، وحدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية ؟ قلت : بلى . قال : خرج علينا رسول الله ﷺ ، فقلنا : يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمناه ، فكيف الصلاة ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan

rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tahawi.

Riwayat al-Tahawi.

مشكل الآثار للطحاوي - (ج 5 / ص 222)
1860 - حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي ، قال : حدثنا عبد الواحد ، يعني ابن زياد ، قال : حدثنا أبو فروة ، قال : حدثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : لقيني كعب بن عجرة ، فقال : أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله ﷺ ؟ قلت : بلى وأهدها لي . قال : سألتنا رسول الله ﷺ كيف الصلاة عليكم أهل البيت ، فإن الله عز وجل قد علمنا كيف نسلم ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tahawi.

Riwayat al-Tahawi.

مشكل الآثار للطحاوي - (ج 5 / ص 224)
1862 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، قال : ثنا يحيى بن معين ، قال : ثنا مروان بن معاوية ، عن عثمان بن حكيم ، عن خالد بن سلمة ، عن موسى بن طلحة ، عن زيد بن خارجة أخي بني الحارث بن الخزرج قال : قلنا : يا رسول الله ، قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : « صلوا علي وقولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tahawi.

Riwayat al-Baihaqi.

(واخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يحيى بن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود عن رسول الله ﷺ انه قال إذا تشهد احدكم في الصلوة فليقل اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك (1) على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.³³⁴ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Baihaqi.

Riwayat al-Tabrani.

4640 - حدثنا عبد الله بن علي الجارودي قال : نا أحمد بن حفص قال : حدثني أبي قال : نا إبراهيم بن طهمان ، عن إسماعيل السدي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة قال : قلنا يا رسول الله ، هذا السلام عليك ، قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ».³³⁵ رواه الطبراني

³³⁴ al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, kitab Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, bab juz II, h. 379.

³³⁵ al-Tabrani, *Mu`jam al-A-sat li al-Tabrani, kitab bab al-Ain, bab min ismihi Abd. Allah*, juz X, h. 194. nomor hadis 4640.

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Tabrani.

2. Hadis Tentang Zikir Salawat Yang: *Memakai Term al-Nabi> al-Ummi>*

1. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

16455 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَخِي بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ فَقَالَ إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ³³⁶

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyil ummiyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid* ". HR.Ahmad ibn Hanbal.

2. Riwayat ibn Abi Syaibah.

³³⁶ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 34., h. 441.nomor hadis 16455.

(5) حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال ثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو قال أتى رسول الله ﷺ رجل حتى جلس بين يديه فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد علمناه وأما الصلاة فأخبرنا بها كيف نصلي عليك قال فصمت رسول الله ﷺ حتى وددنا أن الرجل الذي سأله لم يسأله ثم قال : " إذا صليت علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد " ³³⁷

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyil ummiyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid* ".
HR.Ahmad ibn Hanbal.
. HR.Ibn Abi Syaibah.

3. Riwayat al-Nasa`i.

(9877) أخبرني أحمد بن بكار عن محمد وهو بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله عن أبي مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك صلى الله عليك فسكت النبي ﷺ ساعة ثم قال تقولون اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الامي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ³³⁸

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyyil ummiyi wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyil ummiyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid* ". HR.Ahmad ibn Hanbal.
. HR.al-Nasa`i.

³³⁷ Ibn Abi Syaibahl, *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, juz II, h.

391.nomor hadis 5.

³³⁸ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra*, , juz VI, h. 18.nomor hadis 9877.

4. Riwayat al-Hakim.

939 - محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو ، قال : أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله ﷺ ونحن عنده ، فقال : يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك ؟ قال : فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال : « إذا أنتم صليتم علي فقولوا : اللهم صل على محمد النبي الأمي ، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي ، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »³³⁹

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : *Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyyil ummiyi wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyil ummiyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid* " HR.al-Hakim.

5. Riwayat al-Tabrani.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: عَلَّمَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ النَّسَّهْدِيُّ، وَقَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَصَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ، السَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.³⁴⁰

³³⁹ al-Hakim`i, *al-Mustadrak ala al-Sahihain*, , juz II, h. 495 .nomor hadis 939.

³⁴⁰ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir*, juz VIII, h. 376 .nomor hadis .

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

6. Riwayat al-Tabrani.

14119- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَا، وَأَمَا الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَأَحْبَرْنَا بِهَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَدِدْنَا أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي سَأَلَهُ لَمْ يَكُنْ سَأَلَهُ، فَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".³⁴¹

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

7. Riwayat al-Daraqutni.

1354 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَزِيدَ الرَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحِ الْخَيَّاطِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَوْ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ عَلَّمَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ النَّسَّهَدَ وَقَالَ عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ « التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

³⁴¹ al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir, juz XII, h. 211 .nomor hadis

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

342 .«

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Daraqutni.

8.Riwayat al-Daraqutni.

1355 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَحَى بُلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ عُفْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا قَالَ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ « إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »

343

³⁴² al-Daraqutni, *Sunan al-Daraqutni*, , juz III, h. 486 .nomor hadis .1355.

³⁴³ al-Daraqutni, *Sunan al-Daraqutni*, , juz III, h. 486 .nomor hadis .1355.

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Daraqutni.

9. Riwayat Ibn Hibban.

1993 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وكتبته من أصله ، قال : حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ، وكتبته من أصله ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : وحدثني - في الصلاة على رسول الله ﷺ إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته - محمد بن إبراهيم التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، عن أبي مسعود ، قال : أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله ﷺ ونحن عنده ، فقال : يا رسول الله ، أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ، صلى الله عليك ؟ قال : فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ، قال : « إذا صليت علي فقولوا : اللهم صل على محمد النبي الأمي ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »³⁴⁴

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn Hibban.

10. Riwayat Ibn Khuzaimah.

688 - نا أبو الأزهر ، وكتبته من أصله ، نا يعقوب ، نا أبي ، عن ابن إسحاق قال : وحدثني في الصلاة على رسول الله ﷺ إذا المرء

³⁴⁴ Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban* , juz VIII, h. 406 .nomor hadis .1993.

المسلم صلى عليه في صلاته ، محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال : أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله ﷺ ، ونحن عنده ، فقال : يا رسول الله ، أما السلام فقد عرفناه ، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك ؟ قال : فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ، ثم قال : « إذا أنتم صليتم علي فقولوا : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »³⁴⁵

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Ibn Huzaimah.

11. Riwayat Abdu ibn Humaid.

236 - حدثني أحمد بن يونس ، ثنا زهير بن معاوية ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن محمد بن عبد الله بن زيد ، عن عقبة بن عمرو ، قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حتى جلس بين يديه ، فقال : يا رسول الله ، أما السلام عليك فقد عرفناه ، فما الصلاة ؟ فأخبرنا بها ؛ كيف نصلي عليك ؟ قال : فصمت رسول الله ﷺ حتى وددت أن الرجل الذي سأله لم يسأله ، ثم قال : « إذا صليتم علي فقولوا : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »³⁴⁶

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan

³⁴⁵ Ibn Khuzaimah, *Sahih Ibn Khuzaimah*, juz III, h. 159, nomor hadis .688.

³⁴⁶ Abdu Ibn Humaid , juz I, h. 253 ,nomor hadis .236.

rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abdu ibn Humaid.

12. Riwayat al-Baihaqi

936 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن زيد ، عن أبي مسعود قال : أقبل رجل ، حتى جلس بين يدي رسول الله ﷺ ، ونحن عنده ، فقال : يا رسول الله ، أما السلام عليك ، فقد عرفناه ، فكيف نصلي عليك ، إذ نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك ؟ قال : فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ، ثم قال : « إذ أنتم صليتم علي ، فقولوا : اللهم صل على محمد النبي الأمي ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »³⁴⁷

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Baihaqi.

12. Riwayat al-Baihaqi

936 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن زيد ، عن أبي مسعود قال : أقبل رجل ، حتى جلس بين يدي رسول الله ﷺ ، ونحن عنده ، فقال : يا رسول الله ، أما السلام عليك ، فقد عرفناه ، فكيف نصلي عليك ، إذ نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك ؟ قال : فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ، ثم قال : « إذ أنتم

³⁴⁷ Al-Baihaqi, *Ma`rifat al-Sunnah wa al-Asar li al-Baihaqi* , juz III, h. 113 ,nomor hadis .936.

صليتم علي ، فقولوا : اللهم صل على محمد النبي الأمي ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد «³⁴⁸

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Baihaqi.

3. Hadis Tentang Zikir Salawat yang Memakai term "Azwa>jihi wa zurriyatih." "

1. Riwayat Malik

357 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزَّرْقِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ³⁴⁹

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: *Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid* " (Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya.) HR. Malik.

³⁴⁸ Al-Baihaqi, *Ma`rifat al-Sunnah wa al-Asar li al-Baihaqi* , juz III, h. 113 ,nomor hadis .936.

³⁴⁹ Maliki,*Muwatta Malik* , juz II, h. 20 ,nomor hadis .357.

2. Riwayat al-Bukhari.

3118 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمِ الرَّزْقِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ³⁵⁰

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: *Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid*". HR.al-Bukhari.

3. Riwayat al-Bukhari.

5883 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمِ الرَّزْقِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ³⁵¹

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: *Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali*

³⁵⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz XI, h. 155, nomor hadis

.3118.

³⁵¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz XIX, h. 445, nomor hadis

.5883.

Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid". HR.al-Bukhari.

4. Riwayat Muslim

صحيح مسلم - (ج 2 / ص 375)
615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمٍ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: *Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid". HR.Muslim.*

5. Riwayat Abu Dawud.

سنن أبي داود - (ج 3 / ص 162)
831 - حَدَّثَنَا الْفَعَنْبِيُّ عَنْ مَالِكِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: *Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali*

Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid". HR.Abi Dawud.

6. Riwayat Abu Dawud.

سنن أبي داود - (ج 3 / ص 163)
 832 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو مُطَرِّفٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنِ الْمُجَمِّرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمَكِّيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ النَّبِيتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: *Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid*" HR. Abu Daud

7. Riwayat al-Nasa'i.

سنن النسائي - (ج 5 / ص 71)
 1277 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمِ الرَّزْقِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ قَالَا جَمِيعًا كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: *Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid*".

8. Riwayat Ibn Majah.

سنن ابن ماجه - (ج 3 / ص 152)
895 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ طَالُوتَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرْقِيِّ عَنْ أَبِي
حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّاتِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَيْفَ
نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: *Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid* ". HR.Ibn Majah.

9. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

مسند أحمد - (ج 33 / ص 365)
15993 - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ النَّاسَ بِمَنَى وَنَزَلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ وَقَالَ لِيُنْزِلَ الْمُهَاجِرُونَ هَاهُنَا
وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ وَالْأَنْصَارُ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ
لِيُنْزِلَ النَّاسَ حَوْلَهُمْ قَالَ وَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ فَفَتَحَتْ أَسْمَاعُ أَهْلِ مَنَى
حَتَّى سَمِعُوهُ فِي مَنَازِلِهِمْ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ
حَصَى الْخَذْفِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ مُصْعَبًا الزُّبَيْرِيَّ يَقُولُ جَاءَ أَبُو
طَلْحَةَ الْقَاصُّ إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا قَدْ نَهَوْنِي
أَنْ أَقْصَّ هَذَا الْحَدِيثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَعَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ

Terjemahnya:

....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: *Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajih wa dzurriyyatih wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala*

Muhammad wa azwajih wa dzurriyatih wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka hamiidun majid "HR.Ahmad ibn Hanbal.

10. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

مسند أحمد - (ج 47 / ص 143)
 22090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
 بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
 آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى
 أَرْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ahmad ibn Hanbal.

11. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

مسند أحمد - (ج 48 / ص 90)
 22494 - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَمِيدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ
 قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
 آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ahmad ibn Hanbal.

12. Riwayat al-Baihaqi.

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 2 / ص 151)
(اخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا
موسى بن اسمعيل ثنا حبان بن يسار الكلابي حدثني أبو مطرف
عبيدالله بن طلحة بن عبد الله بن كريز حدثني محمد بن علي الهاشمي
عن المجرم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال من سره ان يكتال
بالمكيال الاوفى إذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على محمد
النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على
ابراهيم انك حميد مجيد

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Baihaqi.

13. Riwayat Abd al-Razzaq.

مصنف عبد الرزاق - (ج 2 / ص 211)
3103 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن محمد
عن عمرو بن حزم عن رجل من أصحاب محمد ﷺ أن النبي ﷺ كان
يقول : اللهم ! صل على محمد وعلى أهل بيته ، وعلى أزواجه ،
وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد
، وبارك على محمد وعلى أهل بيته ، وأزواجه ، وذريته كما باركت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abd al-Razzaq.

14. Riwayat Abd al-Razzaq.

مصنف عبد الرزاق - (ج 2 / ص 214)

3110 - عبد الرزاق عن الثوري وسمعتة وسأله رجل عن قوله اللهم
! صل على محمد وعلى آل محمد

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abd.al-Razzaq.

15. Riwayat al-Nasa`i.

السنن الكبرى للنسائي - (ج 1 / ص 384)
(1217) أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقى قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال رسول الله ﷺ قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قالوا جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الفضل في الصلاة على النبي ﷺ

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Nasa`i.

16. Riwayat al-Nasa`i.

السنن الكبرى للنسائي - (ج 6 / ص 20)
(9886) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا أبو داود عن يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ قال ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير صلاة على النبي ﷺ إلا تفرقوا على أنتن من ريح الجيفة ذكر الصلاة على النبي ﷺ وعلى أزواجه وذريته

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

17. Riwayat al-Nasa`i.

السنن الكبرى للنسائي - (ج 6 / ص 20)
(9887) الحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال حدثني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

18. Riwayat al-Nasa`i.

السنن الكبرى للنسائي - (ج 6 / ص 341)
(11167) أنا محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي ﷺ قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى بركة الذرية (11168) أنا محمد بن سلمة أنا بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله ﷺ قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkat Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Nasa`i.

19 Riwayat al-Tabrani.

المعجم الأوسط للطبراني - (ج 4 / ص 172)
 1712 - حدثنا أحمد قال : نا محمد بن سلام قال : نا عيسى بن يونس ،
 عن مالك بن أنس ، عن عبد الله ، ومحمد : ابنا أبي بكر بن محمد بن
 عمرو بن حزم ، عن أبيهما ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن أبي
 حميد الساعدي ، أنهم قالوا : يا رسول الله ، كيف الصلاة عليك ؟
 قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت
 على إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته ، كما باركت على
 إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkat Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Tabrani.

20, Riwayat al-Baihaqi.

شعب الإيمان للبيهقي - (ج 4 / ص 34)
 1476 - وقد روينا عن أبي حميد الساعدي ، أنهم قالوا : يا رسول الله
 ، كيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه
 وذريته كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته
 كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkat Nabi Muhammad dan

kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Baihaqi.

21. Riwayat al-Baihaqi.

شعب الإيمان للبيهقي - (ج 4 / ص 35)
1477 - وقال في حديث أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : « من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت ، فليقل : اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkhatai Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Baihaqi.

22. Riwayat al-Baihaqi.

شعب الإيمان للبيهقي - (ج 4 / ص 75)
1516 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا السري بن خزيمة ، حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، أنه قال : أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله ، كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله ﷺ : « قولوا : اللهم صل على محمد ، وأزواجه ، وذريته ، كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد ، وأزواجه وذريته ، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkhatai Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim.

Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Baihaqi.

23. Riwayat Abi Awanah.

مستخرج أبي عوانة - (ج 4 / ص 368)
 1614 - حدثنا أبو أمية قال : حدثنا الماجشون كلاهما ، أن مالك بن أنس حدثهما ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سليم قال : أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا : « يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi Awanah.

24. Riwayat al-Baihaqi.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 3 / ص 111)
 934 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال : أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سليم الزرقني ، أنه قال : أخبرني أبو حميد الساعدي ، أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله ﷺ : « قولوا : اللهم صل على محمد ، وأزواجه ، وذريته ، كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد ، وأزواجه ، وذريته كما باركت ، على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan

kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Baihaqi.

25. Riwayat al-Tahawi.

مشكل الآثار للطحاوي - (ج 5 / ص 226)
1864 - فوجدنا عبيد بن رجال قد حدثنا قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يقول : « اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته ، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته ، إنك حميد مجيد » .

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkahati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Tahawi.

26. Riwayat al-Tahawi.

مشكل الآثار للطحاوي - (ج 5 / ص 225)
1863 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال : أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله ، كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته ، كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkahati Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim.

Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-Tahawi.

4. Hadis Tentang Zikir Salawat yang Memakai term *Salawatika warahmatika wabarakatika Ima>m al-Muttaqi>n wa Kha>taman al-Nabiyi>n*

1. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

. مسند أحمد - (ج 46 / ص 462)
 21910 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْأَعْمَى
 عَنْ بُرَيْدَةَ الْخُرَاعِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ
 فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ
 وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
 آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

Terjemahnya:

Berkata kepada kami Yazid bin Harun, mengabarkan kepada kami Ismail dari Abi Daud i'ma dari Buraidah berkata: kami telah mengetahui cara memberi salam kepadamu, maka katakan kepada kami ya Rasulullah bagaimana cara bershalawat kepadamu. kemudian Nabi berkat : bershalawatlah dengan Allahummaz 'al shalawatahka wa rahmataka wa barakataka ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama ja'altaha ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamiidun majiid... HR. Ahmad bin Hanbal

2. Riwayat al-Tabrani.

المعجم الكبير للطبراني - (ج 8 / ص 15)
 8515 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو
 مُسْلِمٍ الْكَثْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ
 السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ،
 قَالَ: ابْنُ رَجَاءَ، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي
 فَاخْتَةَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسِّنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لَا
 تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ"، قَالَ: فَعَلَّمْنَا، قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْ

صَلَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغِيبُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

3. Riwayat al-Tabrani.

المعجم الكبير للطبراني - (ج 8 / ص 16)
عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغِيبُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"

Terjemahnya:

Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkatilah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-Tabrani.

4. Abi Ya`la.

مسند أبي يعلى الموصلي - (ج 11 / ص 30)
5144 - حدثنا محمد بن عباد المكي ، حدثنا أبو سعيد ، مولى بني هاشم قال : حدثنا المسعودي ، عن عون ، عن أبي فاختة ، عن الأسود ، عن عبد الله قال : إذا صليتم على رسول الله ﷺ فأحسنوا الصلاة

عليه ، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه ، قالوا : فعلمنا يا أبا عبد الرحمن ، قال : قولوا : « اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك ، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة ، اللهم ابعته مقاما محمودا يغبطه (1) به الأولون والآخرين ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »

Terjemahnya:

Ya, Allah jadikanlah salawat rahmat dan berkah tercurah kepada penghulu para Rasul, pemimpin orang-orang bertakwa, dan penutup para nabi, Muhammad saw., hamba-Mu dan Rasul-Mu pemimpin kebajikan, dan panglima kebajikan serta rasul pembawa rahmat. Ya, Allah bangkitkanlah beliau kepada kedudukan yang terpuji... HR. Abi Ya'la.

5. Riwayat Abd al-Razzaq.

مصنف عبد الرزاق - (ج 2 / ص 213)
 3109 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة (3) عن عون بن عبد الله عن رجل عن الاسود بن يزيد عن ابن مسعود أنه كان يقول : اللهم ! اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين (4) ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين ، محمد عبدك ورسولك إمام الخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة ، اللهم ! ابعته مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرين (5) ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم ! بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت

Terjemahnya:

Ya, Allah jadikanlah salawat rahmat dan berkah tercurah kepada penghulu para Rasul, pemimpin orang-orang bertakwa, dan penutup para nabi, Muhammad saw., hamba-Mu dan Rasul-Mu pemimpin kebajikan, dan panglima kebajikan serta rasul pembawa rahmat. Ya, Allah bangkitkanlah beliau kepada kedudukan yang terpuji... HR. Abd al-Razzaq.

5. Hadis Tentang Zikir Salawat yang Memakai term
"Allahumma Haulai wa Ali Muhammad Alaihi al-Salam Faj'al
Salawatika wabarakatika"

1. Riwayat Ahmad Ibn Hanbal.

مسند أحمد - (ج 54 / ص 183)
25521 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِفَاطِمَةَ ابْنَتِي بِرُوحِكَ وَابْنَتِكَ فَجَاءَتْ بِهِمْ فَأَلْفَى عَلَيْهِمْ كِسَاءً فَذَكِّيَا
قَالَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ آلُ مُحَمَّدٍ فَاجْعَلْ
صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ³⁵²

Terjemahnya:

Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada
Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . Sesungguhnya
Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ahmad bin Hanbal.

2. Riwayat al-Tabrani.

2599- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا
حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْمَنْقَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاعِيُّ ، عَنْ
شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
، قَالَ لِفَاطِمَةَ : " ابْنَتِي بِرُوحِكَ وَابْنَتِكَ " ، فَجَاءَتْ بِهِمْ ، فَأَلْفَى
عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِسَاءً ، ثُمَّ قَالَ : " اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ
آلُ مُحَمَّدٍ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .³⁵³

Terjemahnya:

Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada
Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . Sesungguhnya
Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Al-Tabrani.

3. Riwayat al-Tabrani.

الْوَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاعِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

³⁵² Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz 54, h.183.
nomor hadis 25521,

³⁵³ Al-Tabrani, *al-Mu`jam li al-Tabrani.*, juz III, h. 89, nomor hadis
2599,

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِفَاطِمَةَ: ائْتِنِي بِرُوجِكَ وَابْنَيْكَ، فَجَاءَتْ بِهِمْ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِسَاءً، ثُمَّ قَالَ: هُوَ لَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ، فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.³⁵⁴

Terjemahnya:

Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Al-Tabrani.

4. Riwayat Abi Ya`la.

6760 - حدثنا حوثرة بن أشرس أبو عامر قال : أخبرني عقبة ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة : « انتني بزوجك وابنيك » . فجاءت بهم ، فألقى عليهم رسول الله ﷺ كساء كان تحتي خبيريا أصبناه من خبير ، ثم قال : « اللهم هؤلاء آل محمد عليه السلام ، فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد³⁵⁵ »

Terjemahnya:

Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi Ya`la.

5. Riwayat Abi Ya`la.

6872 - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا علي بن زيد ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة ، أن رسول الله ﷺ قال : لفاطمة : « انتني بزوجك وبابنتيك » ، قالت : فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكيا ثم وضع يده عليهم ، فقال : « اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد³⁵⁶ »

Terjemahnya:

³⁵⁴ Al-Tabrani, *al-Mu`jam li al-Tabrani.*, juz XVII, h. 161,

³⁵⁵ Abi Ya`la, *Musnad Abi Ya`la*, juz XIV, h. 195, nomor hadis

6760.

³⁵⁶ Abi Ya`la, *Musnad Abi Ya`la*, juz XIV, h. 307, nomor hadis

6872.

Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi Ya`la.

6.Riwayat al-Tahawi.

652 - وما قد حدثنا ابن مرزوق ، حدثنا روح بن أسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة : « ائتيني بزوجه ، وابنيك » فجاءت بهم ، فألقى عليهم كساء فدكيا ، ثم وضع يده عليهم ، ثم قال : « اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك ، وبركاتك على آل محمد إنك حميد مجيد ³⁵⁷

Terjemahnya

Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Al-Tahawi.

H. Hadis-Hadis tentang Zikir *Asma al-Husna*.

1. Hadis –Hadis Tentang Zikir *Asma al-Husna*.

1.Riwayat al-Bukhari.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةٌ قَالَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَثْرٌ يُحِبُّ الْوَثْرَ. ³⁵⁸ رواه البخاري

Terjemahnya:

Ali bin Abd Allah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, berkata; Abu al-Zinad menghafalkan kepada kami, dari al-A`raj, dari Abi Hurairah berkata: "Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu, tidaklah seseorang menghafalnya melainkan ia akan masuk surga, dan Dia adalah witr dan menyukai yang ganjil." HR. Al-Bukhari.

³⁵⁷ Al-Tahawii, Muskil al-Asar li al-Tahawi, juz II, h. 266, nomor hadis 652.

³⁵⁸ Al-Bukhari, *ṣahih al-Bukhari, Kitab al-Da`wat, bab lillahi miati ism gairu wahid*, nomor hadis 5931.

2. Riwayat al-Bukhari.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ.³⁵⁹ رواه البخاري

Terjemahnya:

Abu al-Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib memberitakannya kepada kami, Abu al-Zinad menceritakan kepada kami, dari al-A'raj, dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali yang satu, barangsiapa yang menghafalnya masuk surga, sebab kami mesenantiasia menjaganya dan melindunginya. HR. Al-Bukhari.

3. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَزَادَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَثُرٌ يُحِبُّ الْوَثْرَ.³⁶⁰ رواه مسلم

Terjemahnya:

Muhammad bin Rafi` menceritakan kepadaku, Abd al-Razzaq menceritakan kepada kami, Ma`mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibn Sirin dari Abi Hurairah dan Hammam bin Munabbih dari Abi Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama seratus kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya, akan masuk surga, dan ditambahkan oleh Hammam dari Abu Hurairah dari Abi Hurairah dari Nabi saw., sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil. HR. Muslim

³⁵⁹ Al-Bukhari, *ḥāhīh al-Bukhari, Kitāb al-Tauhīd, bab, innallāhā miatī ism illā wahīd*, nomor hadis 6843

³⁶⁰ Muslim, *ḥāhīh Muslim, Kitāb al-ʿīkr wa al-Duʿa wa al-Taubat wa al-Istīghfār, bab Fi asma Allāh Taʿala wa fadl man Ahsāhā*, nomor hadis 4836.

4. Riwayat Muslim

4835 - حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عَمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الرَّيَّادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللَّهَ وَثُرٌ يُحِبُّ الْوَثْرَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَمَرَ مَنْ أَحْصَاهَا³⁶¹. رواه مسلم

Terjemahnya:

Amr Annaqid dan Zuhair bin Harb dan Ibn Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Abu al-Zinad dari al-A`raj, dari Abi Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa yang menghafalnya, akan masuk syurga, sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil. HR. Muslim

5. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ³⁶². رواه الترميذي

Terjemahnya:

Y-suf bin Hammad al-Basyri menceritakan kepada kami, Abdu al-A`la menceritakan kepada kami, dari Sa`id, dari Qatadah, dari Abu Rafi` dari Abi Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya akan masuk syurga. HR. al-Turmuzi

6. Riwayat al-Turmuzi.

³⁶¹ Muslim, *ḥahih Muslim, Kitab al-ʿiqr wa al-Du`a wa al-Taubat wa al-Istigfar, bab Fi asma Allah Ta`ala wa fadl man Ahsaha*, juz XIII, h.171. nomor hadis 4835

³⁶² al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat an Rasulillah, bab ma ja`a fi aqdi al-Tasbih bi al-yadi*, juz XI, h. 411. nomor hadis 3428.

3430 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ³⁶³. رواه الترميذي

Terjemahnya:

Ibn Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Abu al-Zina>d dari al-A`raj, dari Abi Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya akan masuk surga. HR. al-Turmuzi

7. Ibnu Ma>jah, 3850

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ³⁶⁴. رواه ابن ماجه َ

Terjemahnya:

Abu Bakr bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abi Hurairah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya akan masuk surga. HR. Ibnu Majah

8. Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وَثِرٌ يُحِبُّ الْوَثْرَ³⁶⁵. رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

³⁶³ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat an Rasulillah, bab ma ja`a fi aqdi al-Tasbih bi al-yadi*, juz XI, h. 413. nomor hadis 3430

³⁶⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Du`a, bab Asma Allah Azza wa jalla*, nomor hadis 3850.

³⁶⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah*, nomor hadis 7189.

Yazid menceritakan kepada kami, dari Muhammad memberitakan kepada kami, dari Abu al-Zinad, dari al-A`raj dari Abi Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya akan masuk syurga. sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil. HR. Ahmad bin Hanbal.

9. Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ وَثْرٌ يُجِبُّ الْوَثْرَ.³⁶⁶ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd al-Razzaq menceritakan kepada kami, Ma`mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibn Sirin dari Abi Hurairah dan Hammam bin Munabbih dari Abi Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya akan masuk syurga, dan ditambahkan oleh Hammam dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah dari Nabi saw., sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil. HR. Ahmad bin Hanbal

10. Ahmad bin Hanbal.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وَثْرٌ يُجِبُّ الْوَثْرَ.³⁶⁷ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang

³⁶⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 7304

³⁶⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 7799

menghafalnya akan masuk syurga, sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil.. HR. Ahmad bin Hanbal

11. Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ وَيَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.³⁶⁸ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ismail menceritakan kepada kami, dari Hisyam dan Yazid (yakni ibn Harun) berkata; Hisyam memberitakan kepada kami, dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya akan masuk syurga . HR. Ahmad bin Hanbal

12. Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.³⁶⁹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad memberitakan kepada kami, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya akan masuk syurga. HR. Ahmad bin Hanbal

13. Ahmad bin Hanbal.

³⁶⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 9148

³⁶⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 10128

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.³⁷⁰ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

R-h menceritakan kepada kami, Ibn Awun menceritakan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah; Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa menghafalnya, masuk surga. HR. Ahmad bin Hanbal

14. Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.³⁷¹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

R-h menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah; Sesungguhnya Nabi saw., seperti sabdanya. HR. Ahmad bin Hanbal.

15. Riwayat al-Nasa`i.

(7659) أخبرنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن علي بن محمد بن العباس الكناني بمصر قال ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قراءة عليه أنا الربيع بن سليمان قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وذكر آخر قبله عن أبي الزناد وأخبرنا عمران بن بكار قال ثنا علي بن عياش قال ثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر اللفظ لربيع بسم الله وبالله.³⁷² رواه النسائي

Terjemahnya:

Abu al-Qasim Hamzah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin al-Abbas al-Kannani memberitakan kepada kami, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu`aib al-Nasa`i menceritakan kepada

³⁷⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 10268

³⁷¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 10268

³⁷² al-Nasa`i. *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i*, Kitab Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz IV, h. 393. nomor hadis 7659.

kami, al-Rabi` bin Sulaiman membacakan atasnya, Abd Allah bin Wahab menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepadaku, dari Abu al-Zinad Imran bin Bakkar memberitakan kepada kami, Ali bin Ayyas menceritakan kepada kami, Syu`aib menceritakan kepada kami, Abu al-Zinad menceritakan kepadaku, dari al-A`raj, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali yang satu, barangsiapa yang menghafalnya, akan masuk syurga, sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil. Dan lafal yang keempat adalah bismillah, billah.HR. al-Nasa`i

16. Riwayat Abu Ya`la,

6147 - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، رواية قال : « لله تسعة وتسعون اسما مائة غير واحد من حفظها دخل الجنة ، وهو وتر يحب الوتر ».³⁷³
رواه ابي يعلي

Terjemahnya:

Abu Khaisamah menceritakan kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu al-Zinad, dari al-A`raj, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, kecuali yang satu, barangsiapa yang menghafalnya masuk syurga, sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil. HR. Abu Ya`la.

17. Riwayat al-Tabrani.

3545 - حدثنا أبو سعد العسكري ، ثنا محمد بن بكار العيشي ، ثنا حماد بن عيسى الجهني ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن مكحول ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لله تسعة وتسعون اسما مئة غير واحد ، من أحصاها (1) دخل الجنة ».³⁷⁴ رواه الطبراني

³⁷³ Abi Ya`la, *Musnad Abi Ya`la al-Ma-suli, kitab al-A`raj`an Abi Hurairah. Bab lillahi tisatun wa tis-na miatin gairu wahidin man hafazaha dahala*, juz XIII, h. 41. nomor hadis 6147.

³⁷⁴ al-Tabrani, *Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, Kitab ma intaha ilaina min musnad Basyir ibn al-Ala`ahi Abd Allah, bab ma intaha ilaina min musnad Mkh-l*, juz X, h. 116. nomor hadis 3545.

Terjemahnya:

Abu Sa`id al-Askari menceritakan kepada kami, berkata: Muhammad bin Bakkar al-Absyi berkata, Hammad bin Isa al-Juhani berkata, dari Ibn Juraij, dari Abd al-Aziz bin Umar bin Abd al-Aziz, dari Makh-l, dari Iraki bin Malik, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa menghafalnya, masuk syurga. HR.al-Tabrani.

18. Riwayat al-Tabrani.

5057 - حدثنا عمرو بن ثور قال : نا محمد بن يوسف الفريابي قال : نا سفیان ، عن عاصم ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة » .³⁷⁵ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Amr bin Saur menceritakan kepada kami, berkata; Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 2sim, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa menghafalnya, masuk syurga. HR.al-Tabrani

19. Riwayat al-Tabrani,

حدثنا إبراهيم قال : نا محمد قال : نا سفیان ، عن عاصم الأحول ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لله تبارك وتعالى تسعة وتسعون اسما ، من أحصاها دخل الجنة » .³⁷⁶ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Ibrahim menceritakan kepada kami, berkata; Muhammad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 2sim, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa menghafalnya, masuk syurga. HR.al-Tabrani

³⁷⁵ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani, Kitab bab al-Ain, bab min ismihi Amr*, juz XI, h. 128. nomor hadis 5057

³⁷⁶ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani, Kitab bab al-Alif, bab min ismihi Ibrahim*, juz V, h. 342. nomor hadis 2386.

20. Riwayat al-Tabrani

71 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ نُورٍ، قَالَ: قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرِّيَابِيُّ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ".³⁷⁷ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Amr bin Saur menceritakan kepada kami, berkata; Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari ²sim, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa menghafalnya, masuk surga. HR.al-Tabrani

21. Riwayat al-Tabra>ni.

503 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ".³⁷⁸ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Ibrahim menceritakan kepada kami, berkata, Muhammad menceritakan kepada kami, berkata: dari ²sim al-Ahwal, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa menghafalnya, masuk surga. HR.al-Tabra>ni

22. Riwayat al-Tabra>ni

³⁷⁷ Al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, Kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, bab qat`atun min al-mafq-d, juz XIX, h. 27.* nomor hadis 71

³⁷⁸ Al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, Kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, bab qat`atun min al-mafq-d, juz XIX, h. 203.* nomor hadis 503

789 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ , قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ عَيْسَى الْجُهَنِيُّ , عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ عِرَّكَ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ."³⁷⁹ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Ali bin Sa'id menceritakan kepada kami, berkata: Muhammad bin Bakkar al-Absyi berkata, Hammad bin Isa al-Juhani berkata, dari Ibn Juraij, dari Abd al-Aziz bin Umar bin Abd al-Aziz, dari Makh-l, dari Iraki bin Malik, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa menghafalnya, masuk surga. HR.al-Tabrani.

23. Riwayat al-Baihaqi.

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسى قالاً ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن خالد بن خلى الحمصى ثنا بشر بن شعيب بن أبى حمزة عن ابىه عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا (2) من احصاها دخل الجنة انه وتر يحب الوتر.³⁸⁰ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Abd Allah al-Hafiz, dan Abu Abd Allah Ishaq bin Muhammad bin Y-suf al-S-si memberitakan kepada kami, Abu al-Abbas Muhammad bin Ya`q-b menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid bin Khali al-Himsi menceritakan kepada kami, Basyir bin Syu`aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu al-Zinad, dari al-A`raj, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw.,

³⁷⁹ Al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, Kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, bab qat`atun min al-mafq-d, juz XIX, h. 324.* nomor hadis 789.

³⁸⁰ Al-Baihaqi, *Kitab Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, bab juz X, h.*

bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa menghafalnya, masuk syurga. sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil .HR.al-Baihaqi.

24. Riwayat Ibn Abu Hatim.

9349 - حدثنا أبي ، ثنا محمد بن غيلان ، ثنا علي بن الحسين بن واقد ، حدثني أبي ، عن مطر ، وهشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ » (والله الأسماء الحسنى فادعوه بها (1)) ، قال : إن لله مائة غير اسم واحد من أحصاها دخل الجنة .³⁸¹ رواه ابن أبي حاتم

Terjemahnya:

Bapakku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Gailan menceritakan kepada kami, Ali bin Waqid menceritakan kepada kami, Bapakku menceritakan kepadaku, dari Matar dan Hasyim, dari Muhammad bin Sairin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai seratus nama, selain yang satu, barangsiapa menghafalnya, masuk syurga.. HR.Ibn Abu Hatim.

25. Riwayat Ibn Abu Hatim

9350 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي ، ثنا إسحاق الأزرق ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لله تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة .³⁸² رواه ابن أبي حاتم

Terjemahnya:

Ammar bin Khalid al-Wasiti menceritakan kepada kami, Ishaq al-Izraq menceritakan kepada kami, dari Ibn Awn, dari Muhammad bin Sairin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama sembilan puluh sembilan nama, nama yang seratus, kecuali satu, barangsiapa menghafalnya, masuk syurga. HR.Ibn Abu Hatim

2.Hadis tentang Zikir asma` al-Husna memakai nama 99

³⁸¹ Ibn Abi Hatim, *Tafsir Ibn Abi Hatim, Kitab surat al-A`raf, bab qa-luhu ta`ala wa lillahi asma`*, juz XXXII, h. 6. nomor hadis 9349

³⁸² Ibn Abi Hatim, *Tafsir Ibn Abi Hatim, Kitab surat al-A`raf, bab qa-luhu ta`ala wa lillahi asma`*, juz XXXII, h. 7. nomor hadis 9350

1. Riwayat al-Turmuzi

3429 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الرَّزَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْعَفَّارُ الْفَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِي الْمُعِيدُ الْمُخَيِّ الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقَدِّرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمَلِكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُفْسِطُ الْجَامِعُ الْعَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النَّوْرُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ.³⁸³ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Ibrahim bin Ya`q-b al-Jurjani menceritakan kepada kami, Safwan bin shalih menceritakan kepada kami, al-Walid bin Muslim menceritakan kami, Syu`aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami, dari Abu al-Zinad dari al-A`raj, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama sembilan puluh sembilan nama, nama yang seratus, kecuali satu, barangsiapa menghafalnya, masuk surga. (*huwa Allah allazi la ilaha illa huwa*) Dia yang tiada Tuhan melainkan Dia , merupakan sifat dari Allah. 1. al-Rahman; Yang Maha pengasih. 2. al-Rahim, Yang Maha Penyayang. 3. al-Malik, Yang Maha Raja. 4. al-Qudd-s, Yang Maha Suci. 5. al-Salam, Yang Maha Sejahtera. 6.

³⁸³ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat an Rasulillah, bab ma ja`a fi aqdi al-Tasbih bi al-yadi*, juz XI, h. 412. nomor hadis 3429

al-Mu`min, 7. al-Muhaimin, 8. al-Aziz, 9. al-Jabbar, 10. al-Mutakabbir, 11. al-Khaliq, 12. al-Bari`, 13. al-Mujawwir, 14. al-Gaffar, 15. al-Qahhar, 16. al-Wahhab, 17. al-Razzaq, 18. al-Fattah, 19. al-Alim, 20. al-Qadhi, 21. al-Basit, 22. al-Hafidh, 23. al-Rafi`, 24. al-Muizzu, 25. al-Muzillu, 26. al-Sami`, 27. al-Basir, 28. al-Hakam, 29. al-Adl, 30. al-Latif, al-Khair, 31. al-Halim, 32. al-`zim, 33. al-Gaf-r, 34. al-Syak-r, 35. al-Aliyyu, 36. al-KAbur, 37. al-Hafid, 38. al-Muqit, 40. al-Hasib, 41. al-Jalil, 42. al-Karim, 43. al-Raqib, 44. al-Mujib, 45. al-Wasi`, 46. al-Hakim, 47. al-Wad-d, 48. al-Majid, 49. al-Bais, 50. al-Syahid, 51. al-Haq, 52. al-Waqil, 53. al-Qawiyyu, 54. al-Matin, 55. al-Waliyyu, 56. al-Hamid, 57. al-Muhsi, 58. al-Mubdi`, al-Muid, 59. al-Muhyi, 60. al-Mumit, 61. al-Hayyu, 62. al-Qayy-m, 63. al-Wahid, 64. al-Mahid, 65. al-Wahid, 66. al-Samad, 67. al-Qadir, 68. al-Muqtadir, 69. al-Muqaddam, 70. al-Mu`akhir, 71. al-Awwal, 72. al-`khir, 73. al-Zahir, 74. al-Batin, 75. al-Wali, 76. al-Muta`ali, 77. al-Bar, 78. al-Tawwab, 79. al-Muntaqim, 80. al-Afwu, 81. al-Ra-f, 82. Malik, 83. al-Mulk, 84. al-Jalal, 85. al-Ikram, 86. al-Muqsit, 87/ al-Jami, 88. al-Ganiyyu, 89. al-Mugni, 90. al-Mani`, 91. al-Dhar, 92. al-Nafi`, 93. al-N-r, 94. al-Hadi, 95. al-Badi`, 96. al-Baqi, 97. al-Waris, 98. al-Rasyid, 99. al-SAbur. HR.al-Turmuzi

2. Riwayat Ibn Majah.

3851 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا إِنَّهُ وَتُرُّ يُجِبُ الْوَتْرَ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهِيَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْأَوَّلُ الْأَخْرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْمَلِكُ الْحَقُّ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمَهْيَمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْبَارُّ الْمُتَعَالِ الْجَلِيلُ الْجَمِيلُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ الْعَنِي الْوَهَّابُ الْوَدُودُ الشَّكُورُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْوَالِي الرَّاشِدُ الْعَفُوُّ الْعَفُورُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ التَّوَّابُ الرَّبُّ الْمَجِيدُ الْوَلِيُّ الشَّهِيدُ الْمُبِينُ الْبُرْهَانُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ الْمُبْدِئُ الْمَعِيدُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ الضَّارُّ

النَّافِعُ الْبَاقِي الْوَاقِي الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْمُعِزُّ الْمُنْزِلُ
الْمُفْسِطُ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ الْقَائِمُ الدَّائِمُ الْحَافِظُ الْوَكِيلُ الْفَاطِرُ
السَّمَاعُ الْمُعْطِي الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْمَانِعُ الْجَامِعُ الْهَادِي الْكَافِي الْأَبْدُ
الْعَالِمُ الصَّادِقُ النُّورُ الْمُنِيرُ التَّامُّ الْقَدِيمُ الْوَنَزُّ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ
يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ.³⁸⁴ رواه ابن ماجه)

Terjemahnya:

Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, Abdu al-Malik bin Muhammad al-shan`ani menceritakan kepada kami, Abu al-Munzir Zuhair bin Muhammad al-Tamimi menceritakan kepada kami, M-sa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Abd al-Rahman al-A`raj menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama sembilan puluh sembilan nama, nama yang seratus, kecuali satu, sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil, barangsiapa menghafalnya, masuk surga. *Allah. Al-Wahid. Al-Samad. Al-Awwal. Al-²khir. Al-Zahir. Al-Batin. Al-Khaliq. Al-Bari`. Al-Muswwir. Al-Malik. Al-Haq. Al-Salam. Al-Mu`min. Al-Muhaimin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. al-Rahman. al-Rahim. al-Latif. al-KhAbur. al-Sami`. Al-Basir. Al-Alim. Al-Azim. Al-Bar. Al-Muta`al. Al-Jalil. al-Hayyu. Al-Qayy-m. al-Qadir. Al-Qahir. Al-Aliyyu. Al-Hakim. al-Qarib. al-Mujib. al-Gani. Al-Wahhab. al-Wad-d. al-Syak-r. al-Mahid. Al-Wahid.al-Wali, al-Rasyid. Al-Afwu. Al-Gaf-r. al-Halim. al-Karim. al-Tawwab. Al-Rabb. Al-Majid. Al-Waliyyu, al-Syahid. Al-Mubin. Al-Burhan. Al-Ra-f. al-Rahim. al-Mubdiu. Al-Bais. Al-Waris. Al-Qawiyyu. Al-Syadid. al-Dhar. al-Nafi`. Al-Baqi. al-Wafi. al-Hafidh. Al-Rafi`. Al-Qabidh. Al-Basit. Al-Muiz. Al-Muzil. Al-Muqsit. Al-Razzaq.Z- al-Quwwat. Al-Matin. al-Qaim. Al-Daim. Al-Hafidh. Al-Wakil. al-Fatir. Al-Sami` al-Mu`ti. al-Muhyi. Al-Mumit.al-Mani`. Al-Jami`. al-Hadi. al-Kafi.al-Abadu.al-²lim. Al-Sadiq. Al-N-r.al-Munir. al-Tam.al-Qadim. al-Wite.al-Ahad. Al-Samad. Allazi lam yalid wa lam y-lad wa lam yakun lahu kuf-wan ahad. HR.Ibn Majah*

3. Riwayat al-Baihaqi

³⁸⁴ Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah, Kitab al-Du`a, bab asma` Allah azza wajalla*, juz XI, h. 321. nomor hadis 3851.

(أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة البشيري أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي أنبأ جعفر بن محمد ابن المستفاض الفريابي ثنا صفوان بن صالح أبو عبد الملك الدمشقي في سنة اثنتين (وثلاثين 3) ومائتين ثنا الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ان لله تسعة وتسعين اسما مائة غير واحدة من احصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر هو الله الذى لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولي الحميد المحصى المبدئ المعيد المحيي المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤف مالك الملك ذو الجلال *.³⁸⁵ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Nasr bin Abd al-Aziz Umar bin Qatadah al-Basyiri memberitakan kepada kami, Ali bin al-Fadl bin Muhammad bin Uqail al-Hizai memberitakan kepada kami, Ja`far bin Muhammad memberitakan kepada kami, Safwan bin shalih Abu Abd al-Malik al-Dimasyqi menceriterakan kepada kami, al-Walid bin Muslim menceriterakan kepada kami, Syu`aib bin Abu Hamzah menceriterakan kepada kami, dari Abu al-Zinad, dari al-A`raj dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama sembilan puluh sembilan nama, nama yang seratus, kecuali satu, barangsiapa menghafalnya, masuk surga. sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil. *Huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa, al-Rahman. Al-Rahim. Al-Malik. Al-Qudd-s. Al-Salam. Al-Mu`min. Al-Muhaimin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Al-Khalik. Al-*

³⁸⁵ Al-Baihaqi, *Kitab Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, bab juz X, h.*

Bari`. Al-Musawwir. Al-Gaffar. Al-Qahhar. Al-Wahhab. al-Razzaq. al-Fattah. al-Alim. al-Qabidh. Al-Basit. Al-Khafifz. Al-Rafi`. Al-Muiz. Al-Muzil. Al-Sami` al-Basir. al-Hakam. Al-Adl. Al-Latif. al-Khair. al-Halim. al-Azim. Al-Gaf-r. Al-Syak-r. Al-Ali. Al-KABur. Al-Hafidh. Al-Muqit. Al-Hasib. Al-Jalil. Al-Karim. Al-Karib. Al-Mujib. Al-Wasi`. Al-Hakim. Al-Wad-d. Al-majid. Al-Bais. Al-Syahid. Al-Haq. Al-Wakil. Al-Qawi`. Al-Matin. Al-Wali. Al-Hamid. Al-Muhji. Al-Mubdi`. Al-Mu`id. Al-Muhyi. Al-Mumit. Al-Hayyi. Al-Qayy-m. Al-Wajid. Al-Majid. Al-Wahid. Al-Samad. Al-Qadir. Al-Muqradir. Al-Muqaddam. Al-Mu`akhhkar. Al-Awwal. Al-`khir. Al-Zahir. Al-Batin. Al-Wali.al-Muta`ali. Al-Bir. Al-Tawwab. Al-Muntaqim al-Afwu. Al-Ra-f. Malik. Al-Mulk. Zuljalal. HR. al-Baihaqi

4. Riwayat al-Baihaqi

أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين ، أخبرنا جدي إسماعيل بن نجيد ، وأبو عمرو بن مطر ، وعلي بن بندار الصيرفي ، وأبو عمرو بن حمدان ، وأبو بكر بن قريش وغيرهم قالوا : حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا صفوان بن صالح ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة إنه وتر يحب الوتر ، من أحصاها دخل الجنة ، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور ، الغفار ، القهار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، العليم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكيم ، العدل ، اللطيف ، الخبير ، الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العلي ، الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، المجيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوي ، المتين ، الولي ، الحميد ، المحصي ، المبدئ ، المعيد ، المحيي ، المميت ، الحي القيوم ، الماجد ، الواجد ، الواحد ، الأحد ، الصمد ، القادر ، المقنن ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، البر ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرؤوف

، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، الوالي ، المتعالي المقسط (1) ، الجامع ، الغني ، المغني ، الرافع ، الضار ، النافع ، النور ، الهادي ، البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ، الصبور « وقال غيره : المانع بدل قوله الرافع ، وقال : الوالي المتعالي عقب قوله : الباطن .³⁸⁶ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Mans-r Ahmad ibn Ali al-Damigani memberitakan kepada kami, Abu Bakar al-Isma'il memberitakan kepada kami, Abu Abd al-Rahman al-Sulami Muhammad ibn al-Husain menceriterakan kepada kami, Jaddi Isma`il ibn Najid memberitakan kepada kami, Abu Amr ibn Mathar, Ali bin Bundar, Abu Amr bin Hamdan, Abu Bakar bin Quraisy berkata: al-Hasan ibn Sufyan menceriterakan kepada kami, Safwan bin shalih menceriterakan kepada kami, al-Walid ibn Muslim menceriterakan kepada kami, Syu`aib ibn Abu Hamzah menceriterakan kepada kami, dari Abu al-Zinad, dari al-A`raj, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama sembilan puluh sembilan nama, nama yang seratus, kecuali satu, sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil, barangsiapa menghafalnya, masuk surga. *Huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa, al-Rahman. Al-Rahim. Al-Malik. Al-Qudd-s. Al-Salam. Al-Mu`min. Al-Muhaimin. Al-Aziz . al-Jabbar. al-Mutakabbir. Al-Kaliq. Al-Bari`. Al-Musawwir. Al-Gaffar. al-Qahhar. al-Wahhab. al-Razzaq. al-Fattah. al-Alim. al-Qabidh. Al-Basit. Al-Khafidh. Al-Rafi`. Al-Muiz. Al-Muzil. Al-Sami`. Al-Basir. al-Hakam. Al-Adl. Al-latif. al-Khair. al-Halim. al-Azim. Al-Gaf-r. Al-Syak-r. al-Ali. al-KAbur. al-Hafidh. Al-Muqit. al-Hasib. al-Jalil. al-Karim. Al-Raqib. al-Mujib. al-Wasi`. Al-Hakim. al-Wad-d. al-majid. al-Bais. Al-Syahid. al-Haq. Al-Wakil. al-Qawi`. Al-Matin. al-Wali. Al-hamid. al-Muhji. Al-Mubdi`. Al-Mu`id. al-Muhyi. Al-Mumit. al-Hayyu. Al-Qayy-m. al-Majid. Al-Wajid. Al-Wahid. Al-Ahad. Al-Samad. Al-Qadir. Al-Muqtadir. Al-Muqaddam. Al-Mu`akhar. Al-Awwal. al-`khir. Al-Zahir. Al-Batin. Al-bir. Al-Tawwab. al-Muntaqim. Al-Afwu. Al-Ra-f.. Malik. Al-Mulk. Zuljalal. al-Wali. Al-Muta`ali. Al-Muqsit. . al-Jami`. al-Gani. Al-Mugni. Al-Rafi`.*

³⁸⁶ Al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab Faslu fi ma`rifatullah azza wajalla wa ma`rifatu sifatuhu, bab inna lillahi tisatun wa tis-na asma` miatin illa wahidatin innahu witrun, juz I, h. 113. nomor hadis 97.

*Al-Dhar. al-Nafi`. Al-N-r. al-Hadi. al-Badi`. Al-Baqi. al-Waris.
Al-Rasyid. al-SABur. HR.al-Baihaqi.*

5. Riwayat Ibn Hibban.

809 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، ومحمد بن الحسن بن قتيبة ، ومحمد بن أحمد بن عبيد بن فياض بدمشق واللفظ للحسن ، قالوا : حدثنا صفوان بن صالح الثقفي ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، قال : حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لله تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدا ، إنه وتر يحب الوتر ، من أحصاها (1) دخل الجنة . . . هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور ، الغفار ، القهار ، الوهاب ، الرزاق ، الفتاح ، العليم ، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكم ، العدل ، اللطيف ، الخبير ، الحليم ، العظيم ، الغفور ، الشكور ، العلي ، الكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكريم ، الرقيب ، الواسع ، الحكيم ، الودود ، المجيد ، المجيب ، الباعث ، الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوي ، المتين ، الولي ، الحميد ، المحصي ، المبدئ ، المعيد ، المحيي ، المميت ، الحي ، القيوم ، الواجد ، الماجد ، الواحد ، الأحد ، الصمد ، القادر ، المقدر ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، المتعال ، البر ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرؤوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، المانع ، الغني ، المغني ، الجامع ، الضار ، النافع ، النور ، الهادي ، البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ، الصبور ».³⁸⁷ رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Al-Hasan bin Sufyan memberitakan kepada kami, Muhammad bin al-Hasan bin Qutaibah, Muhammad bin Ahmad bin Ubaid bin Fiyad Bidamsyiq berkata: Safwan bin shialih menceriterakan kepada kami, al-Walid ibn Muslim menceriterakan kepada kami, Syu`aib ibn Abu Hamzah

³⁸⁷ Ibn Hibban, *ṣāhīh ibn Hibban, Kitāb al-riqāq, bab al-Azkar*, juz IV, h. 108. nomor hadis 809

menceriterakan kepada kami, dari Abu al-Zinad, dari al-A`raj, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama sembilan puluh sembilan nama, nama yang seratus, kecuali satu, sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil, barangsiapa menghafalnya, masuk surga. . *Huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa, al-Rahman. Al-Rahim. Al-Malik. Al-Qudd-s. Al-Salam. Al-Mu`min. Al-Muhaimin. Al-Aziz . al-Jabbar. al-Mutakabbir. Al-Kaliq. Al-Bari`. Al-Musawwir. Al-Gaffar. Al-Qahhar. Al-Wahhab.al-Razzaq. al-Fattah. al-Alim. al-Qabidh. Al-Basit. Al-Khafidh. Al-Rafi`. Al-Muiz. Al-Muzil. Al-Sami`. Al-Basir. Al-hakam. Al-Adl. Al-Latif. al-Khair. Al-Halim. Al-Azim. al-Gaf-r. al-Syak-r. al-Ali. al-KABur. al-Hafidh. Al-Muqit. al-Hasib. al-Jalil. al-Karim. Al-Raqib. al-Wasi`. Al-Hakim. al-Wad-d. al-Majid..al-Mujib. Al-Bais. Al-Syahid. al-Haq. Al-Wakil. al-Qawi`. Al-matin. al-wali. Al-Hamid. al-Muhsi. Al-Mubdi`. Al-Mu id. Al-Muhyi. Al-Mumit. al-Hayy-. Al-Qayy-m. al-Wajid. Al-Majid. Al-Wahid. Al-`had. Al-Samad. Al-Qadir. Al-Muqtadir. Al-Muqaddam. Al-Muakhar. Al-Awwal. Al-`khir. Al-Zahir. Al-Batin. Al-Mutaal. al-Bir. Al-Tawwab. al-Muntaqim. Al-Afwu. Al-Ra-f. al-Ra-f. Malik. Al-Mulk. Zuljalal, wa Ikram. Al-Muqsit. al-mani`. Al-Gani. Al-Mugni. Al-Jami`. al-Dhar. Al-Nafi`. Al-N-r. al-Hadi. al-Badi`. Al-Baqi. al-Waris. Al-Rasyid. al-sAbur. HR. Ibn Hibban.*

I.Hadis-Hadis Tentang Do`a

1.Hadis tentang Doa adalah *Ibadat*.

1. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَرِّ عَنِ يُسَيْعِ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ وَقَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ دَاخِرِينَ³⁸⁸. رواه الترميذي

Terjemahnya:

Hannad menceriterakan kepada kami, Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir dari Nabi swa., dan beliau membaca firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, niscaya

³⁸⁸ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab Tafsir al-Qur`an `an Ras-lillah, bab wa min surat al-Baqarah, nomor hadis 2895*

aku perkenankan bagimu, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadah, dan beliau membacakan firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu”.....HR. al-Turmuzi.

2. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ³⁸⁹. رواه الترميذي

Terjemahnya:

Mumammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abd al-Rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Mans-r, dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Hadrami, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; aku mendengar Nabi swa., bersabda: al-Du`a adalah ibadah kemudian beliau membaca firman Tuhan : Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina .HR. al-Turmuzi.

3. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ³⁹⁰. رواه الترميذي

Terjemahnya:

Ahmad bin Mani` menceritakan kepada kami, Marwan bin Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` , dari al-Nu`man bin Basyir dari Nabi swa., bersabda: al-Du`a adalah ibadah, kemudian Nabi membacakan firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan

³⁸⁹ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab Tafsir al-Qur`an `an Ras-lillah, bab wa min surat al-Mu`min*, nomor hadis 3170.

³⁹⁰ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Ras-lillah, bab minhu*, nomor hadis 3294.

bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina .HR. al-Turmuzi.

4. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرِّ بْنِ إِسْبَعٍ
الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.³⁹¹ رواه ابوودود

Terjemahnya:

Hafaz bin Umar menceritakan kepada kami, Syu`bah menceritakan kepada kami, dari dari Mans-r dari Zar dari Yusai` al-Hadrami, dari al-Nu`man bin Basyir dari Nabi swa., bersabda: al-Du`a adalah ibadah. Tuhan berfirman: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan. HR. Abu Dawud.

5. Riwayat Ibn Majah.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْهَمْدَانِيِّ عَنِ يُسْبَعِ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قرأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي
أَسْتَجِبْ لَكُمْ.³⁹² رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Waki` menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Zar bin Abd Allah al-Hamdani, dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membaca: firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan. HR. Ibn Majah..

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ذَرِّ بْنِ إِسْبَعِ الْكِنْدِيِّ عَنِ
النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ

³⁹¹ Ab- Dawud. *Sunan Abi Dawud, kitab al-salat, bab al-du`a*, nomor hadis 1264.

³⁹² Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah, kitab al-du`a, bab fadl al-du`a*, nomor hadis 3818.

هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.³⁹³ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadah kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. Ahmad bin Hanbal..

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ذَرِّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ يُسَيْعٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.³⁹⁴ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, al-A`masy menceritakan kepada kami, dari Zar al-Hamdani dari Yusai`, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadah. kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” HR. Ahmad bin Hanbal.

8. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ ذَرِّ عَنِ يُسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

³⁹³ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab awwal musnad al-Kufiyyin, bab hadis al-Nu`man bin Basyir `ani al-Nabi*, nomor hadis 17660.

³⁹⁴ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab awwal musnad al-Kufiyyin, bab hadis al-Nu`man bin Basyir `ani al-Nabi*, nomor hadis 17705.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.³⁹⁵ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd al-Rahman menceritakan kepada kami, Sufyan dan al-A`masy menceritakan kepada kami, dari Zar dari Yusai` al-Hadrami, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah saw., berkhotbah dan beliau bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu”. HR. Ahmad bin Hanbal.

9. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

17629 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ
ذَرِّ عَنْ يُسَيْعِ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي }.³⁹⁶ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku. HR. Ahmad bin Hanbal..

10. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

³⁹⁵ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab awwal musnad al-Kufiyyin, bab hadis al-Nu`man bin Basyir `ani al-Nabi*, nomor hadis 17709.

³⁹⁶ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab awwal musnad al-Kufiyyin, bab hadis al-Nu`man bin Basyir `ani al-Nabi*, juz XXXVII, h. 310, nomor hadis 17629.

17665 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ ذَرِّ عَنْ يُسَيْعٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } .³⁹⁷ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu”. HR. Ahmad bin Hanbal..

11. Riwayat Ibn Abu Syaibah.

حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ : " الدعاء هو العبادة " ، ثم تلا : { وقال ربكم ادعوني أستجب لكم } الآية.³⁹⁸ رواه ابن ابي شيبة

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. Ibn Abu Syaibah.

12. Riwayat al-Nasa`i.

(11464) أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن منصور عن ذر ح وأخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن

³⁹⁷ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab awwal musnad al-Kufiyyin, bab hadis al-Nu`man bin Basyir `ani al-Nabi*, juz XXXVII, h. 346. nomor hadis 17665.

³⁹⁸ Ibn Abi Syaibah, *Musannaf Ibn Abi Syaibah, kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah, bab juz VII*, h. 23.

الاعمش عن زر عن يسيع عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ في قول الله عزوجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ * (ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين).³⁹⁹ رواه النسائي

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami,dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. al-Nasa`i.

13. Riwayat al-Hakim.

1759 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن هارون بن سليمان الأصبهاني ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن منصور ، والأعمش ، عن زر ، عن يسيع الحضرمي ، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ، قال : سمعت النبي ﷺ ، يقول : « إن الدعاء هو العبادة » ، ثم قرأ : (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ».⁴⁰⁰ رواه الحاكم

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami,dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu”. HR. al-Hakim.

³⁹⁹ al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz VI*, h. 450, nomor hadis 11464.

⁴⁰⁰ Al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-`ahihain li al-Hakim, kitab bismillahi al-rahmani al-rahim awwal kitab al-manasik, bab kitab al-du`a wa al-takbir wa al-tahlil wa al-tasbih wa al-zikir*, juz IV, h. 352, nomor hadis 1759.

14. Riwayat al-Tabrani.

1038 - حدثنا محمد بن يوسف الهروي ، بدمشق ، حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد الأنصاري ، حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع ، حدثنا القاسم بن معن ، عن الأعمش ، عن زر بن عبد الله الهمداني ، عن يسيع الحضرمي ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الدعاء هو العبادة ثم تلا (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي) .⁴⁰¹ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami,dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku HR. al-Tabrani.

15. Riwayat Ibn Abu Hatim.

8619 - حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن إدريس ، وابن نمير ، ووکیع ، وعقبة ، عن الأعمش ، عن زر ، عن يسيع بن السميط ، عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله ﷺ : « الدعاء هو العبادة » .⁴⁰² رواه ابن ابي حاتم

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami,dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah. HR. Ibn Abu Hatim.

16. Riwayat al-Baihaqi.

⁴⁰¹ Al-Tabrani, *al-Mu`jam al-`agir li al-Tabrani, kitab min ismihi Muhammad, bab al-Du`a huwa ibadat summa tala wa qala rabbukum ad`-ni astajib lakum*, juz III, h. 178, nomor hadis 1038.

⁴⁰² Ibn Abi Hatim, *Tafsir Ibn Abi Hatim, kitab surat al-A`raf, bab qauluhu ta`ala: Ad`- rabbakum*, juz XXIX, h. 334, nomor hadis 8619.

1117 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا حاجب بن أحمد بن سفيان ، أخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي ، حدثنا ابن المبارك ، حدثنا شعبة ، عن منصور - ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، - واللفظ له - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا هارون بن سليمان ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، والأعمش ، عن زر ، عن يسيع الحضرمي ، عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الدعاء هو العبادة » ثم قرأ : (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ⁴⁰³ . رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami,dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. al-Baihaqi.

17. Riwayat Ibn Hibban.

891 - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن زر ، عن يسيع الحضرمي ، عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله ﷺ : « الدعاء هو العبادة » ، ثم قرأ هذه الآية : (ادعوني أستجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ⁴⁰⁴ . رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami,dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-

⁴⁰³ Al-Baihaqi, Sya`bu al-Iman li al-Baihaqi, kitab faslu, bab al-Du`a huwa ibadat qala rabbukum ad`ni astajib lakum, juz III, h. 164, nomor hadis 1117.

⁴⁰⁴ Ibn Hibban, Sahih ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-ad`iyah, juz IV, h. 270, nomor hadis 891.

Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. Ibn Hibban .

18. Riwayat Abd Allah ibn al-Mubarak.

73 - حدثنا جدي ، نا حبان ، أنبا عبد الله عن شعبة ، عن منصور ، عن زر ، عن يسيع ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي ﷺ : « إن الدعاء هو العبادة ، ثم قرأ : (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) .»⁴⁰⁵ رواه عبد الله ابن مبارك

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami,dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. Abd Allah ibn al-Mubarak.

19.Riwayat Syihab al-Qadha`i.

29 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا بكر بن فرقد أبو أمية التميمي ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن منصور ، ح ، وأخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو ، ومحمد بن الحسن المقرئ قالا : ثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن بلغارية ، ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، ثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن الأعمش ، ح وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد الأنماطي ، ثنا حمزة بن محمد الكناني ، ثنا أبو عبد الرحمن ، ثنا هناد بن السري بن مصعب ، عن أبي معاوية ،

⁴⁰⁵ Abd Allah ibn al-Mubarak. *Musnad Abd Allah Ibn al-Mubarak*, kitab *Musnad Abd Allah ibn al-Mubarak*, bab *al-Du`a huwa ibadat qala rabbukum ad`-ni astajib lakum*, juz I, h. 74, nomor hadis 73.

عن الأعمش ، ح وأخبرنا محمد بن الحسين ، ثنا أبو الطيب العباس بن أحمد ، ثنا عثمان بن عبد الله ، ثنا أبو قدامة هو محمد بن قدامة ، ثنا جرير ، عن منصور ، كلهم عن زر ، عن يسيع ، في حديث أبي محمد عبد الرحمن الحضرمي ، عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله ﷺ : « الدعاء هو العبادة »⁴⁰⁶ رواه الشهاب القضاعي

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami,dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. Ahmad bin Hanbal..

20.Riwayat Syihab al-Qadha`i.

30 - أنا أبو الحسن عبد الملك بن عبد الله بن محمود بن مسكين ، أنا أبو بكر محمد بن يحيى الـدميـاطي ، ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا مسدد ، ثنا عبد الله بن داود ، عن الأعمش ، عن اليسيع ، عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله ﷺ : « الدعاء هو العبادة ، (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) » رواه الشهاب القضاعي

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami,dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku,

⁴⁰⁶ Al-Syihab al-Qadha`i, *Musnad al-Syihab al-Qadha`i, kitab al-du`a huwa ibadat, bab al-du`a huwa ibadat*, juz I, h. 38. nomor hadis 29.

mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina.⁴⁰⁷ HR. Syihab al-Qadha`i.

21. Riwayat al-Tayalisi.

830 - حدثنا داود قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : سمعت ذرا يحدث عن يسيع الحضرمي ، عن النعمان بن بشير ، أن رسول الله ﷺ قال : « إن الدعاء هو العبادة قال ربكم : (ادعوني أستجب لكم ».⁴⁰⁸ رواه الطيالسي

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu". HR.al-Tayalisi..

⁴⁰⁷ Al-Syihab al-Qadha`i, *Musnad al-Syihab al-Qadha`i, kitab al-du`a huwa ibadat, bab al-Du`a huwa ibadat qala rabbukum ad`-ni astajib lakum*, juz I, h. 49, nomor hadis 30.

⁴⁰⁸ Al-Tayalisi, *Musnad al-Tayalisi, kitab al-Nu`man bin Basyir, bab al-Du`a huwa ibadat qala rabbukum ad`-ni astajib lakum*, juz II, h. 378, nomor hadis 830.

BAGIAN KETIGA HADIS-HADIS TENTANG ADAB DAB METODE BERZIKIR.

A. Hadis Tentang Adab Berzikir.

1. Hadis tentang zikir dalam keadaan Suci.

1. Riwayat Abu Dawud.

16 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَدْكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ.⁴⁰⁹ رواه ابو داود

Terjemahnya:

Muhammad ibn Musanna menceritakan kepada kami, Abd al-A`la menceritakan kepada kami, Sa`id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Hujaib bin al-Munzir, Abu Bakar

⁴⁰⁹ Ab- Dawud Sulaiman bin al-Asy`as al-Sijistani. *Sunan Ab-Dawud, kitab al-Taharah, bab ayuraddu al-salam wa huwa yab-l*, juz I, h. 25. nomor hadis 16.

berkata, dari al-Muhajir sesungguhnya datang kepada Nabi saw., ketika beliau sedang buang air kecil, lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi, namun beliau tidak menjawab salamnya hingga berwudhu, kemudian beliau meminta maaf seraya bersabda: "Sesungguhnya aku tidak suka menyebut Nama Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan suci."... HR. Abu Daw-d

2. Riwayat al-Hakim.

548 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا عبد الله بن خيران ، ثنا شعبة ، قال : وحدثنا محمد بن غالب ، ثنا عباس بن الوليد الرقام ، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حزين بن المنذر ، عن المهاجر بن قنفذ ، أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه وقال : « إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو قال : على طهارة - ».⁴¹⁰ رواه الحاكم

Terjemahnya:

Ali bin Hamzaz al-Adl menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Galib menceritakan kepada kami, Abd Allah bin Kharan menceritakan kepada kami, Syu`bah dan Muhammad bin Galib menceritakan kepada kami, Abbas ibn al-Walid al-Riqam menceritakan kepada kami, Abd al-A`la bin Abd al-A`la menceritakan kepada kami, Syu`bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Hu`jain bin al-Munzir, Abu Bakar berkata, dari al-Muhajir sesungguhnya datang kepada Nabi saw., lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi, namun beliau tidak menjawab salamnya hingga berwudhu, kemudian beliau meminta maaf seraya bersabda: "Sesungguhnya aku tidak suka menyebut Nama Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan suci."..... HR.al-Hakim.

3. Riwayat al-Hakim.

549 - إنما أخرج مسلم حديث الضحاک بن عثمان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلا مر على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه ولم يرد

⁴¹⁰ al-Hakim. *Mustadrak ala al-çahihain li al-Hakim, kitab al-Taharah, bab wa amma hadis²isyah*, juz II, h. 19. nomor hadis 548.

عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه ، وقال : « إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر - أو قال : - على طهارة ».⁴¹¹ رواه الحاكم

Terjemahnya:

Dari al-Dahhak bin Usman, dari Nafi`, dari Ibn Umar, sesungguhnya seorang laki-laki melewati Nabi saw.,.....HR.al-Hakim.

4. Riwayat Ibn Hibban.

804 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وخالد بن عمرو بن النضر ، ، قال : حدثنا محمد بن المثني ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الحضير بن المنذر ، عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان ، أنه أتى النبي ﷺ وهو يتوضأ ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه رسول الله ﷺ حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه ، فقال : « إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ، أو ، قال : على طهارة ».⁴¹² رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah, dan Khalid bin Amr bin al-Nadr menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Musanna menceritakan kepada kami, Abd al-A`la menceritakan kepada kami, Sa`id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Hujain bin al-Munzir, Abu Bakar berkata, dari al-Muhajir sesungguhnya datang kepada Nabi saw., ... HR. Ibn Hibban.

5. Riwayat Ibn Hibban.

807 - أخبرنا خالد بن النضر القرشي بالبصرة ، وابن خزيمة ، ، حدثنا محمد بن المثني ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حضير بن المنذر ، عن مهاجر بن قنفذ ، أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول ، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ،

⁴¹¹ al-Hakim. *Mustadrak ala al-ṣaḥiḥain li al-Hakim, kitab al-Taharah, bab wa amma hadis 2isyah*, juz II, h. 90. nomor hadis 549.

⁴¹² Ibn Hibban. *ṣaḥih Ibn Hibban, kitab al-riḥaq, bab qira`at al-Qur`an*, juz IV, h. 98. nomor hadis 804.

ثم اعتذر ، فقال : « إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ، أو ، قال : على طهارة » .⁴¹³ رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Khalid bin al-Nasr al-Qurasyi dan Ibn Huzaimah menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn al-Musanna menceriterakan kepada kami, Abd al-A`la menceriterakan kepada kami, Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Hujain bin al-Munzir, , dari al-Muhajir sesungguhnya datang kepada Nabi saw., ... HR.Ibn Hibban.

6. Riwayat Ibn Huzaimah.

208 - نا أبو موسى محمد بن المثنى ، نا عبد الأعلى ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حصين بن المنذر - قال أبو بكر : هو ابن أبي ساسان - عن المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان ، أنه أتى النبي ﷺ وهو يتوضأ فسلم عليه ، فلم يرد عليه رسول الله ﷺ حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه فقال : « إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » أو قال : « على طهارة » ،⁴¹⁴ رواه ابن خزيمة

Terjemahnya:

Abu M-sa Muhammad ibn Musanna menceriterakan kepada kami, Abd al-A`la menceriterakan kepada kami, Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Hujain bin al-Munzir, Abu Bakar berkata, dari al-Muhajir sesungguhnya datang kepada Nabi saw., ... HR. Ibn Huzaimah.

•

B, Hadis Tentang Metode Berzikir.

1, Hadis Tentang zikir Furadi.

1. Riwayat al-Bukhari.

⁴¹³ Ibn Hibban. *ṣahih Ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-azkar, juz IV, h. 104. nomor hadis 807.*

⁴¹⁴ Ibn Huzaimah. *ṣahih Ibn Huzaimah, kitab al-wudhu, bab jama` abwab fud-l al-tathir wa al-istihbab min gairi ijab, juz I, h. 380. nomor hadis 208.*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.⁴¹⁵ رواه البخاري

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin 2sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

2. Riwayat al-Bukhari.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ

⁴¹⁵ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari. Kitab al-Azan, bab man jalasa fi al-masjid yantadir al-salat wa fadl al-masajid*, nomor hadis,620

فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا
فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ.⁴¹⁶ رواه البخاري

Terjemahnya:

Musaddad menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

3. Riwayat al-Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا
ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي
خَلَاءٍ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي
اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا صَنَعَتْ
يَمِينُهُ.⁴¹⁷ رواه البخاري

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada

⁴¹⁶ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari. Kitab al-zakat bi al-yamin, nomor hadis 1334.*

⁴¹⁷ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari. Kitab al-hud-d, bab man taraka al-fawahisy, nomor hadis 6308.*

naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

4. Riwayat Muslim.

1712 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ مَعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.⁴¹⁸ رواه مسلم

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir

⁴¹⁸ Al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab al-zuhud `an Ras-lillah, bab ma ja`a fi al-hubb fi Allah, juz VIII, h. 404, nomor hadis 2313.*

kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya.
HR. Al-Bukhari.

5. Riwayat al-Turmuzi.

2313 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.⁴¹⁹ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya.
HR. Al-Bukhari.

6. Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ عَزَّ

⁴¹⁹ Muslim. *ṣahih Muslim, kitab al-zakat, bab fadl ihkfa` al-sadaqah*, juz V, h. 229, nomor hadis 1712.

وَجَلَّ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ دَاثٌ مُنْصِبٌ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ أَنَا أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.⁴²⁰ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterakan kepada kami, berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterakan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Ahmad bin Hanbal.

7. Riwayat Malik.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ دَاثٌ حَسَبَ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ .⁴²¹ رواه مالك

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterakan kepada kami, berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah

⁴²⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Kitab *baqi musnad al-Muksirin bab Baqi al-musnad al-sabiq*, 9288

⁴²¹ Malik, *Muwaththa Malik*. Kitab *al-jami`*, bab *ma ja`a al-mutahabbina fi Allah*, nomor hadis, 1501.

berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Malik.

8. Riwayat al-Nasa`i.

(5921) أخبرنا سويد بن نصر قال أنا عبد الله عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عزوجل ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل كان قلبه معلقا في المسجد ورجلان تحابا في الله عزوجل ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله عزوجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل.⁴²² رواه النسائي

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki

⁴²² al-Nasa`i. *Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz III, h. 461. nomor hadis 5921.*

bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya.
HR. Al-Bukhari.

9. Riwayat al-Baihaqi.

(اخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو بكر محمد بن احمد بن بالوية ثنا موسى بن هارون ثنا زهير بن حرب ثنا يحيى (ح و اخبرنا) أبو عبد الله انبأ أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا ثنا يحيى يعنيان ابن سعيد عن عبيد الله يعني ابن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال سبعة يظلمهم الله تعالى في ظلة يوم لا ظل الا ظله الامام العدل ورجل نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد (1) ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها فلاتعلم (2) يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.⁴²³ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya.
HR. Al-Bukhari.

10. Riwayat al-Baihaqi.

⁴²³ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, kitab *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, bab juz IV, h. 190.

(أخبرنا) أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدى يحيى بن منصور ثنا احمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا ثنا يحيى (1) يعنيان ابن سعيد عن عبيد الله حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل (2) ورجل نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انى اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما ينفق بشماله (3) ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.⁴²⁴ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin 2sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

11. Riwayat al-Baihaqi.

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدرى أو أبي هريرة رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ سبعة يظلهم الله في

⁴²⁴ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, kitab *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, bab juz VIII, h. 162

ظله يوم لا ظل الا ظله ، امام عادل ، وشاب نشأ بعبادة الله ، ورجل قلبه معلق (3) بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.⁴²⁵
رواه البيهقي

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya.
HR. Al-Bukhari.

12. Riwayat al-Baihaqi.

3285 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالوا : حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد الخدري ، أو عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود

⁴²⁵ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, kitab *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, bab juz X, h. 87.

إليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا » .⁴²⁶ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

13. Riwayat al-Baihaqi.

7106 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني علي بن عيسى ، نا عمران بن موسى ، نا محمد بن عبيد بن حسان ، نا حماد بن زيد ، نا عبيد الله بن عمر ، نا خالي خبيب ، عن جدي حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « سبعة يظلهم الله في ظله ، يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل ، قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا على ذلك وتفرقا ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعت امرأته ذات حسب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » .⁴²⁷ رواه البيهقي

Terjemahnya:

⁴²⁶ Al-Baihaqi, *Sya`bu al-Iman li al-Baihaqi, kitab al-ikhtijar fi al-sadaqah al-tatawwu` , bab sab`atum yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh*, juz VII, h. 442, nomor hadis 3285.

⁴²⁷ Al-Baihaqi, *Sya`bu al-Iman li al-Baihaqi, kitab al-tasi` wa salas-n min sya`b al-iman, bab faslu fi fadl al-imam al-adl wa ma ja`a fi jauri al-wulat.*, juz XV, h. 408. nomor hadis 7106.

Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

14. Riwayat Ibn Hibban.

4563 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا حبان بن موسى ، حدثنا عبد الله ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل كان قلبه معلق في المسجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا ، ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . »⁴²⁸ رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-

⁴²⁸ Ibn Hibban, *ṣahih Ibn Hibban, kitab al-sair, bab fi al-khilafah wa al-imarah*, juz XVIII, h. 474, nomor hadis 4563.

laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

15. Riwayat Ibn Hibban.

7462 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان ، أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد الخدري ، أو عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعت امرأته ذات حسب وجمال ، فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ». ⁴²⁹ رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin 2sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

⁴²⁹ Ibn Hibban, *ṣahih Ibn Hibban, kitab ikhbaruhi sallallahu alaihi `an manakib al-sahabah rijaluhum, bab zikru al-khisal allati yartaji liman fa`alaha aw ahaza biha an*, juz XXX, h. 206, nomor hadis 7462.

16. Riwayat Ibn Khuzaimah.

358 - نا بNDAR ، نا يحى ، أخبرنا عبيد الله بن عمر ، حدثني خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » قال لنا بNDAR مرة « امرأة ذات حسب وجمال ، فقال إني قال أبو بكر : هذه اللفظة لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قد خولف فيها يحيى بن سعيد فقال : من روى هذا الخبر غير يحيى ، لا يعلم شماله ما ينفق يمينه.⁴³⁰ رواه ابن خزيمة

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, dari Hafz bin 2sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

17. Riwayat al-Tahawi

5114 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد

⁴³⁰ Ibn Khuzaimah, *ṣahih Ibn Khuzaimah, kitab al-salat, bab fadl intizar al-salat wa jul-s fi al-masjid wa al-zikr al-du`a al-malaikat limuntazir*, juz II, h. 136, nomor hadis 358.

الخدري ، أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ، ورجل قلبه تعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعت امرأته ذات حسب وجمال ، فقال : إني أخاف الله عز وجل ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » .⁴³¹ رواه الطحاوي

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin 2sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

18. Riwayat al-Tahawi

5116 - فوجدنا محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي قد حدثنا ، أخبرنا عبيد الله ، وعمرو بن علي ، ونوح بن حبيب ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا مسدد ، قالوا : أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن حبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « سبعة يظلمهم الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ في

⁴³¹ Al-Tahawi. *Musykil al-2sar li al-Tahawi, kitab bayan ma ruwiya `an Ras-lillah sallallahu alaihi wasallam, bab sab `atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilli illa zilluh*, juz XIII, h. 61, nomor hadis 5114.

عبادة الله تعالى ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل طلبته ذات حسب وجمال فقال : إني أخاف الله رب العالمين ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجل تصدق بصدقة ، فأخفى يساره ما أنفقت يمينه .»⁴³² رزاه الطحاوي

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, berkata; Yahya menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceritakan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

19. Riwayat Abd Allah Ibn al-Mubarak.

82 - حدثنا جدي ، نا حبان ، أنبأ عبد الله عن عبيد الله بن عمر ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم بن عمر ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه : إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل ، ورجل ذكر الله في خلا ففاضت عيناه ، ورجل كان قلبه معلق في المسجد ، ورجلان تحابا في الله ، ورجل دعت امرأه ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة

⁴³² Al-Tahawi. *Musykil al-²sar li al-Tahawi, kitab bayan ma ruwiya `an Ras-lillah sallallahu alaihi wasallam, bab sab `atun yuzilluhumullahu tahta arsyihi yauma la zilli illa zilluh, juz XIII, h. 63, nomor hadis 5116.*

فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه»⁴³³. رواه عبد الله ابن مبارك

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-laki hatinya terpaut dengan mesjid, dua laki-laki yang bersahabat karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki diajak perempuan untuk berbuat keji, laki-laki menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir kepada Allah pada waktu syuni, ia mencururkan air matanya. HR. Al-Bukhari.

2. Hadis Tentang Memakai Istilah *Mufarradn*.

1. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرَدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدَّاكِرُونَ وَاللَّهِ كَثِيرًا وَالدَّاكِرَاتُ⁴³⁴. رواه مسلم

Terjemahnya:

Abu ²mir menceriterakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak menceriterakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Pada suatu ketika Rasulullah

⁴³³ Abd Allah Ibn al-Mubarak, Musnad Abd Allah Ibn al-Mubarak, kitab bab sab`atun yuzilluhumullahu yauma al-qiyamah fi zillih yauma la zilluh, juz I, h. 83, nomor hadis 82.

⁴³⁴ Riwayat Muslim. *ḥahih Muslim, Kitab al-zikir wa al-du`a, wa al-taubah, wa al-istigfar, bab al-hassu ala zikrillahi ta`ala, Juz XIII, h. 169. nomor hadis 4834.*

shallallahu 'alaihi wasallam pergi ke Makkah melewati sebuah gunung yang bernama Jumdan. Kemudian beliau bersabda: 'Ayo jalanlah! Inilah Jumdan. Telah menang para mufarridun.' Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan mufarridun?' Beliau menjawab: 'Yaitu orang-orang (laki-laki/perempuan) yang banyak berdzikir kepada Allah.' HR. Muslim

2. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْتَهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ يَضَعُ الذِّكْرَ عَنْهُمْ أَنْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا. رواه الترميذي⁴³⁵

Terjemahnya:

Abu ²mir menceritakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Al Mufarridun (orang-orang yang menyendiri untuk beribadah) telah mendhului (unggul)." Mereka bertanya; "Apa (yang dimaksud dengan) Al Mufaridun ya Rasulullah?" beliau bersabda: "Mereka adalah orang-orang yang terpikat dalam berdzikir kepada Allah, dzikir telah menggugurkan dosa yang mereka pikul, sehingga mereka datang dalam keadaan ringan tanpa beban dosa."HR. al-Turmuzi

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ الْمُفَرِّدُونَ قَالَ الَّذِينَ يُهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ. رواه احمد بن حنبل⁴³⁶

Terjemahnya:

⁴³⁵ al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, Kitab al-qa`wat `an Ras-lillah, bab fi al-afwi wa al-afiyah*, juz XII, h. 23. nomor hadis 3520

⁴³⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab musnad al-muksirin, bab al-musnad al-`abiq*, nomor hadis 7940

Abu ʿmir menceritakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Al Mufarridun (orang-orang yang menyendiri untuk beribadah) telah mendhului (unggul)." Mereka bertanya; "Apa (yang dimaksud dengan) Al Mufarridun ya Rasulullah?" beliau bersabda: "Mereka adalah orang-orang yang terpikat dalam berdzikir kepada Allah, ...HR. Ahmad bin Hanbal

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي
طَرِيقِ مَكَّةَ فَأَتَى عَلَى جُمْدَانَ فَقَالَ هَذَا جُمْدَانُ سَبَقُوا سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ
قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهُ كَثِيرًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِلْمُحَقِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَقِّقِينَ قَالُوا
وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ⁴³⁷ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Ibrahim, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. dalam perjalanannya menuju ke Mekah sampai di Jamdan. Ketika sampai di Jamdan beliau bersabda, "Ini adalah Jamdan, teruskanlah perjalanan kalian, sesungguhnya orang-orang yang mengesakan Allah telah mendahului." Para sahabat bertanya, "Siapakah yang di maksud dengan orang-orang yang mengesakan Allah?" Rasulullah Saw. menjawab: *Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah.* Kemudian Nabi Saw. berdoa: *Ya Allah, berikanlah ampunan bagi orang-orang yang mencukur rambutnya.* Para sahabat berkata, "Doakanlah pula bagi orang-orang yang memotong rambutnya." Rasulullah Saw. berdoa lagi: *Ya Allah, berikanlah ampunan bagi orang-orang yang mencukur rambutnya.* Mereka berkata pula, "Doakanlah juga bagi orang-orang yang memotong rambutnya." Rasulullah Saw. berdoa lagi: *dan juga bagi orang-orang yang memotong rambutnya...* HR. Ahmad bin Hanbal .

⁴³⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab musnad al-muksirin min al-ṣahabah, bab al-musnad Abi Hurairah ra*, juz XIX, h. 8. nomor hadis 8964.

5. Riwayat al-Hakim.

حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان المقرئ ببغداد ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الرحمن بن يعقوب ، مولى الحرقة قال : سمعت أبا هريرة ، رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبق المفردون » قالوا : يا رسول الله ، وما المفردون ؟ قال : « الذين يهتدون (1) في ذكر الله »⁴³⁸ . رواه الحاكم

Terjemahnya:

Abu 2mir menceritakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: HR. al-Hakim

6. Riwayat al-Tabrani.

وَعَنْ رَوْحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ: "هَذَا جُمْدَانُ، سِيرُوا، سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ"، مَرَّتَيْنِ، قَالُوا: وَمَا الْمُفْرَدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ، رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ" قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ" قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ" قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ".⁴³⁹ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Abu 2mir menceritakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Pada suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi ke Makkah melewati sebuah

⁴³⁸ al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-ʿahihain li al-Hakim*, kitab bismillahi al-rahmani al-rahim awwalu kitab wa al-manasik, bab al-dua wa al-takbir, wa al-tahlil wa al-tasbih wa al-zikir, juz IV, h.370. nomor hadis 1777.

⁴³⁹ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, Kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, bab qat`ah min al-mafq-t , juz XIX, h. 228. nomor hadis 557

gunung yang bernama Jumdan. Kemudian beliau bersabda: 'Ayo jalanlah! Inilah Jumdan. Telah menang para mufarridun.' Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan mufarridun?' Beliau menjawab: 'Yaitu orang-orang (laki-laki/perempuan) yang banyak berdzikir kepada Allah.' HR. Muslim ...HR. al-Tabrani.

7. Riwayat al-Baihaqi.

ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو زكريا العنبري ، أخبرنا أبو عبد الله البوشنجي ، حدثنا أمية بن بسطام ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال كان رسول الله ﷺ يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان ، فقال : « سيروا هذا جمدان سبق المفردون » . قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : « الذاكرون الله كثيرا والذاكرات »⁴⁴⁰ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu ʿmir menceritakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: HR. al-Baihaqi.

8. Riwayat al-Baihaqi.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان المقرئ ببغداد ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا أبو عامر العقدي ، حدثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : « سبق المفردون » . قلت : وما المفردون ؟ قال : « الذين يهترون (1) في ذكر الله عز وجل »⁴⁴¹ رواه البيهقي

Terjemahnya:

⁴⁴⁰ al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi*, Kitab faslu fi idamati zikrullahi azza wajalla, bab sarau haza jundan sabaqa al-mufarrid-n qalu wama, juz II, h. 76. nomor hadis 534.

⁴⁴¹ al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi*, Kitab faslu fi idamati zikrullahi azza wajalla, bab sarau haza jundan sabaqa al-mufarrid-n qalu wama, juz II, h. 77. nomor hadis 535.

Abu ʿmir menceritakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: HR. al-Baihaqi.

9. Riwayat al-Baihaqi,

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن صباح ، أخبرنا عبد الله بن شيرويه ، حدثنا إسحاق بن راهويه ، أخبرنا محمد بن بشر العبدي ، عن عمر بن راشد اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « سيروا سبق المفردون » . قيل : يا رسول الله ، ومن المفردون ؟ قال : « المستهترون بذكر الله عز وجل يضع الذكر عنهم أثقالهم ، فيأتون يوم القيامة خفافا .⁴⁴² رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu ʿmir menceritakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: HR. al-Baihaqi..

10. Riwayat Ibn Hibban.

أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أمية بن بسطام ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا روح بن القاسم ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله ﷺ يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له : جمدان ، فقال : « سيروا هذا جمدان ، سبق المفردون ، سبق المفردون » ، قالوا : يا رسول الله ، ما المفردون ؟ قال : « الذاكرون الله كثيرا والذاكرات⁴⁴³ . رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Abu ʿmir menceritakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: HR. Ibn Hibban.

⁴⁴² al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu fi idamati zikrullahi azza wajalla, bab sarau haza jundan sabaqa al-mufarriid-n qalu wama*, juz II, h. 78. nomor hadis 536

⁴⁴³ Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-Azkar*, juz IV, h. 208. nomor hadis 859.

3.Hadis-Hadis Tentang Zikir Berjama`ah.

1. Riwayat al-Bukhari. 5929

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيْنَا حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحْفَوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُجَدِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجِيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنْتُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنْتُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا جِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّدُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأَسْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ عَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فَلَانْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْفَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.⁴⁴⁴ رواه البخاري

Terjemahnya:

Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurayrah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang tugasnya berkeliling untuk mencari orang-orang yang sedang berdzikir (kepada Allah). Maka, ketika mereka mendapatkan kaum yang sedang berdzikir kepada Allah, mereka saling mengingatkan, “Tempati posisi kalian masing-masing.” Mereka pun mengepakkan sayapnya lalu mengelilingi orang-orang yang berdzikir. Setelah itu, mereka kembali kelangit dunia. Lalu tuhan mereka bertanya kepada mereka – sedangkan Allah lebih mengetahui daripada mereka, ‘apa yang dibaca

⁴⁴⁴ Al-Bukhari, *ṣahih al-Bukhari*, nomor hadis 5929.

oleh hamba-hamba-Ku?’ para malaikat menjawab, ‘mereka bertasbih, bertakbir, bertamjit ‘mengagungkan’, dan bertahmid kepada-Mu.’ Allah bertanya, ‘Apakah mereka bisa melihat-Ku?’ para malaikat menjawab, ‘Tidak. Demi Allah mereka tidak dapat melihat engkau.’ Allah bertanya, ‘Bagaimana jika mereka bisa melihat-Ku?’ Para malaikat menjawab, ‘jika mereka bisa melihat engkau, niscaya mereka akan lebih rajin beribadah, ber-tamjid, dan bertasbih kepada engkau,’ Allah bertanya, ‘apa yang mereka harapkan dari-Ku?’ Para Malaikat menjawab, ‘surga,’ Allah bertanya, ‘Apakah mereka bisa melihat surga?’ Para Malaikat menjawab, ‘Demi Allah mereka tidak melihatnya,’ Allah bertanya bagaimana Jika mereka bisa melihat surga?,’ Mereka akan semakin semangat, rajin, dan ambisi untuk selalu mendapatkannya. ‘Allah bertanya, ‘Mereka hendak mendapatkan perlindungan dari apa?’ para malaikat menjawab, ‘dari neraka.’ Allah bertanya, ‘Apakah mereka bisa melihat neraka?’ Para Malaikat menjawab, ‘Tidak, Wahai Tuhan, Mereka tidak bisa melihat neraka.’ Allah bertanya, ‘Bagaimana jika mereka bisa melihat neraka?’ para malaikat menjawab, ‘seandainya mereka bisa melihat neraka, niscaya mereka akan semakin takut dan semakin menghindari dari neraka.’ Allah berfirman, ‘Aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka.’ Salah seorang Malaikat melaporkan bahwa salah seorang yang hadir di dalam majlis dzikir itu tidak ikut berdzikir. Allah berkata mereka itu tidak ternodai oleh teman duduk mereka di dalam majlis dzikir itu.” HR. al-Bukhari

2. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فَضُلًا يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّتْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنَحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتِكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا لَا أَيْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَني قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا وَيَسْتَعْفِرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجْرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ

فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ
وَلَهُ عَفْرَتٌ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.⁴⁴⁵ رواه مسلم

Terjemahnya:

Muhammad bin Hatim bin Maym-n menceritakan kepada kami, Bahz menceritakan kepada kami, Wuhayb menceritakan kepada kami, Suhayl menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Hurayrah, dari Nabi saw., ia bersabda: “sesungguhnya Allah *tabaraka wa ta’ala* memiliki malaikat yang mulia yang mengikuti majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapati majelis yang di dalamnya ada zikir, maka mereka ikut bersama dengannya dan mereka mengelilinya dengan sayapnya hingga mereka penuh antara langit dunia. Apabila para malaikat berpisah maka mereka naik ke langit, dan mereka ditanya oleh Allah: “dari mana kalian datang?”. Mereka menjawab: “kami datang dari hamba-Mu di bumi, mereka bertasbih kepada-Mu, bertakbir kepada-Mu, bertahmid kepada-Mu dan mengagungkan-Mu.” serta meminta kepada-Mu. Allah berfirman: “apa yang mereka minta kepada-Ku?”. mereka (para malaikat) menjawab: “mereka minta surga kepada-Mu.” Allah bertanya: “Apakah mereka pernah melihat surga-Ku?”. mereka (para malaikat) menjawab: “tidak, demi Allah ya *Rab*, mereka belum pernah melihatnya.” Allah bertanya lagi, “bagaimana seandainya mereka melihat surga-Ku?”. mereka (para malaikat) menjawab: “mereka berkata serta minta supaya dijauhkan.” Allah bertanya: “dari apa mereka dijauhkan?”. Mereka (para malaikat) menjawab: “dari api neraka-Mu ya *Rabb*.” Allah bertanya: “apakah mereka melihat neraka-Ku?”. Mereka menjawab: “tidak.” Allah bertanya: “bagaimana seandainya mereka melihat neraka-Ku?”. Mereka (para malaikat) menjawab: “mereka berkata serta meminta ampun kepada-Mu.” Lalu Allah berfirman: “sungguh Aku telah mengampuni mereka, maka Aku memberikan apa yang mereka minta serta menjauhkan mereka dari apa yang mereka minta.” Kemudian para malaikat bertanya: “ya *Rabb!* di dalamnya terdapat seorang hamba yang melakukan kesalahan, sesungguhnya dia lewat kemudian duduk bersama dengan orang-orang yang sedang berzikir.” Lalu Allah menjawab: “sungguh Aku telah mengampuni mereka, mereka adalah kaum yang pahala

⁴⁴⁵ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Qusyairiy (dibaca Muslim), *Sahih Muslim* IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992 M./1413 H.), h. 2069.

(ganjaran) nya tidak bisa dihalangi oleh orang duduk bersama mereka.”HR. Muslim.

3. Riwayat al-Tirmizi.

- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَضَّلًا عَنْ كُتَابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيْنَا بُعَيْتِكُمْ فَيَجِئُونَ فَيُحْفُونَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيَمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ فَهَلْ رَأَوْنِي فَيَقُولُونَ لَا قَالَ فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيدًا وَأَشَدَّ تَمَجِيدًا وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْرًا قَالَ فَيَقُولُ وَأَيُّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ قَالَ فَيَقُولُونَ يَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَا قَالَ فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا أَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا قَالَ فَيَقُولُ فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّدُونَ قَالُوا يَتَعَوَّدُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا هَرْبًا وَأَشَدَّ مِنْهَا حَوْفًا وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّدًا قَالَ فَيَقُولُ فَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ عَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُونَ إِنَّ فِيهِمْ قُلَانًا الْخَطَاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ⁴⁴⁶ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Abu Kurayb menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari A'masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurayrah atau Abu Sa'id al-Khudriy, Rasulullah saw. bersabda: “sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang mulia yang bertebaran di muka bumi, Ketika mereka menjumpai suatu

⁴⁴⁶ Muhammad bin 'Isa bin Sarwah (disebut al-Tirmiziy), *Sunan al-Tirmiziy* Juz V (Cet I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987 M./1408 H.), h. 540-541.

kaum yang sedang berzikir, mereka pun saling memanggil: “Kemarilah kepada kebutuhan yang kalian cari-cari”. Lalu mereka (para malaikat) berdatangan dan mengelilingi mereka hingga langit dunia. Allah bertanya: “dalam keadaan apa kalian meninggalkan hamba-Ku?.” Mereka (para malaikat) menjawab: “kami meninggalkan mereka dalam keadaan memuji-Mu, mengagungkan-Mu serta berzikir kepada-Mu.” Kemudian Allah bertanya: “apakah mereka melihat-Ku.” Mereka (para malaikat) menjawab: “seandainya mereka melihat-Mu, pasti mereka lebih keras lagi memuji-Mu, lebih semangat lagi dalam mengagungkan-Mu serta lebih banyak berzikir kepada-Mu.” Allah pun bertanya lagi, “Apakah yang mereka minta kepada-Ku?.” mereka (para malaikat) menjawab: “mereka minta surga kepada-Mu.” Allah bertanya lagi, “apakah mereka pernah melihatnya.” mereka (para malaikat) menjawab: “tidak.” Allah bertanya lagi, “bagaimana seandainya mereka melihatnya?.” mereka (para malaikat) menjawab: “seandainya mereka melihatnya, pastilah mereka lebih keras keinginan terhadapnya, lebih bersungguh-sungguh berusaha mendapatkannya dan lebih besar lagi semangat terhadapnya.” Allah bertanya lagi: “mereka berlindung dari apa?.” mereka (para malaikat) menjawab: “mereka berlindung dari neraka.” Allah pun bertanya lagi: “apakah mereka pernah melihatnya?.” mereka (para malaikat) menjawab: “tidak.”, mereka belum pernah melihatnya.” Allah bertanya: “bagaimana seandainya mereka melihat neraka-Ku?.” Mereka (para malaikat) menjawab: “mereka pasti sangat cepat lari darinya, sangat ketakutan darinya, serta sangat besar permintaan perlindungan darinya.” Lalu berfirman: “sesungguhnya Aku mempersaksikan kepada kalian bahwa sungguh Aku telah mengampuni mereka.” Kemudian mereka (para malaikat) bertanya: “di dalamnya terdapat seorang hamba yang melakukan kesalahan, sesungguhnya dia tidak menginginkan mereka melainkan dia mendatangi mereka karena mempunyai keinginan tertentu.” Lalu Allah menjawab: “sungguh Aku telah mengampuni mereka, mereka adalah kaum yang pahala (ganjaran) nya tidak bisa dihalangi oleh orang duduk bersama mereka.”HR. al-Turmuzi.

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هُوَ شَكَّ يَعْنِي الْأَعْمَشَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَضُلًّا عَنْ كُتَابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيْ بَعْثِكُمْ فَيَجِئُونَ فَيُحْفُونَ بِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ اللَّهُ أَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيُحَدِّثُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْنَا أَشَدَّ تَحْمِيدًا وَتَمَجِيدًا وَذِكْرًا فَيَقُولُ فَأَيِّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ فَيَقُولُونَ يَطْلُبُونَ الْحَبَّةَ فَيَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا قَالَ فَيَقُولُ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّدُونَ فَيَقُولُونَ مِنَ النَّارِ فَيَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَا قَالَ فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا هَرْبًا وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا قَالَ فَيَقُولُ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَيُّ قَدْ عَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ فَيَقُولُونَ فَإِنَّ فِيهِمْ فَلَانَا الْخَطَاءَ لَمْ يَرُدَّهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ⁴⁴⁷ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, al-A'masy menceritakan kepada kami, dari Abu Salih, dari Abu Hurayrah atau Abu Sa'id, dia ragu yakni al-A'masy, Rasulullah saw. bersabda: "sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang mulia yang bertebaran di muka bumi, Ketika mereka menjumpai suatu kaum yang sedang berzikir, mereka pun saling memanggil: "kemarilah kepada kebutuhan yang kalian cari-cari". Lalu mereka (para malaikat) berdatangan dan mengelilingi mereka hingga langit dunia. Allah bertanya: "dalam keadaan apa kalian meninggalkan hamba-Ku?." Mereka (para malaikat) menjawab: "kami meninggalkan mereka dalam keadaan memuji-Mu, mengagungkan-Mu serta berzikir kepada-Mu." Kemudian Allah bertanya: "apakah mereka melihat-Ku." Mereka (para malaikat) menjawab: "seandainya mereka melihat-Mu, pasti mereka lebih keras lagi memuji-Mu, lebih semangat lagi dalam mengagungkan-Mu serta lebih banyak berzikir kepada-Mu." Allah pun bertanya lagi, "apakah yang mereka minta kepada-Ku?." Mereka (para malaikat) menjawab: "mereka minta surga kepada-Mu." Allah bertanya lagi, "Apakah mereka pernah

⁴⁴⁷ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Hanbal* Jilid II (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 251-252.

melihatnya.” mereka (para malaikat) menjawab: “tidak.” Allah bertanya lagi, “bagaimana seandainya mereka melihatnya?.” Mereka (para malaikat) menjawab: “seandainya mereka melihatnya, pastilah mereka lebih keras keinginan terhadapnya, lebih bersungguh-sungguh berusaha mendapatkannya dan lebih besar lagi semangat terhadapnya.” Allah bertanya lagi: “mereka berlindung dari apa?.” Mereka (para malaikat) menjawab: “mereka berlindung dari neraka.” Allah pun bertanya lagi: “apakah mereka pernah melihatnya?.” Mereka (para malaikat) menjawab: “tidak.”, mereka belum pernah melihatnya.” Allah bertanya: “bagaimana seandainya mereka melihat neraka-Ku?.” Mereka (para malaikat) menjawab: “mereka pasti sangat cepat lari darinya, sangat ketakutan darinya, serta sangat besar permintaan perlindungan darinya.” Lalu berfirman: “sesungguhnya Aku mempersaksikan kepada kalian bahwa sungguh Aku telah mengampuni mereka.” Kemudian mereka (para malaikat) bertanya: “di dalamnya terdapat seorang hamba yang melakukan kesalahan, sesungguhnya dia tidak menginginkan mereka melainkan dia mendatangi mereka karena mempunyai keinginan tertentu.” Lalu Allah menjawab: “sungguh Aku telah mengampuni mereka, mereka adalah kaum yang pahala (ganjaran) nya tidak bisa dihalangi oleh orang duduk bersama mereka.” HR. Ahmad bin Hanbal

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَرْزَ وَجَلٍّ مَلَائِكَةٌ فَضُلًا يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ الذِّكْرِ فَإِذَا مَرُّوا بِمَجْلِسٍ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَبْلُغُوا الْعَرْشَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَرْزٌ وَجَلٌّ لَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ مِنْ عِنْدِ عِبِيدٍ لَكَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ وَيَتَعَوَّدُونَ بِكَ مِنَ النَّارِ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ فَيَقُولُ يَسْأَلُونِي جَنَّتِي هَلْ رَأَوْهَا فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا وَيَتَعَوَّدُونَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا فَإِنِّي قَدْ عَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّ فِيهِمْ عَبْدًا خَطَاءً فَلَانَا مَرٌّ بِهِمْ لِحَاجَةٍ لَهُ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُ عَرْزٌ وَجَلٌّ أَوْلَانِكَ الْجُؤَسَاءُ لَا يَسْتَقِي بِهِمْ جَلِيسُهُمْ⁴⁴⁸ رواه احمد بن حنبل

⁴⁴⁸ *Ibid.*, h. 358.

Terjemahnya:

Yahya bin Abu Bukayr menceritakan kepada kami, Zuhayr bin Muḥammad menceritakan kepada kami, dari Suhayl bin Abu Salih, dari bapaknya, dari Abu Hurayrah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla memiliki malaikat yang mulia, mereka mengikuti majelis-majelis zikir, mereka berkumpul tatkala mereka berzikir. Apabila mereka melewati majelis yang di dalamnya ada zikir, maka mereka menjadi tinggi hingga ke arasy. Kemudian Allah ‘azza wa jalla bertanya: “dari mana kalian datang?.” Mereka menjawab: “ kami datang dari hamba-Mu, mereka minta surga kepada-Mu, mereka minta dijauhkan dari neraka-Mu serta minta ampun dari-Mu.” Lalu Allah berfirman: “mereka meminta surga dari-Ku, apakah mereka melihatnya?, bagaimana kalau mereka melihatnya?. Mereka minta perlindungan dari api neraka, bagaimana kalau mereka melihatnya?.” sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka.” Mereka (para malaikat) berkata: “wahai Tuhan kami! sesungguhnya di dalamnya terdapat seorang hamba yang melakukan kesalahan melewati para ahli zikir karena mempunyai keinginan dengan mereka, lalu mereka duduk bersama mereka.” Allah berfirman: “mereka adalah kaum yang pahala (ganjaran) nya tidak bisa dihalangi oleh orang duduk bersama mereka.”HR. Ahmad bin Hanbal

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فَضُلًّا يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ وَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ فَحَضَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَزَجُوا أَوْ صَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ لَكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتْكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا لَا أَيْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ قَدْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ مِمَّ يَسْتَجِيرُونِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لَا قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجْرَتْهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ

مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ⁴⁴⁹ رواه
احمد بن حنبل

Terjemahnya:

‘Affan menceritakan kepada kami, Wuhayb menceritakan kepada kami, Suhayl menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Hurayrah, dari Nabi saw., ia bersabda: “sesungguhnya Allah *‘azza wa jalla* memiliki malaikat yang mulia yang mengikuti majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapati majelis yang di dalamnya ada zikir, maka mereka duduk bersama dengannya dan mereka mendekapnya dengan sayapnya hingga mereka memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Apabila para malaikat berpisah maka mereka naik ke langit, dan mereka ditanya oleh Allah: “dari mana kalian datang?.” Mereka menjawab: “kami datang dari hamba-Mu di bumi, mereka bertasbih kepada-Mu, bertakbir kepada-Mu, bertahmid kepada-Mu dan bertahlil kepada-Mu, serta meminta kepada-Mu.” Allah berfirman: “apa yang mereka minta kepada-Ku?.” mereka (para malaikat) menjawab: “ mereka minta surga kepada-Mu.” Allah bertanya: “apakah mereka pernah melihat surga-Ku?.” mereka (para malaikat) menjawab: “tidak, ya *Rab*.” Allah bertanya lagi, “bagaimana seandainya mereka melihat surga-Ku?.” mereka (para malaikat) menjawab: “mereka berkata serta minta supaya dijauhkan.” Allah bertanya: “dari apa mereka dijauhkan?.” Mereka (para malaikat) menjawab: “dari api neraka-Mu ya *Rab*.” Allah bertanya: “Apakah mereka melihat neraka-Ku?.” Mereka menjawab: “tidak.” Allah bertanya: “bagaimana seandainya mereka melihat neraka-Ku?.” Mereka (para malaikat) menjawab: “mereka berkata serta meminta ampun kepada-Mu.” Lalu Allah berfirman: “sungguh Aku telah mengampuni mereka, maka Aku memberikan apa yang mereka minta serta menjauhkan mereka dari apa yang mereka minta.” Kemudian para malaikat bertanya: “ya *Rab*! di dalamnya terdapat seorang hamba yang melakukan kesalahan, sesungguhnya dia lewat kemudian duduk bersama dengan orang-orang yang sedang berzikir.” Lalu Allah menjawab: “sungguh Aku telah mengampuni mereka, mereka adalah kaum yang pahala (ganjaran) nya tidak bisa dihalangi oleh orang duduk bersama mereka.”HR. Ahmad bin Hanbal

4.Hadis tentang Memakai istilah “halaqah di Masjid”

⁴⁴⁹ *Ibid.*, h. 252, 382.

1. Riwayat Muslim

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجَلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجَلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللَّهُ مَا أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ⁴⁵⁰ رواه مسلم

Terjemahnya:

Abu Bakr bin Abu Syaybah menceritakan kepada kami, Marh-m bin ‘Abd al-‘Aziz menceritakan kepada kami, dari Abu Nu’amah al-Sa’diy, dari Abu ‘Usman, dari Abu Sa’id al-Khudriy, ia berkata: Muawiyah keluar menjumpai suatu halaqah di mesjid, lalu ia bertanya: apakah yang membuat kalian duduk di sini? Mereka menjawab: “kami duduk di sini untuk berzikir kepada Allah.” Rasulullah saw. bertanya: “demi Allah, betulkah kalian tidak duduk di sini melainkan karena niat seperti itu? Mereka menjawab: “demi Allah, kami tidak duduk di sini melainkan karena berzikir kepada Allah dan memuji-Nya atas hidayah Islam yang diberikan kepada kami, serta menganugerahkan Islam kepada kami.” Beliau pun bersabda: “ketahuilah, sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena suatu perasangka terhadap kalian, akan tetapi karena malaikat Jibril datang padaku dan memberitahukan bahwa Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung membangga-banggakan kalian terhadap para malaikat.”HR. Muslim.

2. Riwayat Tirmizi

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ

⁴⁵⁰ Muslim, *op. cit.*, h. 2078.

مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا يُجْلِسُكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا يُجْلِسُكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ لِمَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِهِ فَقَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ لِهَيْبَةٍ لَكُمْ إِنَّهُ أَنَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ⁴⁵¹

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Marham bin ‘Abd al-‘Aziz al-‘Attar menceritakan kepada kami, Abu Nu‘amah menceritakan kepada kami, dari Abu ‘Usman al-Nahdiy, dari Abu Sa’id al-Khudriy, ia berkata: “Mu’awiyah keluar menuju ke mesjid, lalu ia bertanya: “apakah yang membuat kalian duduk di sini?” Mereka menjawab: “kami duduk untuk berzikir kepada Allah.” Beliau bertanya kembali: “demi Allah, betulkah kalian tidak duduk di sini melainkan karena niat seperti itu? Mereka menjawab: “demi Allah, kami tidak duduk di sini melainkan karena berzikir kepada Allah dan memuji-Nya atas hidayah Islam yang diberikan kepada kami, serta menganugerahkan Islam kepada kami.” Beliau pun bersabda: “ketahuilah, sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena suatu perasangka terhadap kalian, akan tetapi karena malaikat Jibril datang padaku dan memberitahukan bahwa Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung membangga-banggakan kalian terhadap para malaikat.”

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ

⁴⁵¹ al-Turmuzi, kitab al-da'awat bab ma jaa fi al-qaum yajlisun fa yazkurun Allah 'azza wa jalla ma lahum min fadhli, h. 429-430.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيَّ حَلْقَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجَلَسُكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجَلَسُكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ نَهْمَةً لَكُمْ وَإِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ⁴⁵²

Terjemahnya:

‘Aliy bin Bahr menceritakan kepada kami, ia berkata, Marh-m bin ‘Abd al-‘Aziz menceritakan kepada saya, ia berkata, Abu Nu’amah al-Sa’diy menceritakan kepada saya, dari Abu ‘Usman al-Nahdiy, dari Abu Sa’id al-Khudriy, ia berkata: “Mu’awiyah keluar menjumpai suatu halaqah di mesjid, lalu ia bertanya: apakah yang membuat kalian duduk di sini? Mereka menjawab: kami berzikir kepada Allah dan memuji-Nya atas hidayah Islam yang diberikan kepada kami, serta menganugerahkan Islam kepada kami. Rasulullah saw. bertanya: “demi Allah, betulkah kalian tidak duduk di sini melainkan karena niat seperti itu? Mereka menjawab: demi Allah, kami tidak duduk di sini melainkan karena niat seperti itu. Beliau pun bersabda: ketahuilah, sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena suatu perasangka terhadap kalian dan tak seorang pun di rumahku yang lebih sedikit bicaranya dari Rasulullah saw. dan sesungguhnya Rasulullah saw. keluar menjumpai suatu halaqah dari sahabat, lalu beliau bertanya: apakah yang membuat kalian duduk di sini? Mereka menjawab: kami berzikir kepada Allah dan memuji-Nya atas hidayah Islam yang diberikan kepada kami, serta menganugerahkan Islam kepada kami. Rasulullah saw. bertanya: “demi Allah, betulkah kalian tidak duduk di sini melainkan karena niat seperti itu? Mereka menjawab: “demi Allah, kami tidak duduk di sini melainkan karena niat seperti itu. Beliau pun bersabda: “ketahuilah, sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena suatu perasangka terhadap kalian dan tak seorang pun di rumahku yang lebih sedikit bicaranya dari Rasulullah saw. dan sesungguhnya Rasulullah saw. Keluar menjumpai suatu halaqah dari sahabat, lalu beliau bertanya: akan tetapi karena malaikat Jibril datang padaku dan memberitahukan bahwa Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung membanggakan kalian terhadap para malaikat.”

⁴⁵² Ahmad bin Hanbal, *op. cit.* Jilid IV, h. 92.

5. Hadis tentang Memakai Istilah “Kaum’ yang berzikir

1. Riwayat Muslim

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْرَبِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.⁴⁵³ رواه مسلم

Terjemahnya:

Muhammad bin al-Musanna’ dan Ibnu Basysyar, keduanya berkata, Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, saya mendengar Abu Ishaq bercerita, dari al-Agar Abu Muslim, sesungguhnya ia berkata: saya bersaksi bahwa Abu Hurayrah dan Abu Sa’id al-Khudriy melihat Nabi saw., sesungguhnya beliau bersabda: “tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada Allah ‘azza wa jalla melainkan mereka dinaungi para malaikat, dipenuhi rahmat Allah dan diberikan ketenangan kepada mereka, juga Allah menyebutkan nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya.”

2. Riwayat al-Tirmizi

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَعْرَبِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.⁴⁵⁴ رواه الترميذي

⁴⁵³ Muslim, *op. cit.*, h. 2074.

⁴⁵⁴ Muhammad bin Isa bin Sarwah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.th.) h. 767.

Terjemahnya:

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ‘Abd al-Rahman bin Mahdiy menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari al-Agar Abu Muslim, sesungguhnya ia berkata: saya bersaksi bahwa Abu Hurayrah dan Abu Sa’id al-Khudriy melihat Nabi saw., sesungguhnya beliau bersabda: “tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada Allah ‘azza wa jalla melainkan mereka dinaungi para malaikat, dipenuhi rahmat Allah dan diberikan ketenangan kepada mereka, juga Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para Malaikat yang ada di sisi-Nya.”

3. Riwayat Ibnu Majah 3781

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْرَجِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ يَشْهَدَانِ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam dari Ammar bin Ruzaiq dari Abu Ishaq, dari al-Agar Abu Muslim dari Abi Haurairah dan Abu Sa’id, keduanya menyaksikan Nabi saw., bersabda: Setiap ada sekelompok duduk dalam suatu majelis yang berzikir kepada Allah, niscaya mereka dikepong oleh para malaikat dan dipenuhi oleh rahmat dan diturunkan kepada mereka ketenangan dan Allah akan mengingat mereka kepada para malaikat yang berada disisinya. HR, Ibn Majah.

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْرَجِ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَيْهِمَا مَا قَعَدَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ⁴⁵⁵

Terjemahnya:

⁴⁵⁵ Ahmad bin Hanbal, *op. cit.*, h. 447.

Waki' menceritakan kepada kami, Israil berkata, dari Abu Ishaq, dari al-Agar Abu Muslim, ia berkata: saya menyaksikan bahwa Abu Hurayrah dan Abu Sa'id al-Khudriy memperlihatkan Nabi saw. kepada saya dan sayapun menyaksikan keduanya, sesungguhnya beliau bersabda: "tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada Allah melainkan mereka dinaungi para Malaikat, dipenuhi rahmat Allah dan diberikan ketenangan kepada mereka, juga Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi-Nya."

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْرَبِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ -
أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَيْهِمَا مَا قَعَدَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
تَعَالَى إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ⁴⁵⁶

Terjemahnya:

Waki' menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari al-Agar Abu Muslim, ia berkata: saya menyaksikan Abu Sa'id dan Abu Hurayrah, sesungguhnya keduanya melihat Nabi saw. bersabda, dan sayapun menyaksikan keduanya. Beliau bersabda: "tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada Allah melainkan mereka dinaungi para Malaikat, dipenuhi rahmat Allah dan diberikan ketenangan kepada mereka, juga Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para Malaikat yang ada di sisi-Nya."

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْرَبِيِّ
أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا
حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ⁴⁵⁷

Terjemahnya:

'Abd al-Rahman menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dan Sufyan, dari Abu Ishaq, dari al-Agar Abu Muslim, ia berkata: saya

⁴⁵⁶ *Ibid.*, Jilid III, h. 33.

⁴⁵⁷ *Ibid.*, h. 49.

menyaksikan Abu Hurayrah dan Abu Sa'id, sesungguhnya keduanya melihat Nabi saw. bersabda: "tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada Allah melainkan mereka dinaungi para Malaikat, dipenuhi rahmat Allah dan diberikan ketenangan kepada mereka, juga Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para Malaikat yang ada di sisi-Nya."

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْرَبِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ⁴⁵⁸

Terjemahnya:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata, saya mendengar Abu Ishaq bercerita, dari al-Agar Abu Muslim, ia berkata: saya menyaksikan Abu Hurayrah dan Abu Sa'id, sesungguhnya keduanya melihat Nabi saw. bersabda: Tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada Allah melainkan mereka dinaungi para malaikat, dipenuhi rahmat Allah dan diberikan ketenangan kepada mereka, juga Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi-Nya."

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْرَبِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَعَسَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَجْرُ نَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ فَنَادَى هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ يَتُوبُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ إِلَى الْفَجْرِ⁴⁵⁹

Terjemahnya:

'Abd al-Razzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menyampaikan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari al-Agar Abu

⁴⁵⁸ *Ibid.*, h. 92.

⁴⁵⁹ *Ibid.*, h. 94.

Muslim, ia berkata: saya menyaksikan Abu Hurayrah dan Abu Sa'id al-Khudriy, dari Rasulullah saw. bersabda: “tidaklah berkumpul suatu kaum berzikir kepada Allah melainkan mereka dinaungi para Malaikat, dipenuhi rahmat Allah dan diberikan ketenangan kepada mereka, juga Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para Malaikat yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya Allah berlaku ramah hingga sepertiga malam terakhir, Allah ‘azza wa jalla turun ke langit, kemudian Dia memanggil: apakah ada orang yang berdosa lalu bertobat?, apakah ada orang yang meminta ampunan?, apakah ada orang yang berdoa?, dan apakah ada orang yang meminta hingga fajar?”

6, Hadis tentang Memakai Istilah “*Ganimah Majalis al-‘ikr.*”

1. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ أَبِي قَالَ حَسَنُ الْأَسَدِيُّ رَاشِدٌ أَبُو يَحْيَى الْمَعَاوِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غَنِيمَةٌ مَجَالِسِ الذِّكْرِ قَالَ غَنِيمَةٌ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ⁴⁶⁰ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Rasyid bin Yahya, bapakku berkata, Hasan al-Asyab berkata: “sesungguhnya Rasyid Abu Yahya al-Ma'afiry mendengar 'Abd al-Rahman al-Hubulyy, dari Ibnu 'Umar, ia berkata: “saya berkata, ya Rasulullah! Apakah ganjaran (balasan) dari majelis zikir? beliaupun menjawab: “ganjaran (balasan) majelis zikir adalah surga.”

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا حَسَنُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ يَحْيَى الْمَعَاوِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ

⁴⁶⁰ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-Mukassirin min al-ṣahabah, bab musnad Abdullah ibn Amr ibn Ash ra* , h. 190. nomor hadis 6477

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ قَالَ غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ
الْجَنَّةُ.⁴⁶¹ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Rasyid bin Yahya, bapakku berkata, Hasan al-Asyab berkata: “sesungguhnya Rasyid Abu Yahya al-Ma’afiry mendengar ‘Abd al-Rahman al-Hubuliy, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “saya berkata, ya Rasulullah! Apakah ganjaran (balasan) dari majelis zikir? beliaupun menjawab: “ganjaran (balasan) majelis zikir adalah surga.”HR. Ahmad ibn Hanbal

3. Riwayat al-Tabrani.

1293 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن أبي زكريا الإيادي ، ثنا موسى بن محمد السكوني ، ثنا محمد بن حمير ، عن خالد بن حميد ، عن زهرة بن معبد ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قلت : يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر ؟ قال : « الجنة ».⁴⁶² رواه الطبراني

Terjemahnya:

Ahmad ibn Abd Allah ibn Abu Zakariya al-Iyadi menceritakan kepada kami, M-sa ibn Muhammad al-Sak-ni menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Humair menceriterakan kepada kami, dari Khalid ibn Humaid, dari Zuhtrat ibn Ma`bad, dari Abu Abd Rahman al-Habali, dari Abd Allah ibn Amr berkata: “saya berkata, ya Rasulullah! Apakah ganjaran (balasan) dari majelis zikir? beliaupun menjawab: “ganjaran (balasan) majelis zikir adalah surga.”HR. al-Tabrani.

7.Hadis tentang Memakai Istilah “ *ahl al- Jam`i, ahl al-Kaaram dan ahl al-zikir fi al-Masajid.*”

1.Riwayat Ahmad bin Hanbal

⁴⁶¹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-Mukassirin min al-ḥababah, bab musnad Abdullah ibn Amr ibn Ash ra*, juz XIII, h. 402. nomor hadis 6364

⁴⁶² al-Tabrani, *Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, Kitab ma intaha ilaina min musnad Basyir ibn al- ibn Ala` ahi Abdullah, bab ma intaha ilaina min musnad Khalid ibn Dahqan*, juz IV, h. 304. nomor hadis 1293.

- حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ سَيُعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْكَرَمِ فَقِيلَ وَمَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَهْلُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ⁴⁶³

Terjemahnya:

Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Darraj menceritakan kepada kami, dari Abu al-Haiḥam, dari Abu Sa'id al-Khudriy, dari Rasulullah saw., sesungguhnya beliau bersabda: "Allah 'azza wa jalla berfirman: semua golongan akan diketahui pada hari ini, siapakah golongan yang paling mulia. Beliau ditanya: "siapakah golongan yang paling mulia itu? beliaupun menjawab: "golongan majelis-majelis zikir di mesjid."HR. Ahmad ibn Hanbal

2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ سَيُعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْكَرَمِ فَقِيلَ وَمَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَهْلُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ.⁴⁶⁴ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Dari Rasulullah saw., sesungguhnya beliau bersabda: "Allah 'azza wa jalla berfirman: semua golongan akan diketahui pada hari ini, siapakah golongan yang paling mulia. Beliau ditanya: "siapakah golongan yang paling mulia itu? beliaupun menjawab: "golongan majelis-majelis zikir di mesjid." HR. Ahmad ibn Hanbal.

3. Riwayat al-Baihaqi.

563 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المديني أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عيسى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ أنه قال : يقول الرب يوم القيامة :

⁴⁶³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad al-muksirin, bab musnad Abi Said al-Khudri*, juz XXIII, h. 76.

⁴⁶⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad al-muksirin, bab musnad Abi Said al-Khudri*, juz XXIII, h. 342. nomor hadis 11297.

سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم وقيل : من أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : مجالس الذكر في المساجد .⁴⁶⁵ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Madani memberitakan kepada kami, al-Hasan ibn Muhammad ibn Ishaq memberitakan kepada kami, Y-suf ibn Y`q-b menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn Isa menceriterakan kepada kami, Ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, Amr ibn al-Haris memberitakan kepadaku, dari Darraj, dari Abu al-Haiḥam, dari Abu Sa`id al-Khudriy, dari Rasulullah saw., sesungguhnya beliau bersabda: "Allah *'azza wa jalla* berfirman: semua golongan akan diketahui pada hari ini, siapakah golongan yang paling mulia. Beliau ditanya: "siapakah golongan yang paling mulia itu? beliaupun menjawab: "golongan majelis-majelis zikir di mesjid."HR. al-Baihaqi

4. Riwayat Abi Ya`la.

1010 - حدثنا أحمد بن عيسى ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا عمرو ، عن أبي السمح ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : « يقول الرب يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم » ، فقيل : من أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : « مجالس الذكر في المساجد » .⁴⁶⁶ رواه أبي يعلى

Terjemahnya:

Ahmad ibn Isa menceritakan kepada kami, Ibn Wahhab menceritakan kepada kami, Amr menceriterakan kepada kami, dari Abu Isa, dari Abu al-Haiḥam, dari Abu Sa`id al-Khudriy, dari Rasulullah saw., sesungguhnya beliau bersabda: "Allah *'azza wa jalla* berfirman: semua golongan akan diketahui pada hari ini, siapakah golongan yang paling mulia. Beliau ditanya: "siapakah golongan yang paling mulia itu? beliaupun menjawab: "golongan majelis-majelis zikir di mesjid."HR. Abu Ya`la.

5. Riwayat Abu Ya`la.

⁴⁶⁵ al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab Faslu idamati zikrullah azza wajalla, bab min ahl al-Karam ya Rasulullah, juz II, h. 105. nomor hadis 563.

⁴⁶⁶ Abi Ya`la. *Musnad Abi Ya`la al-Mausuli*, Kitab min musnad Abi Said al-Khudri, bab saya`lamu ahl al-jam`i al-yaum min ahl al-karam faqila, juz III, h. 54. nomor hadis 1010.

وعن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ﷺ قال : « يقول الرب يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم ، فقيل : ومن أهل الكرم ؟ قال : أهل الذكر في المساجد.⁴⁶⁷ رواه أبي يعلى

Terjemahnya:

Dari Abu Sa'id al-Khudriy, dari Rasulullah saw., sesungguhnya beliau bersabda: "Allah 'azza wa jalla berfirman: semua golongan akan diketahui pada hari ini, siapakah golongan yang paling mulia. Beliau ditanya: "siapakah golongan yang paling mulia itu? beliaupun menjawab: "golongan majelis-majelis zikir di mesjid." HR. Abu Ya'la.

6. Riwayat Ibn Hibban.

817 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال : حدثنا أبو طاهر ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله ﷺ ، قال : « يقول الله جل وعلا : سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم » ، فقيل : من أهل الكرم يا رسول الله ؟ ، قال : « أهل مجالس الذكر في المساجد »⁴⁶⁸. رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Umar ibn Muhammad al-Hamdani memberitakan kepada kami, berkata: Abu Tahir menceritakan kepada kami, berkata: Ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, berkata: Amr ibn al-Haris memberitakan kepadaku, dari Darraj Abu Isa, dari Abu al-Haiḥam, dari Abu Sa'id al-Khudriy, dari Rasulullah saw., sesungguhnya beliau bersabda: "Allah 'azza wa jalla berfirman: semua golongan akan diketahui pada hari ini, siapakah golongan yang paling mulia. Beliau ditanya: "siapakah golongan yang paling mulia itu? beliaupun menjawab: "golongan majelis-majelis zikir di mesjid."HR. Ibn Hibban.

8. Hadis tentang Memakai Istilah "Kebun-kebun Syurga : Halaqah al-Zikr"

⁴⁶⁷ Abi Ya'la. *Musnad Abi Ya'la al-Mausuli, Kitab min musnad Abi Said al-Khudri, bab saya`lamu ahl al-jam'i al-yaum min ahl al-karam faqila, juz III, h. 417.* nomor hadis 1373.

⁴⁶⁸ Ibn Hibban. *Sahih Ibn Hibban, Kitab al-riqaq, bab al-azkar, juz IV, h. 124.* nomor hadis 817

1. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَنَّ حُمَيْدًا الْمَكِّيَّ مَوْلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قُلْتُ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.⁴⁶⁹
رواه الترميذي

Terjemahnya:

‘Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muḥammad memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau menjawab: “halaqah-halaqah zikir.”. HR. al-Turmuzi.

2. Riwayat al-Turmuzi.

3432 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْبُنَائِي حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِطُّ الذِّكْرِ.⁴⁷⁰
رواه الترميذي

Terjemahnya:

‘Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muḥammad memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau menjawab: “halaqah-halaqah zikir.”. HR. al-Turmuzi.

3. Riwayat Aḥmad bin Hanbal

⁴⁶⁹ al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat, bab ma ja`a fi aqdi al-tasbih bi al-yadi*, juz XI, h. 414. nomor hadis 3431

⁴⁷⁰ al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat, bab ma ja`a fi aqdi al-tasbih bi al-yadi* juz XI, h. 415. nomor hadis 3432.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حَلَقُ الذُّكْرِ⁴⁷¹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

‘Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muḥammad memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau menjawab: “halaqah-halaqah zikir.”. HR. Ahmad bin Hanbal.

4. Riwayat al-Baihaqi.

أخبرنا أبو سعد سعيد بن محمد الشعبي ، أخبرنا أبو الحسن علي بن هارون السمسار الحربي ببغداد ، حدثنا موسى بن هارون الحمالي ، حدثنا عبد الله بن عون الخراز ، حدثنا أبو عبيدة الحداد ، حدثنا محمد بن ثابت قال : سمعت أبي يذكر ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » . قالوا : يا رسول الله ، وما رياض الجنة ؟ قال : « حلق الذكر » .⁴⁷² رواه البيهقي

Terjemahnya:

‘Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muḥammad memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau menjawab: “halaqah-halaqah zikir.”. HR. al-Baihaqi.

5. Riwayat Abu Ya`la.

⁴⁷¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Kitab baqi musnad al-muksirin, bab musnad Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Jilid III., h. 150.

⁴⁷² al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman*, Kitab faslu fi idamati zikrullahi azza wajalla, bab iza marartum bi riyadi al-jannah farta- qal- : ya, juz II, h. 99. nomor hadis 557.

حدثنا إسحاق ، والقواريري ، قالاً : حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا عمر بن عبد الله ، مولى غفرة قال : سمعت أيوب بن خالد بن صفوان ، يذكر ، عن جابر ، قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا أيها الناس إن الله سرايا (1) من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض ، فارتعوا (2) في رياض الجنة » قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : « مجالس الذكر ، فاغدوا وروحوا في ذكر الله ، واذكروه بأنفسكم ، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه .⁴⁷³ رواه أبي يعلي

Terjemahnya:

‘Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muḥammad memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau menjawab: “halaqah-halaqah zikir.”. HR. Abu Ya`la.

6. Riwayat Abu Ya`la.

حدثنا عبد الله بن عون الخراز ، حدثنا أبو عبيدة الحداد ، حدثنا محمد بن ثابت البناني ، عن أبيه ، عن أنس بن مالك ، قال رسول الله ﷺ : « إذا مررت برياض الجنة فارتعوا » . قيل : يا رسول الله ، وما رياض الجنة ؟ قال : « حلق الذكر⁴⁷⁴ » رواه أبي يعلي

Terjemahnya:

‘Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muḥammad memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau menjawab: “halaqah-halaqah zikir.”. HR.. Abu Ya`la.

9. Hadis-Hadis Tentang zikir Sir

⁴⁷³ Abi Ya`la, *Musnad Abi Ya`la al-Ma- suli, Kitab musnad Jabir, bab siraya min al-malaikah tahalla wa taqfu*, juz V, h. 192. nomor hadis 2084.

⁴⁷⁴ Abi Ya`la, *Musnad Abi Ya`la al-Ma- suli, Kitab Sabit al-Banani an Anas, Bab iza marartum biriyadi al-jannah farta- qila: ya*, juz VII, h. 452. nomor hadis 3338.

1. Riwayat al-Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ.⁴⁷⁵ رواه البخاري

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,...maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat. (HR. al-Bukhari)

2. Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبِيرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْفٌ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَاكَ أَبِي وَآمِي قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.⁴⁷⁶ رواه البخاري

Terjemahnya:

⁴⁷⁵ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari. Kitab al-Jihad wa al-sair, bab ma yakrahu man rafa al-saut fi al-takbir, nomor hadis, 2770.*

⁴⁷⁶ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari. Kitab al-Magazi, bab Gazwat Khaibar. nomor hadis 3883*

M-sa bin Inmail menceritakan kepada kami, Abd al Wahid menceritakan kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,....maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat dan dia bersamamu dan aku dibelakang Rasulullah saw., maka aku mendengar dan aku mengucapkan tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah, maka Rasulullah berkata kepadaku, ya Abd Allah bin Qais ucapakan, aku menjawab ya Rasulullah, maka beliau bersabda: Ketahuilah aku tunjukkan kepadamu kalimat simpanan atau tabungan syurga dibawah Arasy yaitu *la haula wala quwwata illa billah.* (tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah) (HR. al-Bukhari)

3. Riwayat al-Bukhari

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي
عُمَرَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا
وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا ثُمَّ أَتَى عَلِيٌّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَنْزٌ مِنْ
كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .⁴⁷⁷ رواه البخاري

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,....maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat. (HR. al-Bukhari)

4. Riwayat al-Bukhari

⁴⁷⁷ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari. Kitab al-Da`wat, bab al-du`a iza ala aqabat, nomor hadis 5905.*

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرْفًا وَلَا نَعْلُو شَرْفًا وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ⁴⁷⁸ رواه البخاري

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari ²shim, dari Abu Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,....maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat. (HR. al-Bukhari)

5.Riwayat al-Bukhari

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فُكْنَا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ ارْبَعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ثُمَّ أَتَى عَلِيًّا وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كُنُزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ بِهِ. ⁴⁷⁹ رواه البخاري

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari ²shim, dari Abu Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,....maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh.

⁴⁷⁸ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari. Kitab al-da'wat, bab qaulu la haula wa la quwwata illa bi Allah, nomor hadis 5930*

⁴⁷⁹ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari. Kitab al-tawhid, bab qaulu Allahu ta'ala wa kana Allahu samian basira. Nomo hadis 6838*

Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat. (HR. al-Bukhari)

6. Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ قَالَ وَأَنَا خَلْفُهُ وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنِ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.⁴⁸⁰ رواه مسلم

Terjemahnya:

Abu Bakr bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudail dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari ²shim, dari Abu Usman, dari Abu M-sa berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,...maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat. (HR. Muslim)

7. Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَسَدِيُّ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ قَالَ وَأَنَا خَلْفُهُ وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنِ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ

⁴⁸⁰ Muslim, *ṣaḥih Muslim, Kitāb al-ʿiqr wa al-Duʿa wa al-Taubat wa al-Istighfar, bab istiḥbab ḥafadh al-sa-t bi al-zikr*, nomor hadis, 4873.

بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . رواه مسلم⁴⁸¹ . رواه مسلم

Terjemahnya:

Abu Bakr bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudail dan Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa berkata: Kami bersama Ras-lullah saw., pada perjalanan, para sahabat mejaharkan takbir mereka. maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia sederhanakanlah (takbir) kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat. (HR. Muslim)

8. Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا النَّبِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَصْعَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلٌ كَلِمًا عَلَا ثَنِيَّةً نَادَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ لَا تَنَادُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا قَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ⁴⁸² . رواه مسلم

Terjemahnya:

Abu Bakr bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudail dan Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,....maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. (HR. Muslim)

9. Riwayat Muslim

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ

⁴⁸¹ Muslim, *ṣahih Muslim, Kitab al-ʿiqr wa al-Duʿa wa al-Taubat wa al-Istigfar, bab istiḥbab hafadh al-sa-t bi al-zikr*, nomor hadis 4873

⁴⁸² Muslim, *ṣahih Muslim, Kitab al-ʿiqr wa al-Duʿa wa al-Taubat wa al-Istigfar, bab istiḥbab hafadh al-sa-t bi al-zikr*, nomor hadis 4874

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَاصِمٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّقَّاشُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةٍ أَحَدِكُمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ⁴⁸³. رواه مسلم

Terjemahnya:

Abu Bakr bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudail dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari ²shim, dari Abu Usman, dari Abu M-sa berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,...maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh..... (HR. Muslim)

10. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو نِعَامَةَ السَّعْدِيُّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَكَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيرَةً وَرَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمٍّ وَلَا غَائِبٍ هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُءُوسِ رِحَالِكُمْ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَعْلَمُكَ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ⁴⁸⁴. رواه الترمذي

Terjemahnya:

Muhammad ibn Basysyar menceritakan kepada kami, Marh-m ibn Abd Aziz al-Aththar menceritakan kepada kami, Abu Na'amah al-Sa'di menceritakan kepada kami, dari Abu Usman al-Nahdi, dari Abu M-sa al-Asy'ari berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,...maka Nabi saw., bersabada:(HR. Al-Turmuzi)

11. Riwayat Ahmad bin Hanbal

⁴⁸³ Muslim, *ṣahih Muslim, Kitab al-ʿiqr wa al-Duʿa wa al-Taubat wa al-Istighfar, bab istiḥbab ḥafadh al-sa-t bi al-zikr*, nomor hadis 4874

⁴⁸⁴ al-Turmuzi, *Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Daʿwat ʿan Ras-lillah, bab ma jaʿa fi fadh al-tasbih, wa al-takbir, wa al-tahlil wa al-tahmid* nomor hadis, 3383

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ يَحْيَى الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ فَذَكَرَ مِنْ هَوْلِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ وَيُهْلِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ.⁴⁸⁵ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Waki` menceriterakan kepada kami, dari Sufyan, dari 2shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,....maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian,..... (HR. Ahmad bin Hanbal)

12. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّخَعِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرْفًا وَلَا نَعْلُو شَرْفًا وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَذَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبَ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ قَيْسٍ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَةً مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.⁴⁸⁶ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd Wahhab bin Abdi al-Majid al-Saqafi Abu Muhammad menceriterakan kepada kami, Khalid al-Hadda` menceriterakan kepada kami, dari Abu Usman al-Nahdiyyi, dari Abu M-sa al-Asyari berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,....maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat. (HR. Ahmad bin Hanbal)

13. Riwayat Ahmad bin Hanbal

⁴⁸⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab Awwal musnad al-K-fiyin, bab hadis Abi Musa al-Asy`ariq*, nomor hadis 18699.

⁴⁸⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab Awwal musnad al-K-fiyin, bab hadis Abi Musa al-Asy`ariq*, nomor hadis 18774.

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ تَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَ فَأَهْبَطْنَا وَهَدَّةً مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَرَفَعَ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ازْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا قَالَ ثُمَّ دَعَانِي وَكُنْتُ مِنْهُ قَرِيبًا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.⁴⁸⁷ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, ²shim menceritakan kepada kami, dari Abu Usman, al-Nahdiyyi dari Abu M-sa al-Asyari berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,....maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh..... (HR. Ahmad bin Hanbal)

14.Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَعَلِيِّ بْنِ رَيْدٍ وَسَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَسْعَرِيَّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ كَبَّرَ النَّاسُ وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْنَاقِكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا مُوسَى أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.⁴⁸⁸ رواه أبو داود

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari ²shim, dari Abu Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,....maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh.

⁴⁸⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab Awwal musnad al-K-fiyin, bab hadis Abi Musa al-Asy`ariq*, nomor hadis 18910

⁴⁸⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, kitab al-salat, bab fi al-tigfar*, nomor 1305

Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat. Pundak tungganganmu(HR. al-Bukhari)

15. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَتَصَعَّدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ فَجَعَلَ رَجُلٌ كَلَّمَ عَلَا الثَّنِيَّةَ نَادَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ لَا تَنَادُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.⁴⁸⁹ رواه أبو داود

Terjemahnya:

Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai` menceritakan kepada kami, Sulaiman al-Taimi, dari Abu Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,....maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat. HR. Abu Dawud)

16. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبٌ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْزِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ.⁴⁹⁰ رواه أبو داود

Terjemahnya:

Abu Salih Mahb-b bin M-sa menceritakan kepada kami, Abu Ishaq al-Fazari menceritakan kepada kami, dari 2shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian.(HR. Abu Dawud)

17. Riwayat Abu Dawud

⁴⁸⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, kitab al-salat, bab fi al-tigfar*, nomor 1305

⁴⁹⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, kitab al-salat, bab fi al-tigfar*, nomor 1305

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِيَّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ كَبَّرَ النَّاسُ وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْنَاقِكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا مُوسَى أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ⁴⁹¹. رواه أبو داود

Terjemahnya:

Abu Salih Mahb-b bin M-sa menceritakan kepada kami, Abu Ishaq al-Fazari menceritakan kepada kami, dari²shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian.(HR. Abu Dawud).

Hadis Kedua: *zikir sir*.

1. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

1397 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي.⁴⁹² رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, Usamah ibn^aaid menceritakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-Rahman bin Abu LABubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sebaik-baik ©ikir adalah sir, dan sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR Ahmad ibn Hanbal.

2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

⁴⁹¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, kitab al-salat, bab fi al-tigfar*, nomor 1305

⁴⁹² Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab musnad al-Asyarah al-mubasysyiruna bi al-jannah, bab musnad Abi Ishaq Sa`ad bin Abi Waqqas, juz III, h. 407. nomor hadis 1397.*

1477 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي.⁴⁹³ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, Usamah ibn `aid menceritakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sebaik-baik ©ikir adalah sir, dan sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR Ahmad ibn Hanbal.

3. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

1537 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيْبَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي.⁴⁹⁴ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, Usamah ibn `aid menceritakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sebaik-baik ©ikir adalah sir, dan sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR Ahmad ibn Hanbal.

4. Riwayat Ibn Abu Syaibah.

حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن أبي لبيبة عن سعد قال : قال رسول الله ﷺ : خير الذكر الخفي ".⁴⁹⁵ ابن ابي شيبه

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, Usamah ibn `aid menceritakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata:

⁴⁹³ Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab kitab *musnad al-Asyarah al-mubasysyiruna bi al-jannah*, bab *musnad Abi Ishaq Sa`ad bin Abi Waqqas*, juz III, h. 487. nomor hadis 1477.

⁴⁹⁴ Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab kitab *musnad al-Asyarah al-mubasysyiruna bi al-jannah*, bab *musnad Abi Ishaq Sa`ad bin Abi Waqqas*, juz IV, h. 47. nomor hadis 1537

⁴⁹⁵ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf ibn Abi Syaibah*, juz VII, h. 107. nomor hadis 1

Rasulullah saw., bersabda: Sebaik-baik ©ikir adalah sir, dan sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR Ibn Abu Syaibah.

5. Riwayat al-Baihaqi.

578 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا علي بن عاصم ، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ﷺ : قال الله تعالى : « عبي إذا ذكرتني خاليا ، ذكرتك خاليا ، وإن ذكرتني في مأ ذكرتك في مأ خير منهم ، وأكبر » قال : ومنها الذكر الخفي وهو ضربان ، أحدهما الذكر في النفس ، وقد قال الله عز وجل : (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة (1)) والآخر ما دار به اللسان ولم يسمعه إلا صاحبه قال النبي ﷺ « خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي ».⁴⁹⁶ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn `aid menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-Rahman bin Abu LABubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sebaik-baik ©ikir adalah sir, dan sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR al-Baihaqi.

6. Riwayat al-Baihaqi.

579 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن مكرم ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا أسامة بن زيد ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك ، أن رسول الله ﷺ قال : « خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي ».⁴⁹⁷ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn `aid menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-

⁴⁹⁶ al-Baihaqi. *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab idamati zikrullah azza wajalla, bab abdi iza zakarani haliyan, zakartuka haliyan wain zakartani*, juz II, h. 120. nomor 578

⁴⁹⁷ al-Baihaqi. *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab idamati zikrullah azza wajalla, bab kaheru al-zikri al-khafi, wa khaeru al-rizqi ma yakfi*, juz II, h. 121. nomor hadis 570.

Rahman bin Abu LABubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sebaik-baik ©ikir adalah sir, dan sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR al-Baihaqi.

7. Riwayat al-Baihaqi.

9982 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا أبو سعيد الحارثي ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا أسامة بن زيد ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن سعد بن مالك ، عن النبي ﷺ قال : « خير الذكر الخفي ، وخير الرزق ما يكفي »⁴⁹⁸. رواه البيهقي .

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, Usamah ibn `aid menceritakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-Rahman bin Abu LABubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sebaik-baik ©ikir adalah sir, dan sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR al-Baihaqi.

8. Riwayat Ibn Hibban.

810 - أخبرنا ابن قتيبة ، قال : حدثنا حرملة ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا أسامة بن زيد ، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة حدثه ، أن سعد بن أبي وقاص ، قال : سمعت النبي ﷺ ، يقول : « خير الذكر الخفي ، وخير الرزق ، أو العيش ، ما يكفي »⁴⁹⁹. رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, Usamah ibn `aid menceritakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-Rahman bin Abu LABubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sebaik-baik ©ikir adalah sir, dan sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR. Ibn Hibban.

9. Riwayat Abd ibn Humaid.

⁴⁹⁸ al-Baihaqi. *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab idamati zikrullah azza wajalla, bab fasl fima yaq-lu al-²tis fi al-jawab*, juz XXI, h. 303. nomor hadis 9982

⁴⁹⁹ Ibn Hibban. *©ahih Ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-azkar*, juz IV, h. 110. nomor hadis 810

139 - حدثنا عثمان بن عمر ، ثنا أسامة بن زيد ، عن ابن لبيبة ، عن سعد ، قال : قال رسول الله ﷺ : « خير الذكر الخفي ، وخير الرزق ما يكفي ».⁵⁰⁰ رواه عبد ابن حميد

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, Usamah ibn `aid menceritakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-Rahman bin Abu LABubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sebaik-baik ©ikir adalah sir, dan sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR. Abd bin Humaid

10. Riwayat al-Syihab al-Qada`i.

1126 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل ، ثنا أحمد بن محمد بن زياد ، ثنا أبو سعد الحارثي ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا أسامة بن زيد ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن سعد بن مالك ، عن النبي ﷺ أنه قال : « خير الذكر الخفي ، وخير الرزق ما يكفي ».⁵⁰¹ رواه الشهاب القضائي

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, Usamah ibn `aid menceritakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-Rahman bin Abu LABubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sebaik-baik ©ikir adalah sir, dan sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR. al-Syihab al-Qada`i.

10.Hadis-Hadis Tentang *zikir Jahr*

1. Riwayat al-Bukhari.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا مَعْبِدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ

⁵⁰⁰ Abd ibn Humaid. *Musnad Abd ibn Humaid, kitab musnad Sa`ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, bab khaeru al-zikri al-hafi, wa khaeru al-rizq ma yakfi*, juz I, h. 148. nomor hadis 139.

⁵⁰¹ al-Syihab al-Qada`i. *Musnad al-Syihab al-Qada`i, kitab khaeru al-zikri al-hafi, wa khaeru al-rizq ma yakfi, bab khaeru al-zikri al-hafi, wa khaeru al-rizq ma yakfi*, juz IV, h. 344. nomor hadis 1126.

مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا أَنْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.⁵⁰² رواه البخاري

Terjemahnya:

Ishaq bin Nashr menceritakan kepada kami, Abd al-Razzaq menceritakan kepada kami, Ibn Juraij memberitakan kepadaku Amr bin Dinar memberitakan kepada kami, sesungguhnya Aba Ma`bad maula Ibnu Abbas, ia mengabarkan bahwa Ibnu Abbas memberitahunya, menyaringkan suara saat berzikir setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi saw., selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatnya dan hendak meninggalkan mesjid. HR. al-Bukhari.

2. Riwayat Muslim.

919 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا أَنْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.⁵⁰³ رواه مسلم

Terjemahnya:

Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar memberitakan kepada kami, Ibn Juraij memberitakan kepada kami, dan Ishaq bin Mans-r menceritakan kepadaku, Abd al-Razzaq memberitakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Amr bin Dinar memberitakan kepadaku, sesungguhnya Aba Ma`bad maula Ibnu Abbas, ia mengabarkan bahwa Ibnu Abbas memberitahunya, menyaringkan suara saat berzikir setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi saw., selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Aku mengetahuinya dan

⁵⁰² al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari. Kitab al-Azan, bab al-zikr ba`da al-salat*, juz III, h. 345, nomor hadis 796.

⁵⁰³ Muslim, *ṣahih Muslim, kitab al-Masajid wa mawadhi` al-salat, babal-zikir ba`da al-salat*, juz III, h. 239, nomor hadis 919.

mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatya dan hendak meninggalkan mesjid. HR. Muslim.

3. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ،⁵⁰⁴ رواه ابو داود

Terjemahnya:

Yahya bin M-sa al-Balhi menceritakan kepada kami, Abd al-Razzaq menceritakan kepada kami, Ibn Juraij memberitakan kepadaku Amr bin Dinar memberitakan kepada kami, sesungguhnya Aba Ma`bad maula Ibnu Abbas, ia mengabarkan bahwa Ibnu Abbas memberitahunya, menyaringkan suara saat berzikir setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi saw., selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatya dan hendak meninggalkan mesjid. HR. Abu Dawud.

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.⁵⁰⁵ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Dari Ma`bad maula Ibnu Abbas, ia mengabarkan bahwa Ibnu Abbas memberitahunya, menyaringkan suara saat berzikir setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi saw., selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah

⁵⁰⁴ Ab- Dawud, *Sunan Ab- Dawud, Kitab al-salat, bab al-takbir ba`da al-salat*, nomor hadis 851

⁵⁰⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab wamin musnad bani Hasyim, bab Baqi al-musnad al-sabiq*, 3298

selesai dari shalatnya dan hendak meninggalkan mesjid.
HR.Ahmad bin Hanbal.

5. Riwayat Abd al-Razzaq.

3225 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة = كان على عهد (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.⁵⁰⁶ رواه عبد الرزاق

Terjemahnya:

Abd al-Razzaq, dari Ibn Juraij, Amr bin Dinar memberitakan kepadaku, sesungguhnya Aba Ma`bad maula Ibnu Abbas, ia mengabarkan bahwa Ibnu Abbas memberitahukannya, menyaringkan suara saat berzikir setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi saw., selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari shalatnya dan hendak meninggalkan mesjid. HR. Abd al-Razzaq.

6. Riwayat Abu Awanah.

1638 - حدثنا إسحاق الدبري قال : قرأنا على عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، أن ابن عباس أخبره « أن رفع الصوت بالتكبير حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ﷺ » وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته⁵⁰⁷ . رواه ابي عوانة

Terjemahnya:

Ishaq al-Dabari menceriterakan kepada kami, berakata; Abd al-Razzaq membacakan kepada kami, dari Ibn Juraij berkata; Amr bin Dinar memberitakan kepadaku, dari Aba Ma`bad sesungguhnya Ibnu Abbas, ia memberitahukannya, menyaringkan suara saat berzikir setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi saw.,

⁵⁰⁶ Abd al-Razzaq, *Musannaf Abd al-Razzaq*, kitab *Musannaf Abd al-Razzaq*, bab juz II, h. 245, nomor hadis 3225.

⁵⁰⁷ Abi Awanah, *Mustakhraj Abi Awanah*, kitab *bab fi al-salat baina al-azan wa iqamah fi salat al-magrib wa gairuhu*, bab *zikru al-Akhbar allati tubayyin qaul al-Nabi sallallahu alaihi wasallam*, juz IV, h. 396, nomor hadis 1638.

selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatunya dan hendak meninggalkan mesjid. HR. Abu Awanah.

7. Riwayat Ibn Khuzaimah.

1613 - نا الحسن بن مهدي ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، أن أبا معبد أخبره ، عن ابن عباس ، « أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف من المكتوبة كان على عهد رسول الله ﷺ » قال ابن عباس : فكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.⁵⁰⁸ رواه ابن خزيمة

Terjemahnya:

Al-Hasan bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abd al-Razzaq menceritakan kepada kami, Ibn Juraij memberitakan kepada kami, Amr bin Dinar memberitakan kepadaku, sesungguhnya Aba Ma`bad memberitahunya, dari Ibn Abbas sesungguhnya ia menyaringkan suara saat berzikir setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi saw., selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatunya dan hendak meninggalkan mesjid. HR. Ibn Khuzaimah.

IV. Hadis-Hadis Tentang Bilangan Zikir.

A. Hadis Tentang Bilangan Zikir La ilaha Illa Allah.

1. Hadis Tentang Zikir la ilaha illa Allah 100x

1. Riwayat Bukhari .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةٌ مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عَدَلٌ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُنِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا

⁵⁰⁸ Ibn Khuzaimah, *ṣahih Ibn Khuzaimah*, kitab al-Imamah fi al-salat wama fiha min al-sunan, bab jama` abwab salat al-nisa` fi al-jama`ah, juz VI, h. 292, nomor hadis 1613.

مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.⁵⁰⁹ رواه البخاري

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: "Barangsiapa mengucapkan 'laa il aha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syay-in qodiir' [tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu] dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya sama dengan sepuluh budak (yang dimerdekan, pen), dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya, serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu.".....HR. al-Bukhari.

2. Riwayat Bukhari .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةٌ مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عِدَّةٌ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.⁵¹⁰ رواه البخاري

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Maslamat menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma, dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari seratus kali (100 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir...* HR. al-Bukhari.

3. Riwayat Muslim.

⁵⁰⁹ Al-Bukhari, *©ahih al-Bukhari, kitab bad`u al-khalq bab sifat iblis wa jun-dhu* nomor hadis 3050

⁵¹⁰ Al-Bukhari, *©ahih al-Bukhari, kitab al-da`wat bab Fadl al-Tahlil*, nomor hadis 5924.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.⁵¹¹ رواه مسلم

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir setiap hari seratus kali (100 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir...* HR.Muslim.

4. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.⁵¹² رواه الترميذي

Terjemahnya:

Ishaq bin M-sa al-Ansari menceritakan kepada kami, Ma`nan menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Suma dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir setiap hari seratus kali (100 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah*

⁵¹¹ Muslim, *ṣahih Muslim, kitab al-zikr wa al-du`a wa taubah wa al-istigfar bab Fadl al-Tahlil wa al-Tasbih wa al-Du`a*, nomor hadis 4857.

⁵¹² Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat an Rasulilah bab ma ja`a fi fadl al-tasbih wa al-Takbir wa tahlil wa al-tahmid*, nomor hadis 3390

lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir... HR. al-Turmuzi

5.. Riwayat Malik .

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةٌ مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عَدْلٌ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَمُجِيتٌ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ جِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.⁵¹³ رواه مالك

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakn kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari seratus kali (100 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir*..HR. Malik.

6. Riwayat Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَخْبَرَنِي سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عَدْلٌ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَمُجِي عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَكُنَّ لَهُ جِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ سَائِرَ يَوْمِهِ إِلَى اللَّيْلِ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا أَتَى بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ أَكْثَرَ.⁵¹⁴ رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

⁵¹³ Malik ibn Anas, *Muwatta Malik, kitab al-nida` li al-salat bab ma ja`a fi ©ikr Allah tabaraka wa taala*, nomor hadis 437

⁵¹⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, kitab al-adab bab fadl la ilaha illa Allah*, nomor hadis 3788

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir setiap hari seratus kali (100 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir...* HR. Ahmad ibn Hanbal..

7. Riwayat Ahmad bin Hambal.

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَتِي مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ وَلَا يَدْرِكُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا بِأَفْضَلٍ مِنْ عَمَلِهِ.⁵¹⁵ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir setiap hari seratus kali (100 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir...* HR. Ahmad ibn Hanbal.

8. Riwayat Ahmad bin Hambal.

حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَتِي مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ وَلَا يَدْرِكُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا بِأَفْضَلٍ مِنْ عَمَلِهِ يَعْني إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِأَفْضَلٍ مِنْ عَمَلِهِ.⁵¹⁶ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

⁵¹⁵ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab *musnad al-muksirin min al-sahabah bab Musnad Amr ibn al-sh*, nomor hadis 6452

⁵¹⁶ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal kitab musnad al-muksirin min al-sahabah bab Musnad Amr ibn al-sh*, nomor hadis 6710.

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari seratus kali (100 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir...*HR. Ahmad ibn Hanbal.

9.. Riwayat Ahmad bin Hambal.

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ
 ۞ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
 الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ
 عَدَلٌ عَشْرَ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ
 لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ
 مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.⁵¹⁷ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Riwayat Ahmad bin Hanbal. Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berikir setiap hari seratus kali (100 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir.*

10. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ
 مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدَلٌ عَشْرَةَ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيتَ عَنْهُ
 مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ
 يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَمْرٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ فِي

⁵¹⁷ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal kitab.baqi musand al-muksirin bab Musnad Abi Hurairah ra.* Nomor hadis 7666

يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةً حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ
مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ أَحْمَد. ⁵¹⁸ رواه أحمد بن حنبل

2. Hadis tentang Zikir Tahlil 33x, Tasbih 33x, Tahmid 33x dan Takbir 33x

1. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الْمَدْحِجِيِّ قَالَ قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو عَبْدِ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ
وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ
وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ
الْبَحْرِ. ⁵¹⁹ رواه مسلم

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepadaku Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Suhail dari Abu 'Ubaid Al Madzhiji. -Muslim menjelaskan bahwa Abu Ubaid adalah mantan budak Sulaiman bin Abdul Malik- dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsi dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Barangsiapa bertasbih (Subhanallah) kepada Allah sehabis shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertahmid (Alhamdulillah) kepada Allah tiga puluh tiga kali, dan bertakbir (Allahu Akbar) kepada Allah tiga puluh tiga kali, hingga semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, -dan beliau menambahkan- dan kesempurnaan seratus adalah membaca Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qadiir, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan.”. HR. Muslim.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal

⁵¹⁸ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab...bab
Musnad Abi Hurairah ra. Nomor hadis 8518

⁵¹⁹ Muslim, *ṣahih Muslim, kitab al-masajid wa mawadhi`*, bab
Istajabah al-Zikir Ba`da al-ḥalat, nomor hadis 939.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.⁵²⁰ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin al-Sabbah menceritakan kepada kami, berkata; Ismail (Ibn Zakariya) menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Salih, dari Ubaid, dari Ata` bin Yassar dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa bertasbih setiap selesai salat 33x tahmid 33x dan takbir 33x jadilah sembilan puluh sembilan, kemudian ia sempurnakan seratus dengan *la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli syain qadir*, maka diampuni dosa-dosanya, walaupun kesalahannya sebanyak bui dilautan.. HR. Ahmad bin Hanbal.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خَلْفَ الصَّلَاةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.⁵²¹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Suraih menceritakan kepada kami, berkata; Fulaih menceritakan kepada kami, dari Suhail (Ibn Abu Salih), dari Ubaid, dari Ata` bin Yazid dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa bertasbih setiap selesai salat 33x tahmid 33x dan takbir 33x jadilah sembilan puluh

⁵²⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi musnad al-mukassirin, bab baqi al-musnad al-çabiq* nomor hadis 8478

⁵²¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi musnad al-mukassirin, bab baqi al-musnad al-çabiq* nomor hadis 9878

sembilan, kemudian ia sempurnakan seratus dengan *la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli syain qadir*, maka diampuni dosa-dosanya, walaupun kesalahannya sebanyak bui dilautan. HR. Ahmad bin Hanbal.

4. Riwayat Malik.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَبَّحَ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَتَمَ الْمَانَةَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. ⁵²² رواه مالك

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa bertasbih setiap selesai salat 33x tahmid 33x dan takbir 33x jadilah sembilan puluh sembilan, kemudian ia sempurnakan seratus dengan *la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli syain qadir*, maka diampuni dosa-dosanya, walaupun kesalahannya sebanyak bui dilautan.HR. Malik

5. Riwayat Abu Dawud .

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلَا يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكَبِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْتَمُّهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ

⁵²² Malik ibn Anas, *Muwatta Malik*, Juz II, bab ma ja`a fi ©ikr Allah tabaraka wa taala, nomor hadis 439.

الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ
مِثْلَ رَبِّدِ الْبَحْرِ.⁵²³ رواه أبو داود

Terjemahnya:

al-Awza`i, menceritakan kepada kami, Hassan bin Atiyah menceritakan kepadaku, berkata; Muhammad bin Abu `isyah menceritakan kepadaku dari Abi Hurairah berkata: Abu Zar berkata: Ya Rasulullah.....mereka salat sebagaimana kami salat, dan mereka berpuasa sebagaimana mereka berpuasa, dan bagi mereka memiliki harta sehingga mampu bersedekah, sedang kami tidak mampu bersedekah: Rasulullah saw., bersabda:..... Barangsiapa bertasbih setiap selesai salat 33x tahmid 33x dan takbir 33x, kemudian ia sempurnakan seratus dengan dengan *la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli syain qadir*, maka diampuni dosa-dosanya, walaupun kesalahannya sebanyak bui dilautan.HR. al-Dawud.

6.. Riwayat al-Darami.

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِفْلٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبُ أَصْحَابِ الدُّنُورِ بِالْأَجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا ، وَلَيْسَ لَنَا مَا نَتَصَدَّقُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - : « أَفَلَا أَعَلَمَكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ فُلْتَهُنَّ أَدْرَكَتْ مَنْ سَبَقَكَ وَلَمْ يَلْحَقَكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟ ». قَالَ فُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : « نُسِّحُ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتُكَبَّرُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَخْنِمُهَا بِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». رواه الدارمي.⁵²⁴

Terjemahnya:

Al-Hakam bin M-sa memberitakan kepada kami, Hiklun menceritakan kepada kami, dari al-Awza`i,Hassan bin Atiyah menceritakan kepadaku, berkata; Muhammad bin Abu `isyah

⁵²³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy`as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, kitab *al-salat*, bab *al-Tasbih bi al-Hajiya*, nomor hadis 1286.

⁵²⁴ Al-Darami, *Sunan al-Darimi*, juz IV bab *al-Qawl Ba`da al-Salam* nomor hadis 1404.

menceriterakan kepadaku dari Abi Hurairah berkata: Abu Zar berkata: Ya Rasulullah.....mereka salat sebagaimana kami salat, dan mereka berpuasa sebagaimana mereka berpuasa, dan bagi mereka memiliki harta sehingga mampu bersedekah, sedang kami tidak mampu bersedekah: Rasulullah saw., bersabda:..... Barangsiapa bertasbih setiap selesai salat 33x tahmid 33x dan takbir 33x, kemudian ia sempurnakan seratus dengan dengan *la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli syain qadir*, HR. al-Darimi

5. Riwayat al-Baihaqi.

اخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ انبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد (ح واخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن المؤمل بن الحسن ثنا محمد بن ايوب انبأ مسدد ثنا خالد بن عبد الله ثنا سهيل عن ابي عبيد عن عطاء بن يزيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ثم قال تمام المائة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير غفرت له خطاياه وان كانت مثل زبد البحر.⁵²⁵ رواه البيهقي

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa bertasbih setiap selesai salat 33x tahmid 33x dan takbir 33x jadilah sembilan puluh sembilan, kemudian ia sempurnakan seratus dengan *la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli syain qadir*, maka diampuni dosa-dosanya, walaupun kesalahannya sebanyak bui dilautan.HR.al-Baihaqi

6. Riwayat al-Baihaqi.

(اخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا يحيى بن ابي بكير ثنا شعبة ومالك بن مغول وحمزة الزيات (ح واخبرنا) أبو عبد الله انبأ الحسن بن محمد بن حليم

⁵²⁵ al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, kitab *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, bab juz II, h. 187

المروزي ثنا أبو الموجه انبأ عبدان انبأ عبد الله انبأ مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلوة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة واربعاً وثلاثين تكبيرة . رواه البيهقي

Terjemahnya:

Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa bertasbih setiap selesai salat 33x tahmid 33x dan takbir 33x jadilah sembilan puluh sembilan, kemudian ia sempurnakan seratus dengan *la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli syain qadir*, HR.al-Baihaqi

3.Hadis tentang zikir *La ilaha illallah 3 kali*.

1.Riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةَ وَفُلَانٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مَعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةَ أَنَّ أَكْثَبَ إِلَيَّ بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ قِيلِ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَادِ النَّبَاتِ .⁵²⁶ رواه البخاري

Terjemahnya:

Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami.....dari al-Sya'bi, dari Warrad..... Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Asy-Sya'biy dari Warrad, maula Al Mughirah bin Syu'bah dari Al Mughirah bin Syu'bah berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup

⁵²⁶ Al-Bukhari, *ṣaḥih al-Bukhari, Kitab al-riḥāq, bab ma yakrahu man qila wa qala*, nomor hadis 5992.

dan serta membenci kalian dari qila wa qoola (memberitakan setiap apa yang didengar), banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.”. HR al-Bukhari

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَكْتُبُ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَعُفُوقِ الْأَمَّهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ.⁵²⁷ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah ... kepada Mu`awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan *La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu* , *lahu al-mulk*, *walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir*,..... HR. Ahmad bin Hanbal.

3. Riwayat al-Nasa'i.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَجَالِدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةَ وَذَكَرَ آخَرَ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْمُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنَّ أَكْتُبُ إِلَيَّ بِ- حَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.⁵²⁸ رواه النسائي

Terjemahnya:

⁵²⁷ Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Kitab Awwal al-Kufiyyin*, *bab hadisu al-Mugirat bin Syu`bah radhiyallahu anhu* , hadis nomor 17843

⁵²⁸ Ab- Abd al-Rahman ibn Syu`aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, *Kitab al-sahwu*, *bab Nawu` akhar min al-qawli inda inqi`a`i al-jalat`*, nomor hadis 1325

dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah ... kepada Mu`awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan *La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu* , *lahu al-mulk*, *walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir*, tiga kaliHR. al-Nasa`i.

4.Hadis tentang *zikir la ilaha illallah 10 X*

1.Riwayat Muslim .

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْعَبْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ حَدَّثَنَا عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.⁵²⁹ رواه مسلم

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir setiap hari sepuluh kali (10 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu*, *lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir*. HR. Muslim.

2. Riwayat al-Turmizi.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَأَنَّ لَهُ عِدْلَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.⁵³⁰ رواه الترميذی

⁵²⁹ Muslim, *ḥāhīh Muslim*, kit ab al-zikr wa al-du`a wa taubah wa al-istigfar , bab Fadl al-Tahlil wa al-Tasbih wa al-Du`a, nomor hadis 4859

⁵³⁰ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, kitab al-da`wat an Rasulillah, bab al-Dua al-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nomor hadis 3476

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir setiap hari sepuluh kali (10 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir.*
HR. al-Turmuzi.

3. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْجَلَّاحِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَيْبَةَ السَّبَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرَبِ بَعَثَ اللَّهُ مَسَلْحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُؤَبَّاتٍ وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمَنَاتٍ.⁵³¹ رواه الترميذی

Terjemahnya:

Qutaibah menceritakan kepada kami, al-Lai£ menceritakan kepada kami, dari al-Jullah Abu Kasir, dari Abd al-Rahman al-Hubuli dari Umarat bin Syabib al-Saya` berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir setiap hari sepuluh kali (10 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir.*
HR. al-Turmuzi.

4.. Riwayat al-Turmuzi. hadis nomor 3395

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مَرَّةَ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهًا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ.⁵³² رواه الترميذی

Terjemahnya:

⁵³¹ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat an Rasulillah bab minhu*, nomor hadis 3457

⁵³² al-Turmuzi. hadis nomor 3395

Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, al-Lai'f menceritakan kepada kami, dari al-Khalil bin Murrah, dari Azhar bin Abd Allah, dari Tamim al-Dari` dari Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berkata: Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan satu-satu Esa, tidak ada sekutu bagiNya..... HR. al-Turmuzi

5. Riwayat Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْعَدَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَعَتَاقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.⁵³³ رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. al-Bukhari.

4. Hadis-Hadis Tentang *zikir la ilaha illallah 10 X* pada shalat dan Fajar dan Subuh.

1. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيِّ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانِ رَجُلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيتَ عَنْهُ عَشْرُ

⁵³³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, kitab.....bab fadl la ilaha illa Allah*, nomor hadis 3789

سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحُرْسٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ.⁵³⁴ رواه الترميذی

Terjemahnya:

Ishaq bin Mans-r menceriterakan kepada kami, Ali bin Ma`bad menceriterakan kepada kami, Ubaidullah bin Amr al-Raquy, dari Zaid, dari Syahr bin Hawsyab, dari Abd al-Rahman bin Ganm, dari Abu Zar. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari sepuluh kali (10 X) *La ilaha illa Allah wahdau la syarikah a>lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir.*HR. al-Turmuzi.

2.. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعْدَلٍ عِشْرٍ رِقَابٍ أَوْ رَقَبَةٍ.⁵³⁵ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal .

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

⁵³⁴ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat an Rasulillah bab ma ja`a fi fadl al-tasbih wa al-Takbir, wa tahlil wa al-tahmid nomor hadis 3396.*

⁵³⁵ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz 48, bab hadis Abi Ayyub al-Anjari ra. Nomor hadis 22444.*

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.⁵³⁶ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal

4. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَوُهَيْبٌ نَحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَائِشٍ وَقَالَ حَمَادٌ عَنْ أَبِي عَائِشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلٌ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي جِزْرِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.⁵³⁷ رواه أبو داود

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Abu Dawud.

5. Riwayat Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَادٌ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَائِشِ الزُّرْقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ

⁵³⁶ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 48, bab hadis *Abi Ayyub al-Anjari ra.* Nomor hadis 22480.

⁵³⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, kitab....., bab *ma yaq-l iza Asbaha*, nomor hadis 4415

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عَدْلٌ رَقَبَةٌ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي جِزْرِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِذَا أَمْسَى فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ .⁵³⁸ رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ibn Majah.

4. Riwayat Ahmad bin Hambal.

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ كُتِبَ لَهُ بِهَا مِائَةٌ حَسَنَةً وَمُجِيءٌ عَنْهُ بِهَا مِائَةٌ سَيِّئَةٌ وَكَانَتْ لَهُ عَدْلٌ رَقَبَةٌ وَحُفِظَ بِهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِيَ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ .⁵³⁹ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal .

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

⁵³⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, kitab ...bab ma yad' - al-rajul iza a; baha*, nomor hadis 3857.

⁵³⁹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab ..., bab Musnad Abi Hurairah ra.* Nomor hadis 8362.

قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ جِئِنِ أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ كَعَدَلٍ رَقَبَةٍ مِنْ وَالدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي جِرِّ مِنْ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِذَا أَمْسَى مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.⁵⁴⁰ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. al-Bukhari.

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيسَى عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَيَّ فَقَالَ لِي يَا أَبَا أَيُّوبَ أَلَا أَعْلَمُكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَإِلَّا كُنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَدَلٌ عَشْرَ رِقَابٍ مُحَرَّرِينَ وَإِلَّا كَانَ فِي جُنَّةٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَا قَالَهَا حِينَ يُمْسِيَ إِلَّا كَذَلِكَ.⁵⁴¹ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain

⁵⁴⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz XXXIII, bab hadis *Abi Ayyas al-Zarqi ra*, hadis nomor 15988.

⁵⁴¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 48, bab hadis *Abi Ayyub al-Anjari ra*. Nomor hadis 22416

Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal.

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ كَعَدْلِ أَرْبَعِ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُجِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِذَا قَالَهَا بَعْدَ الْمَغْرَبِ فَمِثْلُ ذَلِكَ.⁵⁴² رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal .

8. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي رُحَيْمٍ السَّمْعِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَحَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ كَعَشْرِ رِقَابٍ وَكُنَّ لَهُ مَسْلَحَةٌ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَعْمَلْ

⁵⁴² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 48, bab hadis Abi Ayyub al-Anjari ra. Nomor hadis 22418

يَوْمَئِذٍ عَمَلًا يَقْفَهُنَّ فَإِنْ قَالَ حِينَ يُمَسِّي فَمِثْلُ ذَلِكَ.⁵⁴³ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd. Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal.

6. Hadis tentang zikir tasbih, tahlil, tahmid, tahlil,100x setelah salat.

1. Riwayat al-Nasa'i.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةً تَسْبِيحَةً وَهَلَّلَ مِائَةً تَهْلِيلَةً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.⁵⁴⁴ رواه النسائي

2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا حَيْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ الْعِفَارِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَلِمَاتٌ مَنْ ذَكَرَهُنَّ مِائَةً مَرَّةً دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَمَّ لَوْ كَانَتْ خَطَايَاهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ لَمَحَتْهُنَّ.⁵⁴⁵ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

⁵⁴³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 48, bab hadis *Abi Ayyub al-Anjari* ra. Nomor hadis 22465.

⁵⁴⁴ Ab- Abd al-Rahman ibn Syu'aib al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i*, *Kitab al-Sahwu*, bab *na'u 2har*, nomor hadis, 1337.

⁵⁴⁵ Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Kitab Musnad al-Anjari*, bab *hadis Abi Zar al-Giffari radhiyallahu anhu* nomor hadis 20535

: Pada setiap selesai salat wajib; berzikir dengan *La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu , lahu al-mulk, walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir*, Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. maka diampuni dosa-dosanya, walaupun kesalahannya sebanyak bui dilautan.HR. Ahmad bin Hanbal.

B. Hadis-Hadis Tentang Istigfar

1. Hadis tentang zikir Istigfar 70x

1. Riwayat al-Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ۖ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.⁵⁴⁶ رواه البخاري

Terjemahnya:

Abu al-Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib memberitakan kepada kami, dari al-Zuhri berkata, Abu Salamah bin Abd al-Rahman memberitakan kepadaku berkata, Abu Hurairah berkata; sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Demi Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Bukhari.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal

7461 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.⁵⁴⁷ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

⁵⁴⁶ Al-Bukhari, *ḥahih al-Bukhari, Kitab al-da'wat, bab istigfar al-Nabi sallallahu alaihi wasallam* juz XIX, h. 365. nomor hadis 5832

⁵⁴⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi musnad al-mukassirin, bab musnad Abi Hurairah*, juz XVI, h. 2. nomor hadis 7361

Abd al-Razzaq menceriterakan kepada kami, Ma`mar berkata dari al- Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah; sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Demi Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. Ahmad Bin Hanbal.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً. ⁵⁴⁸ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Yunus menceriterakan kepada kami, Lais menceriterakan kepada kami, dari Ibn Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah; sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Demi Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. Ahmad Bin Hanbal.

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal nomor hadis 9431

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. ⁵⁴⁹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Yazid menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Amr memberitakan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak sebanyak tujuh puluh kali. HR. Ahmad Bin Hanbal.

5. Riwayat al-Haris.

⁵⁴⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi musnad al-mukassirin, bab musnad Abi Hurairah*, nomor hadis 8137

⁵⁴⁹ Ahmad bin Hanbal *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi musnad al-mukassirin, bab musnad Abi Hurairah*, nomor hadis 8398

حدثنا أبو سلمة ثنا ليث عن يزيد بن الهاد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ والله اني لاستغفر الله عزوجل وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة.⁵⁵⁰ رواه الحارث

Terjemahnya:

Abu Salamah menceritakan kepada kami, Lais menceritakan kepada kami, dari Yazid bin al-Hadi dari Ibn Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Haris

6. Riwayat al-Nasa`i.

(10266) أخبرنا أبو الأشعث ثنا المعتمر سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ قال إني لاتوب في اليوم سبعين مرة.⁵⁵¹ رواه النسائي

Terjemahnya:

Abu al-Asy`as memberitakan kepada kami, al-Ma`mar menceritakan kepada kami, aku mendengar Bapakku menceritakan dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya aku bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Nasa`i.

7. Riwayat al-Nasa`i.

(10267) أخبرنا محمد بن المثنى حدثني عبد الله بن رجاء عن عمران عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله ﷺ إني لاستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من سبعين مرة كم يستغفر في اليوم ويتوب.⁵⁵² رواه النسائي

Terjemahnya:

Muhammad bin al-Musanna memberitakan kepada kami, Abd Allah bin Raja` menceritakan kepadaku dari Imran, dari Qatadah, dari Anas berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa

⁵⁵⁰ Riwayat al-Haris, *Bugyah al-Haris, Kitab al-tawbat, wa al-istigfar, bab fi al-tawabin*, juz I, h. 323. nomor hadis 1086

⁵⁵¹ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i*, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 114. nomor hadis 10266

⁵⁵² al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 114. nomor hadis 10266*

Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Nasai

8. Riwayat al-Nasa`i.

أخبرني محمد بن عامر حدثنا منصور بن سلمة أنا الليث عن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إني لاستغفر الله في اليوم وأتوب أكثر من سبعين مرة⁵⁵³. رواه النسائي

Terjemahnya:

Muhammad bin ²mir memberitakan kepadaku, Mans-r bin Salamah menceriterakan kepada kami, al-Lais menceriterakan kepada kami, dari Yazid, dari Ibn Syihab dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Nasa`i.

9. Riwayat al-Nasa`i.

عن بن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة⁵⁵⁴. رواه النسائي

Terjemahnya:

Dari Ibn Syihab, Abu Salamah bin Abd al-Rahm an memberitakan kepadaku, sesungguhnya aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Nasa`i.

10. Riwayat al-Nasa`i.

(10271) أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر عن سليمان عن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال

⁵⁵³ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 114.* nomor hadis 10269

⁵⁵⁴ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 115.* nomor hadis

سمعت رسول الله ﷺ يقول إني لاستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة⁵⁵⁵. رواه النسائي

Terjemahnya:

Muhammad bin Isma`il memberitakan kepada kami, Ayy-b bin Sulaiman menceriterakan kepada kami, Abu Bakar menceriteraka kepadaku, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Abd Allah bin Abu Atiq dan M-sa bin Uqbah, dari Ibn Syihab, dari Abu Bakar bin Abd al-Rahman dari Abu Hurairah berkata; Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Nasa`i.

11. Riwayat al-Nasa`i,

(10273) أخبرنا هاشم بن عبد الملك حدثنا بقیة حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إني لاستغفر وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة⁵⁵⁶. رواه النسائي

Terjemahnya:

Hasyim bin Abd al-Malik memberitakan kepada kami, Baqiyat menceriterakan kepada kami, al-Zubaid menceriterakan kepada kami, dari al-Zuhri, dari Abd al-Malik bin Abu Bakar bin al-Haris bin Hasyim, dari Abu Hurairah berkata; sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Nasa`i,

12. Riwayat al-Tabrani.

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً"⁵⁵⁷. رواه الطبراني

Terjemahnya:

⁵⁵⁵ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 115. nomor hadis 1027*

⁵⁵⁶ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 115. nomor hadis 10273*

⁵⁵⁷ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, juz XX, h.11. nomor hadis 1231*

Al-Lais menceriterakan kepada kami, dari Yazid bin Abd Allah, dari Ibn Syihab dari Abu Salamah bin Abd al-Rahman dari Abu Hurairah berkata; Sesungguhnya aku Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Tabrani.

13. Riwayat al-Tabrani.

حدثنا الليث ، عن يزيد بن عبد الله ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « والله إنني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة⁵⁵⁸. رواه الطبراني

Terjemahnya:

Al-Lais menceriterakan kepada kami, dari Yazid bin Abd Allah, dari Ibn Syihab dari Abu Salamah bin Abd al-Rahman dari Abu Hurairah berkata; Sesungguhnya aku Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Tabrani.

14. Riwayat al-Baihaqi.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، حدثنا علي بن محمد بن عيسى ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : قال أبو هريرة : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « والله إنني لأستغفر وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة⁵⁵⁹. رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Abd Allah al-Hafiz memberitakan kepada kami, Abu Muhammad Ahmad bin Abd Allah memberitakan kepadaku, Ali bin Muhammad bin Isa menceriterakan kepada kami, Abu al-Yaman menceriterakan kepada kami, Syu'aib memberitakan kepadaku, dari al-Zuhri, Abu Salamah bin Abd al-Rahman memberitakan kepadaku berkata; Abu Hurairah berkata; Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku

⁵⁵⁸ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani*, kitab bab ain, bab min ismihi *Muttalib*, juz XIX, h.97. nomor hadis 9015

⁵⁵⁹ al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi*, *Kitab fa`lu fi idamati* ©ikrullah azza wajalla, bab wallahi inni lastagfir wa at-bu fi yaum sab`ina marrah, juz II, 201. nomor hadis 659.

memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Baihaqi.

15. Riwayat al-Baihaqi.

عن يحيى بن يحيى ، وأبي الربيع وروينا في الحديث الثابت عن ابن شهاب الزهري ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال : قال أبو هريرة : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « والله إنني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة.⁵⁶⁰ رواه البيهقي »

Terjemahnya:

Dari Yahya bin Yahya dan Abu al-RAbu`, Sabit menceritakan dari Ibn Syihab al-Zuhri, Abu Salamah bin Abd al-Rahman memberitakan kepadaku, berkata; Abu Hurairah berkata; Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Baihaqi.

16. Riwayat ibn Hibban,

أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله ﷺ : « إنني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة.⁵⁶¹ رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Muhammad bin al-Hasan bin Qutaibah memberitakan kepada kami, Harmalat bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibn Wahab menceritakan kepada kami, Y-nur memberitakan kepada kami, dari Ibn Syihab, Abu Salamah bin Abd al-Rahman memberitakan kepadaku sesungguhnya aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. Ibn Hibban.

⁵⁶⁰ al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab al-tasi` wa salas-n min sya`b al-iman, bab wahua bab fi mu`alajati kullu zanbin bi al-taubati*, juz XV, 61. nomor hadis 6764.

⁵⁶¹ Ibn Hibban, *çahih ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-Adiyah*, juz IV, h. 340. nomor hadis 927.

16. Riwayat al-Tabrani.

وبإسناده ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة.⁵⁶² رواه الطبراني

Terjemahnya:

Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Tabrani.

2. Hadis tentang *zikir istigfar* sebanyak Seratus Kali

1. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ الْأَعْرَبِ الْمُزَنِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.⁵⁶³ رواه مسلم

Terjemahnya:

Yahya bin Yahya, Qutaibah bin Sa'id, dan Abu al-RAbu` menceritakan kepada kami, dari Hammad , berkata Yahya, Hammad memberitakan kepada kami, dari Sabit, dari Abu Burdat dari al-Agar al-Muzani dan adalah; sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali. HR.Muslim

2. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ الْأَعْرَبِ الْمُزَنِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ

⁵⁶² al-Tabrani, *Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, kitab ma intaha ilaina min musnad Basyir bin al-2la` ahi Abdullah, juz VIII, h. 422. nomor hadis 2967.*

⁵⁶³ Muslim. *ḥahih Muslim, Kitab al-zikir wa al-du`a wa al-taubat, wa istigfar, bab istiḥbab al-istigfar wa al-istiksar minhu, juz XIII, h. 216. nomor hadis 4870.*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لِيَعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي
لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.⁵⁶⁴ رواه أبي داود

Terjemahnya:

Sulaiman bin Harb dan Musaddad menceritekan kepada kami, Hammad menceriterakan kepada kami, dari Sabit, dari Abu Burdat dari al-Agar al-Muzani dan adalah; sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali. HR.Abu Dawud

3. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ
سَبْعِينَ مَرَّةً.⁵⁶⁵ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Abdu bin Humaid menceriterakan kepada kami, Abd al-Razzaq menceriterakan kepada kami, Ma`mar memberitakana kepada kami, dari al-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ra.berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali. HR.al-Turmuzi.

4. Riwayat Ibn Majah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.⁵⁶⁶ رواه
ابن ماجه

Terjemahnya:

Abu Bakar bin Abu Syaibah menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Bisyrin menceriterakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah

⁵⁶⁴ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-ḥalat, bab fi al-istigfar*, juz IV, h. 311. nomor hadis 1294.

⁵⁶⁵ al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab Tafsir al-Qur`an`an Ras-lillah, bab wa min surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam*, juz XI, h. 60. nomor hadis 3182.

⁵⁶⁶ Ibn Majah, *Sunan ibn Majah, Kitab al-Adab, bab al-Istigfar*, juz XI, h. 262. nomor hadis 3805.

berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR.Ibn Majah.

5. Riwayat Ahmad ibn Hanbal,

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.⁵⁶⁷ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr memberitakn kepada kami, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. Ahmad ibn Hanbal

6. Riwayat Ahmad ibn Hanbal

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ الْمُزَنِيِّ قَالَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُعْنُ عَلَيَّ قَلْبِي فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.⁵⁶⁸ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Yunus menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Sabit menceritakan kepada kami, Abu Burdat menceritakan kepada kami, dari al-Agar al-Muzani dan adalah; sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali. HR. Ahmad ibn Hanbal

7. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ الْمُزَنِيِّ قَالَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

⁵⁶⁷ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi musnad al-mukassirin, bab musnad al-Agr al-Mazni radiyallahu anhu*, juz XIX, h. 474. nomor hadis 9431.

⁵⁶⁸ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi musnad al-mukassirin, bab musnad al-Agr al-Mazni radiyallahu anhu*, juz 36, h.259. nomor hadis 17174

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُعَنُّ عَلَى قَلْبِي فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً.⁵⁶⁹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Yunus menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Sabit menceritakan kepada kami, Abu Burdat menceritakan kepada kami, dari al-Agar al-Muzani dan adalah; sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali. HR. Ahmad ibn Hanbal

8. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ الْأَعْرَجِ مَرْيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيُعَنُّ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِائَةً مَرَّةً.⁵⁷⁰ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Sabit memberitakan kepada kami, Abu Burdat menceritakan kepada kami, dari al-Agar al-Muzani berkata; Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali. HR. Ahmad ibn Hanbal

9. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ الْمُرْنَبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُعَانُ

⁵⁶⁹ Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, *Kitab baqi musnad al-mukassirin, bab musnad al-Agr al-Mazni radiyallahu anhu*, juz 36, h. 259. nomor hadis 17174

⁵⁷⁰ Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, *Kitab baqi musnad al-mukassirin, bab musnad al-Agr al-Mazni radiyallahu anhu*, juz 36, h.260. nomor hadis 17175

عَلَى قَلْبِي وَإِيَّيَ لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.⁵⁷¹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Sabit al-Bunani, dari Abu Burdat dari al-Agar al-Muzani berkata; Rasulullah saw., bersabda: aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali. HR. Ahmad ibn Hanbal

10. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ فِي لِسَانِي ذَرْبٌ عَلَى أَهْلِي لَمْ أَعُدْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ يَا حُدَيْفَةُ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.⁵⁷² رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada kami, dari Ishaq, dari Abu al-Mugirah dari Huzaifah berkata; Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. Ahmad ibn Hanbal

11. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْوَلِيدَ أَبَا الْمُغِيرَةَ أَوْ الْمُغِيرَةَ أَبَا الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ أَنَّ حُدَيْفَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَرْبُ اللِّسَانِ وَإِنَّ عَامَّةَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِي فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَقَالَ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَوْ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.⁵⁷³ رواه احمد بن حنبل

⁵⁷¹ Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, *Kitab baqi musnad al-mukassirin, bab musnad al-Agr al-Mazni radiyallahu anhu*, juz 37, h. 243. nomor hadis 17575

⁵⁷² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad al-Anjar bab hadis Huzaifah ibn al-Yaman an Nabi sallallahu alaihi wasallam*, juz 47, h. 319. nomor hadis 22250

⁵⁷³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad al-Anjar bab hadis Huzaifah ibn al-Yaman an Nabi sallallahu alaihi wasallam* juz 47, h. 342. nomor hadis 22273

Terjemahnya:

Muhammad bin Ja`far menceritakan kepada kami, Syu`bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Aba Ishaq berkata; aku mendengar al-Walid Aba al-Mugirah menceritakan sesungguhnya Hizaifah bertanya; ya Rasulullah.... Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya sehari semalam sebanyak seratus kali. HR. Ahmad ibn Hanbal

12. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ فِي لِسَانِي ذَرْبٌ عَلَى أَهْلِي وَكَانَ ذَلِكَ لَا يَعْدُوهُمْ إِلَيَّ غَيْرِهِمْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَيُّنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِعْفَارِ يَا حُدَيْفَةُ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.⁵⁷⁴ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Ubaid bin al-Mugirah dari Huzairah berkata;Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. Ahmad ibn Hanbal

13. Riwayat Ibn Abu Syaibah.

حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : " إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة.⁵⁷⁵ رواه أبي شيبة

Terjemahnya:

Muhammad bin Basyir menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Salamat menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. Ibn Abu Syaibah".

⁵⁷⁴ Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad al-Anjar bab hadis Huzairah ibn al-Yaman an Nabi sallallahu alaihi wasallam juz 47, h. 399. nomor hadis 2233

⁵⁷⁵ Ibn Abi Syaibah, Musannaf Ibn Abi Syaibah, kitab musannaf ibn Abi Syaibah, bab juz VII, h. 70. nomor hadis 4.

14. Riwayat al-Nasa`i.

أخبرنا بشر بن هلال حدثنا جعفر عن ثابت عن أبي بردة عن رجل من أصحابه قال قال رسول الله ﷺ إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله كل يوم مائة مرة.⁵⁷⁶ رواه النسائي

Terjemahnya:

Bisri bin Hilal memberitakan kepada kami, Ja`far menceritakan kepada kami, dari Sabit, dari Abu Burdat, dari Rajulin min al-Ashab berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR.al-Nasa`i

15. Riwayat al-Nasa`i.

أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا أبو خالد الدالاني حدثنا أبو إسحاق عن أبي المغيرة عبيد البجلي عن حذيفة قال أتيت رسول الله ﷺ فقلت إني ذرب اللسان قد أحرقت أهلي بلساني قال فأين أنت من الاستغفار إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة الاكثر من الاستغفار.⁵⁷⁷ رواه النسائي

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR. al-Nasa`i

16. Riwayat al-Nasa`i.

أنا محمد بن سليمان عن بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال اني لاستغفر الله في اليوم مائة مره قوله تعالى وللمؤمنين والمؤمنات.⁵⁷⁸ رواه النسائي

Terjemahnya:

⁵⁷⁶ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i*, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 116. nomor hadis 10277

⁵⁷⁷ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i*, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 118. nomor hadis 10287

⁵⁷⁸ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i*, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 460. nomor hadis 11495

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR. al-Nasa'i

17. Riwayat Ibn Abu 2sim

حدثنا هدبة بن خالد ، نا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبي بردة ، عن الأغر ، أغر مزينة ، ويونس ، وحبيب بن الشهيد ، عن حميد بن هلال ، عن النبي ﷺ قال : « إنه ليغان (1) على قلبي ، فأستغفر الله تعالى مائة مرة ».⁵⁷⁹ رواه ابن أبي عاصم

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR. Ibn Abu 2sim.

18. Riwayat al-Hakim.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا شعبة ، ثنا أبو إسحاق ، قال : سمعت أبا المغيرة ، أو المغيرة أبا الوليد يحدث ، عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ، ﷺ إني رجل ذرب (1) اللسان ، وإن عامة ذلك على أهلي ، فقال : « فأين أنت من الاستغفار ؟ إني لأستغفر الله في اليوم واللييلة أو اللييلة ، أو في اليوم مائة مرة ».⁵⁸⁰ رواه الحاكم

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR. al-Hakim

⁵⁷⁹ Ibn Abi 2sim, *2had wa al-Musani li Ibn Abi 2sim, kitab 2had wa al-Musani li Ibn Abi 2sim, bab innahu laigan ala qalbi fastagfirullah ta'ala miatu marratin*, juz III, h. 325. nomor hadis 1023.

⁵⁸⁰ Muhammad bin Abdillah Ab- Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak ala al-ʿahihain li al-Hakim, Kitab bismillahi al-rahmani al-rahim awwal kitab wa al-manasik, bab kitab al-du'a wa al-takbir, wa al-Tahlil, wa al-tasbih wa al-zikr*, juz IV, h. 427. nomor hadis 1834

19. Riwayat al-Hakim.

حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن سلام ، ثنا قبيصة ، ثنا سفيان ، وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد أبي المغيرة ، عن حذيفة رضي الله عنه ، قال : كنت ذرب (1) اللسان على أهلي قلت يا رسول الله ، قد خشيت أن يدخلني لساني النار ، قال : « فأين أنت من الاستغفار ؟ إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة.⁵⁸¹ رواه الحاكم

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Hakim

20. Riwayat al-Hakim.

إنما أخرج مسلم حديث أبي بردة ، عن الأغر المزني ، عن النبي ﷺ : « إنه ليغان (1) على قلبي ، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »⁵⁸² رواه الحاكم

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Hakim

21. Riwayat al-Hakim.

حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ بهمدان ، ثنا محمد بن المغيرة السكري ، ثنا محمد بن القاسم الأسدي ، ثنا سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد بن المغيرة ، قال : سمعت حذيفة ،

⁵⁸¹ Muhammad bin Abdillah Ab- Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak ala al-ʿahihain li al-Hakim, Kitab bismillahi al-rahmani al-rahim awwal kitab wa al-manasik, bab kitab al-du`a wa al-takbir, wa al-Tahlil, wa al-tasbih wa al-zikr*, juz IV, h. 428. nomor hadis 1835

⁵⁸² Muhammad bin Abdillah Ab- Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak ala al-ʿahihain li al-Hakim, Kitab bismillahi al-rahmani al-rahim awwal kitab wa al-manasik, bab kitab al-du`a wa al-takbir, wa al-Tahlil, wa al-tasbih wa al-zikr*, juz IV, h. 429. nomor hadis 1836

وتلا قول الله عز وجل (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك) (1)
(قال : كنت رجلا ذرب (2) اللسان على أهلي فقلت : يا رسول الله ،
إني لأخشى أن يدخلني لساني النار . فقال النبي ﷺ : « فأين أنت
من الاستغفار إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »⁵⁸³ . رواه الحاكم
Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda:
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR. al-Hakim.

22. Riwayat al-Tabrani.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرِ الْجَوْهَرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ،
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ
: جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا ،
فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.⁵⁸⁴ رواه الطبراني.

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda:
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR.al-Tabrani

23. Riwayat al-Tabrani.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ التَّمَّارِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ الضَّبِّيُّ ، قَالَا :
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا
بُرْدَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ، يَقُولُ : إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ
مَرَّةٍ.⁵⁸⁵ . رواه الطبراني

⁵⁸³ Muhammad bin Abdillah Ab- Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak ala al-çahihain li al-Hakim, Kitab bismillahi al-rahmani al-rahim awwal kitab wa al-manasik, bab kitab al-du`a wa al-takbir, wa al-Tahlil, wa al-tasbih wa al-zikr*, juz VIII, h. 382. nomor hadis 3665

⁵⁸⁴ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, bab satu*, juz I, h. 382. nomor hadis 881

⁵⁸⁵ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, bab satu* juz I, h. 382. nomor hadis 879

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR. al-Tabrani

24. Riwayat al-Tabrani

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرِ الْجَوْهَرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.⁵⁸⁶ رواه الطبراني

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR. al-Tabrani

25. Riwayat al-Tabrani.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكِنْدِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُنَا ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَتَوَبُّوا إِلَيْهِ ، فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ ، أَوْ كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ.⁵⁸⁷ رواه الطبراني.

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR. al-Tabrani

26. Riwayat al-Tabrani.

⁵⁸⁶ al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, bab satu juz I, h. 382. nomor hadis 881

⁵⁸⁷ al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, bab satu juz I, h. 382. nomor hadis 882

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ . ح وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ شَادَانَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً.⁵⁸⁸ رواه الطبراني.

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Tabrani

27. Riwayat al-Tabrani.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ . ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ فَضَالَةَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ الْمُرْنَبِيِّ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً.⁵⁸⁹ رواه الطبراني

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Tabrani

28. Riwayat al-Tabrani.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ الثُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَحْرِ الْبَيْرُودِيُّ ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَمَّارَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁵⁸⁸ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, kitab *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, bab satu juz I, h. 382. nomor hadis 883

⁵⁸⁹ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, kitab *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, bab satu juz I, h. 382. nomor hadis 884

وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى قَلْبِي وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِائَةً مَرَّةً⁵⁹⁰ . رواه الطبراني

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Tabrani

29.Riwayat al-Tabrani.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَزَلِيُّ الْبَصْرِيُّ الْمُعَدَّلُ، حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ الْمَرْزُوقِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ، أَنْبَأَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً."⁵⁹¹ رواه الطبراني

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Tabrani

30.Riwayat al-Tabrani.

حدثنا بكر قال : نا عبد الله بن صالح قال : نا كثير بن سليم اليشكري ، عن أنس بن مالك ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إني رجل ذرب (1) اللسان ، وأكثر ذلك على أهلي ، فقال رسول الله ﷺ : « أين أنت من الاستغفار ؟ إني أستغفر الله في اليوم واللييلة مائة مرة⁵⁹² . رواه الطبراني»

Terjemahnya:

⁵⁹⁰ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, bab satu juz I, h. 384. nomor hadis 885

⁵⁹¹ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, bab satu juz 19, h. 50. nomor hadis 125

⁵⁹² al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani, Kitab bab al-ba` , bab min ismihi Bakar, juz VII, h. 271. nomor hadis 3301*

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Tabrani

31. Riwayat al-Tabrani.

حدثنا إبراهيم بن محمد الغزالي البصري المعدل ، حدثنا خالد بن أسلم المروزي ، حدثنا النضر بن شميل ، أنبأنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ابن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إني لأستغفر الله في اليوم ، وأتوب إليه في كل يوم مائة مرة ».⁵⁹³ رواه الطبراني

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Tabrani

32. Riwayat al-Tabrani.

حدثنا بشر بن عاصم ابن أخي هناد السري ، حدثنا هناد بن السري ، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، حدثنا مالك بن مغول ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد بن المغيرة البجلي ، عن حذيفة ، رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، أحرقتني لساني قال : « فأين أنت عن الاستغفار ، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة ».⁵⁹⁴ رواه الطبراني

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Tabrani.

33. Riwayat al-Baihaqi

⁵⁹³ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-`agir li al-Tabrani, Kit ab bab ismihi Ibrahim, bab inni laastagfiullah fi yaum wa at-bu ilaiha fi kulli*, juz I,h. 236.nomor hadis 323

⁵⁹⁴ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-`agir li al-Tabrani, Kitab bab al-Alif, bab irhaqni lisani qala fa aina anta an ani al-istigfar inni*, juz I,h.321.nomor hadis 303

أخبرنا أبو الطاهر الفقيه ، قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال ، وأبو بكر القطان ، حدثنا أحمد بن منصور المروزي ، قال : حدثنا النضر بن شميل ، قال : أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مائة مرة.⁵⁹⁵ رواه البيهقي

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR.al-Baihaqi

34. Riwayat al-Baihaqi

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا أبو الربيع ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا ثابت البناني ، عن أبي بردة ، عن الأغر المزني ، وكانت له صحبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه ليغان (1) على قلبي ، وأني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ». ⁵⁹⁶ رواه البيهقي

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Baihaqi

35. Riwayat al-Baihaqi.

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا تمام ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد قال : قال حذيفة قلت للنبي ﷺ : إني أخاف أن يدخلني لساني النار إني رجل ذرب (1) اللسان على أهلي فقال النبي

⁵⁹⁵ al-Baihaqi, *Dalail al-Nubuwwat li al-Baihaqi, Kitab zukira ijthadu Ras-lillah sallallahu alaihi wasallam fi ta`ati, bab laastagfirullah wa at-bu ilaihi fi kulli yaumin miatu marratin*, juz I, h. 354. nomor hadis 323

⁵⁹⁶ Ab- Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali binMusa al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu idamati zakarallahu azza wajalla, bab innahu laigan ala qalbi wa inni laastagfirullah fi kulli yaumin*, juz II, h. 202. nomor hadis 660.

ﷺ : « أين أنت من الاستغفار إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة
597. رواه البيهقي

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda:
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR. al-Baihaqi

36. Riwayat al-Baihaqi

أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا الحسين بن الحسين بن أيوب
الطوسي ، أنا أبو حاتم الرازي ، نا عبيد الله ، نا إسرائيل ، عن أبي
إسحاق ، عن عبيد بن عمرو ، عن حذيفة ، قال : كان في لساني
ذرب (1) على أهلي لم يعدهم إلى غيرهم ، فسألت النبي صلى الله
عليه وسلم : فقال : « أين أنت من الاستغفار يا حذيفة ، إني لأستغفر
الله كل يوم مائة مرة .⁵⁹⁸ رواه البيهقي

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda:
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.
HR. al-Baihaqi.

37. Riwayat al-Baihaqi.

قال أبو إسحاق : فذكرت لأبي بردة ، وأبي بكر ابني أبي موسى ،
فقالا : قال رسول الله ﷺ : « إني لأستغفر كل يوم مائة مرة ،
أستغفر الله وأتوب إليه .⁵⁹⁹ رواه البيهقي

⁵⁹⁷ Ab- Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali binMusa al-Baihaqi,
Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu idamati zakarallahu azza wajalla,
bab innahu laigan ala qalbi wa inni laastagfirullah fi kulli yaumin juz II, h.
205. nomor hadis 663.

⁵⁹⁸ Ab- Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali binMusa al-Baihaqi.
Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu idamati zakarallahu azza wajalla ,
bab aina anta min al-istigfar inni laastagfirullah fi al-yaum miatu marratin,
juz XIV, h. 310. nomor hadis 6520

⁵⁹⁹ Ab- Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Baihaqi.
Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu idamati zakarallahu azza wajalla ,

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Baihaqi

38. Riwayat al-Baihaqi.

قال أبو إسحاق : فذكرت لأبي بردة ، وأبي بكر ابني أبي موسى ، فقالا : قال رسول الله ﷺ : « إني لأستغفر كل يوم مائة مرة ، أستغفر الله وأتوب إليه .⁶⁰⁰ رواه البيهقي

Terjemahnya:

dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Baihaqi

39. Riwayat al-Darimi.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو أَبِي الْمُغِيرَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ فِي لِسَانِي ذَرْبٌ عَلَى أَهْلِي وَلَمْ يَكُنْ يَعُدُّوهُمْ إِلَيَّ غَيْرِهِمْ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ - فَقَالَ : « أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ ؟ إِيَّيَّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ». قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : فَحَدَّثْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَأَبَا بَكْرَ ابْنِي أَبِي مُوسَى قَالَا قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ : « أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ». رواه الدارمي⁶⁰¹

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf memberitakan kepada kami, Isra`il menceriterakan kepada kami, Abu Ishaq menceriterakan kepada kami, dari Ubaid bin Amr Abu al-Mugirah dari Huza-fah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR.al-Darimi.

bab aina anta min al-istigfar inni laastagfirullah fi al-yaum miatu marratin, juz XIV, h. 311. nomor hadis 6521.

⁶⁰⁰ al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu idamati zakarallahu azza wajalla , bab aina anta min al-istigfar inni laastagfirullah fi al-yaum miatu marratin azza wajalla, juz XIV, h. 311. nomor hadis 6521.

⁶⁰¹ al-Darimi, Sunan al-Darimi, kitab wamin kitab al-riqaq, bab fi al-istigfar ,juz VIII, h. 391. nomor hadis 2799

40. Riwayat Ibn Hibban.

أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد الله بن أبي المغيرة ، عن حذيفة ، قال : كنت رجلا ذرب (1) اللسان على أهلي ، فقلت : يا رسول الله ، إني خشيت أن يدخلني لساني النار ، فقال ﷺ : « فأين أنت عن الاستغفار ؟ إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ».⁶⁰² رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Abu Ya'la memberitakan kepada kami, Abu Khaisamah menceriterakan kepada kami, Ibn Mahdi menceriterakan kepada kami, dari Sufyan dari Abu Ishaq, dari Ubaidillah bin Abu al-Mugirah dari Huzaifah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR.Ibn Hibban

41. Riwayat Ibn Hibban.

أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، قال : حدثنا أبو بردة ، عن الأغر المزني ، وكانت له صحبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه ليغان على قلبي ، وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة ».⁶⁰³ رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Al-Hasan bin Sufyan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid bin Hassab menceriterakan kepada kami, Hammad bin Yazid menceriterakan kepada kami, dari sabit, Abu Buradat menceriterakan kepada kami, dari al-Agar al-Mazani berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. Ibn Hibban

42. Riwayat Abdu ibn Himaid.

⁶⁰² Ibn Hibban, *ṣahih ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-Ad'iyah*, juz IV, h. 342. nomor hadis 928

⁶⁰³ Ibn Hibban, *ṣahih ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-Ad'iyah*, juz IV, h. 352. nomor hadis 933

حدثنا الحسن بن موسى ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن أبي بردة ، عن الأغر أغر مزينة : أن النبي ﷺ ، قال : « إنه ليغان (1) على قلبي كل يوم حتى أستغفر الله مائة مرة.⁶⁰⁴ رواه عبد بن عميد

Terjemahnya:

Al-Hasan bin M-sa menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Sabit al-Banani, dari Abu Burdah, dari al-Agar Mazinah, sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali. HR.Abdul ibn Himaid.

43. Riwayat al-Tayalisi.

حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن الوليد بن المغيرة ، عن حذيفة ، قال : قلت : يا رسول الله إني رجل ذرب (1) اللسان وعامة ذلك على أهلي قال : « فأين أنت من الاستغفار إني لأستغفر ربي في اليوم مائة مرة.⁶⁰⁵ رواه الطيالسي

Terjemahnya:

Abu Dawud menceritakan kepada kami, Syu`bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq dari al-Walid bin al-Mugirah, dari Huzaifah berkata;Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali. HR.al-Tayalisi

44. Riwayat al-Baihaqi,

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، أنا حماد بن زيد ، وأخبرنا أحمد بن زيد الثقفي ، نا يوسف بن يعقوب ، نا أبو الربيع ، نا حماد بن زيد ، نا ثابت البناني ، عن أبي بردة ، عن الأغر المزني ، وكانت له صحبة

⁶⁰⁴ Abdul ibn Himaid, *Musnad Abdul ibn Humaid, Kitab al-Agr, bab innahu laigan ala qalbi kullu yaumin hatta istigfarullah miatin*, juz I, h. 408. nomor hadis 366

⁶⁰⁵ al-Tayalisi, *Musnad al-Tayalisi, kitab Ahadis Huzaifah ibn al-Yaman rahimahullah, bab faaina anta min istigfar inni laastagfiru rabbi fi al-yaum miatin*, juz I, h. 438. nomor hadis 422.

قال : قال رسول الله ﷺ : « إنه ليغان على قلبي ، وإنني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »⁶⁰⁶ . رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Abd Allah al-Hafiz memberitakan kepada kami, Abu Bakar bin Ishaq menceriterakan kepada kami, Ismail bin Qutaibah menceriterakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceriterakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceriterakan kepada kami, Ahmad bin Zaid al-Saqafi memberitakan kepada kami, Y-suf bin Ya`q-b menceriterakan kepada kami, Abu al-RAbu` menceriterakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceriterakan kepada kami, Sabit al-Banani menceriterakan kepada kami, dari Abu Burdat dari al-Agar al-Mazani berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Baihaqi.

45 . Riwayat al-Nasa`i.

(10268) أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إنني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة.⁶⁰⁷ رواه النسائي

Terjemahnya:

Qutaibah bin Sa`id memberitakan kepada kami, Abd al-Aziz menceriterakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah berkata; Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Nasa`i.

46. Riwayat al-Nasa`i,

(10265) أخبرنا الفضل بن سهل حدثنا شريح بن النعمان حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول

⁶⁰⁶ al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab fa`lu fi idamati* ©ikrullah azza wajalla, bab wallahi inni lastagfir wa at-bu fi yaum sab`ina marrah, juz XV, h. 61. nomor hadis 6764.

⁶⁰⁷ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i*, juz VI, 114. nomor hadis 10267

الله ﷺ جمع الناس فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة.⁶⁰⁸ رواه النسائي

Terjemahnya:

Al-Fadl bin Sahal memberitakan kepada kami, Syuraih bin al-Nu`man menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Muslim menceriterakan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah dari Atha` dari Abu Hurairah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., mendatangi sekelompok manusia lalu beliau bersabda: Hai manusia bertobatlah kepada Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Nasa`i.

47. Riwayat al-Nasa`i.

(10272) أخبرنا محمد بن سليمان عن بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة.⁶⁰⁹ رواه النسائي

Terjemahnya:

Muhammad bin Sulaiman memberitakan kepada kami, dari Ibn Mubarak, dari Ma`mar dari al-Zuhri, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Nasa`i.

48. Riwayat al-Nasa`i.

(10274) أخبرنا محمد بن داود حدثنا زياد بن يونس عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن النبي ﷺ قال إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة.⁶¹⁰ رواه النسائي

Terjemahnya:

Muhammad bin Dawud memberitakan kepada kami, Ziyad bin Yunus menceriterakan kepada kami, dari Muhammad bin Ja`far dari M-sa bin Uqbah dari Abu Ishaq dari Abu Burdat dari

⁶⁰⁸ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 114.* nomor hadis 10265.

⁶⁰⁹ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 115.* nomor hadis 10272

⁶¹⁰ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 115.* nomor hadis 10274

Bapaknya sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Nasa`i.

49. Riwayat al-Nasa`i.

(10275) أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي الْحَرِّ الْكِنْدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ مَا أَصْبَحْتَ غَدَاةً قَطُّ إِلَّا اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ.⁶¹¹ رواه النسائي

Terjemahnya:

Ibrahim bin Ya`q-b memberitakan kepadaku, Abu Na`im menceritakan kepada kami, al-Mugirat bin al-Har al-Kindi menceritakan kepada kami, dari Sa`id bin Abu Burdat dari Bapakny, dari Neneknya berkata: Rasulullah saw., datang dan kami dalam keadaan duduk lalu beliau bersabda: Kecuali engkau memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali. HR. al-Nasa`i.

3.Hadist tentang zikir istigfar 3 x (tiga kali)

1. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الْأَسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُولُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ.⁶¹² رواه مسلم

Terjemahnya:

Dawud bin Rusyaidi menceritakan kepada kami, al-Walid menceritakan kepada kami, dari al-Auzai dari Ammar (Rasysyad bin Abd Allah) dari Abu Asma`, dari Sauban berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila selesai melaksanakan shalatnya beliau beristigfar tiga kali, kemudian iamengucapkan: *Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta*

⁶¹¹ al-Nasa`i, *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, 115. nomor hadis 10275*

⁶¹² Muslim. *Sahih Muslim, kitab al-masajid wa mawadhi` al-salat, bab istihbab al-zikir ba`da al-salat wa bayan sifatuhu, nomor hadis 931.*

zaljalali wa al-ikram. dan berkata Walid kepada Auzai bagaimana dengan istigfar. maka berkata Auzai katakanlah *astagfirullah al-Adzim 3 kali*” HR. Muslim.

2. Riwayat al-Turmuzi.

276 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁶¹³ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Ahmad bin Muhammad bin M-sa menceritakan kepada kami, Abd Allah bin Mubarak menceritakan kepada kami, al-Auzai memberitakan kepada kami, Syaddad Abu Ammar menceritakan kepadaku, Abu Asma` al-RahAbuyyu menceritakan kepadaku, berkata; Sauban maula Rasulullah saw.,menceritakan kepadaku berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., apabila selesai melaksanakan shalatnya beliau istigfar tiga kali kemudian ia mengucapkan: *Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram.* HR.al-Turmuzi.

3. Riwayat al-Nasa`i.

1320 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁶¹⁴ رواه النسائي

Terjemahnya:

⁶¹³ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab al-salat, bab ma yaq-lu al-rajul iza salam*, juz II, h. 5. nomor hadis 276.

⁶¹⁴ al-Nasa`i. *Sunan al-Nasai, kitab al-sahwu, bab al-istigfar ba`da al-taslim juz V, h. 141. nomor hadis 1320.*

Mahm-d bin Khalid memberitakan kepada kami, berkata; al-Walid menceriterakan kepada kami, dari Abu Amr al-Auza`i berkata; Syaddad Abu Ammar menceriterakan kepadaku, sesungguhnya Aba Asm a` al-RahAbu menceriterakan sesungguhnya mendengar Sauban mawla Rasulullah saw., menceriterakan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: *Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram*. HR.al-Nasa`i.

4. Riwayat Ibn Majah..

918 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ حَدَّثَنِي ثُوْبَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَعْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁶¹⁵ رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: *Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram*. HR.Ibn Majah.

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

21331 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغْبِرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَعْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁶¹⁶ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: *Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram*. HR.Ahmad ibn Hanbal.

⁶¹⁵ Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah, kitab iqamah al-salat wa al-sunnah fiha, bab ma yaq-lu ba`da al-taslim, juz III, h. 182. nomor hadis 918.*

⁶¹⁶ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi musnad al-Anjar, bab hadis Sauban radiyallahu anhu juz 45, h. 346. nomor hadis 21331.*

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

21374 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالِقَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ حَدَّثَنِي ثَوْبَانٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.⁶¹⁷ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam.... mengucapkan: *Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram.* HR.Ahmad ibn Hanbal.

7. Riwayat al-Nasa'i.

(1260) أخبرني محمود بن خالد ثنا الوليد عن أبي عمرو يعني الاوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار أن أبا أسماء الرحي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث أن رسول الله ﷺ كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام الذکر بعد الاستغفار.⁶¹⁸ رواه النسائي

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam.... mengucapkan: *Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram.* HR.al-Nasa'i.

8. Riwayat al-Nasa'i.

(9967) أخبرني محمود بن خالد قال حدثني الوليد عن أبي عمرو قال حدثني شداد أبو عمار أن أبا أسماء الرحي حدثه انه سمع ثوبان يحدث أن رسول الله ﷺ كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا

⁶¹⁷ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Anjar, bab hadis Sauban radiyallahu anhu juz 45, h. 389. nomor hadis 21374

⁶¹⁸ al-Nasa'i. *Sunan al-Kubra li al-Nasa'i*, kitab Sunan al-Kubra li al-Nasa'i, bab juz I, h. 397. nomor hadis 1260.

وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.⁶¹⁹ رواه النسائي

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam.... mengucapkan:
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram. HR.al-Nasa`i

9. Riwayat al-Darimi.

1399 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغْبِرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ شَدَّادِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» . رواه الدارمي⁶²⁰

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam.... mengucapkan:
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram. HR.al-Nasa`i.

10. Riwayat Abu Awanah.

1637 - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيِّ قَالَ : ثنا بشر بن بكر قال : أخبرني الأوزاعي قال : حدثني أبو عمار شداد قال : حدثني أبو أسماء الرحبي قال : حدثني ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال : كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ، ثم يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . رواه أبي عوانة⁶²¹

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam.... mengucapkan:
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram. HR.Abi Awanah.

⁶¹⁹ al-Nasa`i. *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, h. 41.* nomor hadis 9967.

⁶²⁰ al-Darimi. *Sunan al-Darimi, kitab al-salat, bab al-qaul ba`da al-salam, juz IV, h. 152.* nomor hadis 1399.

⁶²¹ Abi Awanah. *Mustakhraj Abi Awanah, kitab bab fi al-salat baina al-azan wa iqamah fi salat magrib wa gairuhu, bab zakara al-akhbar allati lubayyinu qa-l, juz IV, h. 395.* nomor hadis 1637.

11. Riwayat Ibn Hibban.

2037 – أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، ببيت المقدس ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، قال : حدثنا الوليد ، وعمر هو ابن عبد الواحد ، قالوا : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثني شداد أبو عمار ، قال : حدثني أبو أسماء الرحبي ، قال : حدثني ثوبان ، قال : « كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينصرف من الصلاة ، استغفر ثلاث مرات ، ثم قال : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام »⁶²². رواه ابن حبان

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan:
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram. HR.Ibn Hibban.

12. Riwayat Ibn Khuzaimah.

714 – نا محمد بن مسكين اليمامي ، والحسن بن إسرائيل اللؤلؤي الرملي قالوا : حدثنا بشر بن بكر قال اللؤلؤي قال : حدثني ، وقال اليمامي قال : أخبرنا الأوزاعي قال : حدثني أبو عمار ، حدثني أبو أسماء الرحبي ، حدثني ثوبان ، مولى رسول الله ﷺ قال : كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ، ثم قال : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام »⁶²³. رواه ابن خزيمة

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan:
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram. HR.Ibn Khuzaimah

13. Riwayat Ibn Khuzaimah.

715 – ناه محمد بن ميمون المكي ، نا عمرو بن هاشم البيروتي ، حدثني الأوزاعي ، حدثني أبو عمار ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ ، أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يسلم

⁶²² Ibn Hibban. *Sahih Ibn Hibban, kitab al-salat, bab fasl fi al-qun-t, juz VIII*, h. 494. nomor hadis 2037.

⁶²³ Ibn Khuzaimah. *Sahih Ibn Khuzaimah, kitab al-salat, bab al-istigfar ma`a al-sama`i ala Allah ba`da al-salam min al-salat, juz III*, h. 203. nomor hadis 714.

Hadis-Hadis Tentang Zikir

من الصلاة استغفر ثلاثا ، ثم قال : « اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، ثم يسلم .⁶²⁴ رواه ابن خزيمة

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan:
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram. HR.Ibn Khuzaimah.

14. Riwayat al-Tabrani.

1058 – حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق ، ثنا عبد الوهاب بن الضحاک ، ثنا إسماعيل بن عياش ، حدثني راشد بن داود الصنعاني ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان ، مولى رسول الله ﷺ ، قال : « كان رسول الله ﷺ إذا قضى صلاته استغفر ثلاثا ، ثم قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال (1) والإكرام .⁶²⁵ رواه الطبراني

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan:
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta zaljalali wa al-ikram. HR.al-Tabrani.

C.Hadis Tentang Bilangan Zikir

1.Hadis Tentang Menghitung Zikir dengan Jari-Jari Tangan.

1.Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَنَّا بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

⁶²⁴ Ibn Khuzaimah. Sahih Ibn Khuzaimah, kitab al-salat, bab al-istigfar ma`a al-sama`i ala Allah ba`da al-salam min al-salat, juz III, h. 204. nomor hadis 715.

⁶²⁵ al-Tabrani. *Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, kitab ma intaha ilaina min musnad Basri bin al-²la`i akhi Abdullah, bab ma intaha ilaina min musnad Rasyid bin Dawud, juz III, h. 488. nomor hadis 1058.*

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ. ⁶²⁶ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Muhammad ibn Abdi al-A`la menceriterakan kepada kami, Assam ibn Ali menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy dari Atha` ibn al-Saib dari Bapaknya dari Abd Allah ibn Amr ra berkata: Aku melihat Rasulullah saw., menghitung ketika ia bertasbih. HR. Al-Turmuzi.

2. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ. ⁶²⁷ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Muhammad ibn Abdi al-A`la Basri menceriterakan kepada kami, Assam ibn Ali menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy dari Atha` ibn al-Saib dari Bapaknya dari Abd Allah ibn Amr ra berkata: Aku melihat Nabi saw., menghitung dengan tangannya ketika ia bertasbih. HR. Al-Turmuzi.

3. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ فِي آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَثَامُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ بِيَمِينِهِ. ⁶²⁸ رواه ابو داود

Terjemahnya:

Ubaidillah ibn Umar ibn Maisarah dan Muhammad ibn Qudamah menceriterakan kepada kami, Assam ibn Ali menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy dari Atha` ibn al-Saib dari Bapaknya dari Abd Allah ibn Amr ra berkata: Aku

⁶²⁶ al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat `an Rasulillah, bab minhu*, nomor hadis 3333.

⁶²⁷ al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat `an Rasulillah, bab ma ja`a fi Aqdi al-tasbih bi al-yadi*, nomor hadis 3408.

⁶²⁸ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-`alat, bab al-Tasbih bilhasiyyi*, nomor hadis 1284.

melihat Rasulullah saw., menghitung tasbih.berkata Ibn Qudamah. Dengan tangannya. HR. Abu Dawud.

4.Riwayat al-Baihaqi.

(حدثنا) أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الاعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه.⁶²⁹ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad menceriterakan kepada kami, Abu Bakar Ahmad ibn Ibrahim al-Isma`il memberitakan kepada kami, Abu Haf; Umar ibn al-Hasan menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Qudamah menceriterakan kepada kami, Assam ibn Ali menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy dari Atha` ibn al-Saib dari Bapaknya dari Abd Allah ibn Amr ra berkata: Aku melihat Rasulullah saw., menghitung tasbih dengan tangannya. HR.al-Baihaqi.

2. Hadis Tentang Menghitung zikir dengan buah-buahan atau Krikil

1. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هَلَالٍ حَدَّثَهُ عَنْ خُرَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ حَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أَخْبِرْكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ

⁶²⁹ Ab- Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn M-sa al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, Bab juz II, h. 187.*

ذَلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ.⁶³⁰ رواه أبو داود

Terjemahnya:

Ahmad ibn Salih menceritakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab menceritakan kepada kami, Amr memberitakan kepada kami, sesungguhnya Sa'id bin Abu Hilal menceritakan, dari Khuzaimah dari 'isyah binti Sa'd bin Abu Waqqas dari Bapaknya Rasulullah shalla Allahu 'alaihi wa sallam menemui seorang wanita sementara dihadapannya terdapat biji-bijian atau kerikil yang dipergunakan untuk bertasbih. Kemudian Nabi Shalla Allahu 'alaihi wa sallam berkata: "Aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang lebih mudah bagimu dari pada ini dan lebih utama!" Lalu beliau mengucapkan: "subhaanallaahi 'adada maa khalaqa fis samaai wa subhaanallaahi 'adada maa khalaqa fil ardhi wa subhaanallaahi 'adada maa khalaqa baina dzaalika wa subhaanallaahi 'adada maa huwa khaaliquun, wallaahu akbaru mitslu dzaalika, wal hamdu lillaahi mitslu dzaalika wa laa ilaaha illallaahu mitslu dzaalika wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahi mitslu dzaalika" (Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit, dan Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi, dan Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya dan Maha Suci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan, dan Allah Maha Besar seperti itu, segala puji bagi Allah seperti itu, dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah seperti itu, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah seperti itu)..... HR. Abu Dawud.

2. Riwayat al-Turmuzi.

3491 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ خُرَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا تَوَى أَوْ قَالَ حَصَى تُسَيِّحُ بِهِ فَقَالَ أَلَا أَخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ

⁶³⁰ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud, kitab al-ʿalat, bab bi al-hasiyyi*, nomor hadis. 1282.

فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ.⁶³¹ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Ahmad ibn al-Hasan menceritakan kepada kami, Asbag bin al-Farraj menceritakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab memberitakannya kepada kami, dari Amr ibn al-Haris memberitakannya, dari Sa'id bin Abu Hilal menceriterakannya, dari Khuzaimah dari Zisyah binti Sa'd bin Abu Waqqas dari Bapaknyanya. "Bahwa dia (Sa'ad) bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas HR. Al-Turmuzy).

3. Riwayat al-Hakim.

1967 – حدثناه إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني ، ثنا حرمة بن يحيى ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن سعيد بن أبي هلال ، حدثه ، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، عن أبيها ، أنه دخل مع النبي ﷺ على امرأة وبين يديها نوى ، أو حصى أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل ؟ قولي : سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض تسبح ، فقال : « سبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ».⁶³² رواه الحاكم

Terjemahnya:

Isma'il ibn Ahad al-Jurjani menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-Hasan bin Qutaibah al-Asqalani menceritakan kepada kami, Harmalat bin Yahya

⁶³¹ al-Turmuzy, *Sunan al-Turmuzy, kitab al-Da'wat `an Ras-lillah, bab fi al-du`a al-Nabi saw., wa ta-zuhu*, juz XI, h. 483. nomor hadis 3491.

⁶³² al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-`ahihain, kitab bismillahir rahmani, al-rahim awwal kitab wa al-manasik, bab wa amma hadis Rafi' ibn Hudaij, juz V, h. 65. nomor hadis 1967.*

menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab memberitakan kepada kami, Amr ibn al-Haris memberitakan kepadaku, dari Sa`id bin Abu Hilal menceriterakannya, dari ʿisyah binti Sa`d bin Abu Waqqas dari Bapaknya “Bahwa dia (Sa’ad) bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas HR. al-Hakim

4. Riwayat al-Baihaqi.

624 – أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو ، عن سعيد بن أبي هلال ، حدثه ، عن خزيمة ، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ، عن أبيها أنه دخل مع رسول الله ﷺ على امرأة وبين يديها نوى ، أو حصى تسبح فقال : أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل ؟ فقال : « سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك .⁶³³ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Ali al-Husain bin Muhammad memberitakan kepada kami, Muhammad bin Bakar memberitakan kepada kami, Abu Dawud menceriterakan kepada kami, Ahmad bin Salih menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab menceriterakan kepada kami, dari Amr, dari Sa`id bin Abu Hilal menceriterakannya, dari Khuzaimah dari ʿisyah binti Sa`d bin Abu Waqqas dari Bapaknya “Bahwa dia (Sa’ad) bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah

⁶³³ Ab- Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn M-sa al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman, Kitab fasl fi idamati zikrullah azza wajalla, bab subhanallah adada ma khalaqa fi al-sama`i*, juz II, h. 166.nomor hadis 624.

kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas HR. al-Baihaqi.

5. Riwayat Abu Ya`la.

683 – حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن سعيد بن أبي هلال ، حدثه ، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ، عن أبيها ، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ، وبين يديها نوى وحصى تسبح ، فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ، أو أفضل ؟ قول : سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ».⁶³⁴ رواه أبي يعلى

Terjemahnya:

Harun bin Ma`r-f menceritakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab menceritakan kepada kami, Amr ibn al-Haris memberitahkan kepadaku, dari Sa`id bin Abu Hilal menceritakankannya, dari Khuzaimah dari `isyah binti Sa`d bin Abu Waqqas dari Bapaknya “Bahwa dia (Sa`ad) bersama Rasulullah Shallallahu `Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu `Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas HR.Abu Ya`la

6. Riwayat Ibnu Hibban.

838 – أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، قال : حدثنا حرمة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، أن سعيد بن أبي هلال حدثه ، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ، عن أبيها ، أنه دخل مع رسول الله ﷺ على امرأة في يدها نوى أو حصى ،

⁶³⁴ Abi Ya`la, *Musnad Abi Ya`la al-Ma-suli, kitab musnad Sa`ad bin Abi Waqqas, bab subhanallah adada ma khalaqa fi al-sama`i*, juz II, h. 190. nomor hadis 683.

تسبح ، فقال : « ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل ؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ».⁶³⁵ رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Abd Allah bin Muhammad bin Salam memberitakan kepada kami, Harmalat bin Yahya menceriterakan kepada kami, Ibn Wahab menceritakan kepada kami, Amr ibn al-Haris memberitakan kepadaku, dari Sa'id bin Abu Hilal menceriterakannya, dari Khuzaimah dari 'isyah binti Sa'd bin Abu Waqqas dari Bapaknya "Bahwa dia (Sa'ad) bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas HR. Ibn Hibban

7. Riwayat Mawarid al-Dzamkan. juz I, h. 579.

موارد الظمان - (ج 1 / ص 579)
أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا حرمة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وفي يدها نوى أو حصى تسبح به فقال لها ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه موارد الظمان

Terjemahnya:

Ahmad ibn al-Hasan menceriterakan kepada kami, Asbag bin al-Farraj menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab

⁶³⁵ Ibnu Hibban, *ṣaḥih Ibn Hibban, kitab al-Riqaq, bab al-Azkar*, juz IV, h. 166. nomor hadis 838.

memberitakan kepada kami, dari Amr ibn al-Haris memberitakannya, dari Sa'id bin Abu Hilal menceriterakannya, dari Khuzaimah dari 'isyah binti Sa'd bin Abu Waqqas dari Bapaknya "Bahwa dia (Sa'ad) bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas HR. Mawarid al-Dzamman.

8, Riwayat al-Bazzar.

1071 - حدثنا عمر بن الخطاب ، قال : نا أصبغ بن الفرّج ، قال : نا ابن وهب ، قال : حدثني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها : أنه دخل مع رسول الله ﷺ على امرأة ، وبين يديها نوى أو حصى تسبح به ، فقال : « ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل » ، قالت : نعم ، قال : « قولني سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله كما هو أهله ، والله أكبر مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا حول ، ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ».⁶³⁶ رواه البزار

Terjemahnya:

Ahmad ibn al-Hasan menceriterakan kepada kami, Asbag bin al-Farraj menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab memberitakan kepada kami, dari Amr ibn al-Haris memberitakannya, dari Sa'id bin Abu Hilal menceriterakannya, dari Khuzaimah dari 'isyah binti Sa'd bin Abu Waqqas dari Bapaknya "Bahwa dia (Sa'ad) bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas HR. Al-Bazzar.

⁶³⁶ al-Bazzar. *Musnad al-Bazzar, Kitab wa amma yarwi Sa'id bin Abi Hilal 'an 'isyah, bab qauli subhanallah adada ma khalaqa fi al-sama'*, juz III, h. 481. nomor hadis 1071.

9. Riwayat al-Tabrani.

1632 – حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، ثنا أصبغ بن الفرج ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن خزيمة ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها ، رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله ﷺ على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل ، سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ».⁶³⁷ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Yahya ibn Usman bin Salih menceritakan kepada kami, Asbag bin al-Farraj menceritakan kepada kami, Ibn Wahab menceritakan kepada kami, Amr ibn al-Haris memberitakan kepadaku, dari Sa'id bin Abu Hilal menceriterakannya, dari Khuzaimah dari 'isyah binti Sa'd bin Abu Waqqas dari Bapaknya "Bahwa dia (Sa'ad) bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas HR. al-Tabrani.

10. Riwayat al-Baihaqi.

257 – أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا إسماعيل بن الفضل ، حدثنا أحمد بن عيسى المصري ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن سعيد بن أبي هلال ، حدثه عن خزيمة ، عن عائشة بنت سعد ، عن أبيها ، أنه دخل مع رسول الله ﷺ على امرأة ، وبين يديها نوى أو حصى تسبح ، فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل ؟ قولي

⁶³⁷ al-Tabrani, *al-Du`a li al-Tabrani*, kitab ma ja`a fi al-jawami` min tasbih, bab ukhbiruka bima huwa aisara alaika min haza wa afdal, juz IV, h. 396. nomor hadis 1632.

: سبحان الله عدد ما خلق في السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا إله إلا الله مثل ذلك ، ولا حول (1) ولا قوة إلا بالله مثل ذلك .»⁶³⁸ رواه البيهقي
Terjemahnya:

Abu al-Hasan Ali bin Ahmad Abdan menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn Ubaid al-Saffar ember takan kepada kami, Isma'il bin al-Fadl menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn Isa al-Misri menceriterakan kepada kami, Ibn Wahab menceriterakan kepada kami, dari Amr ibn al-Haris memberitakan kepadaku, dari Sa'id bin Abu Hilal menceriterakannya, dari Khuzaimah dari 'isyah binti Sa'd bin Abu Waqqas dari Bapaknya "Bahwa dia (Sa'ad) bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas
HR.al-Baihaqi

11. Riwayat Sa'ad ibn Abu Waqqas.

74 - حدثنا أحمد ، حدثني عبد الله بن أبي موسى ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن سعيد بن أبي هلال حدثه ، عن خزيمه ، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ، عن أبيها أنه دخل مع رسول الله ﷺ على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل قولي : سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق

⁶³⁸Ab- Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn M-sa al-Baihaqi. *al-da`wat al-Kabir li al-Baihaqi, kitab ma yastajibu min tasbih wa al-tahmid, bab subhanallah adada ma khalaqa fi al-sama'i, juz I, h. 289. nomor hadis 257.*

والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك».⁶³⁹ رواه سعد بن ابي وقاص

Terjemahnya:

Ahmad ibn al-Hasan menceritakan kepada kami, Asbag bin al-Farraj menceritakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab memberitakannya kepada kami, dari Amr ibn al-Haris memberitakannya, dari Sa'id bin Abu Hilal menceriterakannya, dari Khuzaimah dari 'isyah binti Sa'd bin Abu Waqqas dari Bapaknyanya "Bahwa dia (Sa'ad) bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas HR.

12. Musnad al-Jami`.

4095- عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهَا ؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، ﷺ ، عَلَى امْرَأَةٍ ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى ، أَوْ حَصَى ، تُسَبِّحُ بِهِ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا ، أَوْ أَفْضَلُ ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ.⁶⁴⁰

Terjemahnya:

Dari 'isyah binti Sa'd bin Abu Waqqas dari Bapaknyanya "Bahwa dia (Sa'ad) bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wanita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas HR.

⁶³⁹ Sa'ad ibn Abi Waqqas. *Musnad Sa'ad ibn Abi Waqqas*, kitab 'isyah binti Sa'ad, bab akhbiruka bima huwa aisara alaika min haza, juz I, h. 84. nomor hadis 74.

⁶⁴⁰ Musnad al-Jami`, kitab al-musnad al-Jami`, bab juz XIII, h. 189. nomor hadis 4095.

Hadis-Hadis Tentang Zikir

BAGIAN KELIMA HADIS-HADIS WAKTU BERZIKIR

A. Hadis Tentang Zikir Salat Fardu

1. Hadis tentang Zikir la ilaha illa Allah Setelah Salat Fardu

1. Riwayat Muslim.

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي
الرُّبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ الرُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ
وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ التَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ

كَرَهُ الْكَافِرُونَ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ
دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ.⁶⁴¹ رواه مسلم

Terjemahnya:

....Seusai shalat setelah salam, [Ibn Zubair] sering memanjatkan do'a; *laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qadiir, laa haula walaq quwwata illaa billaah, laa-ilaaha ilallaah walaq na'budu illaa iyyaah, lahun ni'matu walahul fadhlu walahuts tsanaa'ul hasan, laa-ilaaha illallaah mukhlisihiina lahud diina walau karihal kaafiruuna.*" (Tiada sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya selaga puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan Kami tidak beribadah selain kepada-Nya, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, hanya bagi-Nya ketundukan, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai)." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu mengeraskan suara dengan kalimat ini setiap selesai shalat." . HR. Muslim.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا
الِنَعْمَةَ وَلَا الْفَضْلَ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ
بِهِنَّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ.⁶⁴² رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Seusai shalat setelah salam, [Ibn Zubair] sering memanjatkan do'a; *laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qadiir, laa haula walaq quwwata illaa billaah, laa-ilaaha ilallaah walaq na'budu illaa iyyaah, lahun ni'matu walahul fadhlu walahuts tsanaa'ul hasan, laa-ilaaha illallaah mukhlisihiina lahud diina*

⁶⁴¹ Muslim, *çahih Muslim. Kitab al-masajid wa mawadhi` al-jalat, bab istajabah al-Çikr ba'da al-jala* nomor hadis 935.

⁶⁴² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* nomor hadis.

walau karihal kaafiruuna." (Tiada sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya selaga puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan Kami tidak beribadah selain kepada-Nya, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, hanya bagi-Nya ketundukan, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai)." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu mengeraskan suara dengan kalimat ini setiap selesai shalat.". HR. Ahmad bin Hanbal.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّلَوَاتِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالنِّعْمَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.⁶⁴³ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan *La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu*, *lahu al-mulk*, *walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir*, *la haula wala quwwata illa billah*, *la ilaha illallah* dan Tidak ada Tuhan yang disembah selainNya, bagiNya nikmat, dan bagiNya keutamaan, dan bagiNya pujian yang baik, tiada Tuhan selain Allah ikhlas bagiNya agama, dan walaupun orang kafir membencinya HR. Ahmad bin Hanbal

4. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْبَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أَهْلُ النِّعْمَةِ

⁶⁴³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab....nomor hadis.

وَالْفَضْلِ وَالْتَّنَاءِ أَحْسَنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ.⁶⁴⁴ رواه أبو داود

Terjemahnya:

bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan *La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu , lahu al-mulk, walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah* dan Tidak ada Tuhan yang disembah selainNya, bagiNya nikmat, dan bagiNya keutamaan, dan bagiNya pujian yang baik, tiada Tuhan selain Allah ikhlas bagiNya agama, dan walaupun orang kafir membencinya. HR. Abu Dawud.

5. Riwayat al-Nasa'i.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَجَاعٍ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنِ
الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَلَيَّ هَذَا الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَالْفَضْلِ وَالْتَّنَاءِ أَحْسَنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.⁶⁴⁵ رواه النسائي

Terjemahnya:

bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan *La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu , lahu al-mulk, walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah* dan Tidak ada Tuhan yang disembah selainNya, bagiNya nikmat, dan bagiNya keutamaan, dan bagiNya pujian yang baik, tiada Tuhan selain Allah ikhlas bagiNya agama, dan walaupun orang kafir membencinya. HR. al-Nasa'i.

⁶⁴⁴ Ab- Dawud Sulaiman bin al-Asy`as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-jalat, bab ma yaq-lu al-rajul i@a Salam*, , hadis nomor 1288.

⁶⁴⁵ Ab- Abd al-Rahman ibn Syu`aib al-Nasa`i , *Sunan al-Nasa`i, Kitab al-Sahwu, bab al-Tahlil Ba`da al-Taslim* , nomor hadis 1322

6. Riwayat al-Nasa'i.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهَلِّلُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ التَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.⁶⁴⁶ رواه النسائي

Terjemahnya:

bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan *La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahu al-mulk, walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah* dan Tidak ada Tuhan yang disembah selainNya, bagiNya nikmat, dan bagiNya keutamaan, dan bagiNya pujian yang baik, tiada Tuhan selain Allah ikhlas bagiNya agama, dan walaupun orang kafir membencinya. HR. al-Nasa'i.

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ التَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِمْ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.⁶⁴⁷ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan *La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahu al-mulk, walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah* dan Tidak ada Tuhan yang disembah selainNya, bagiNya nikmat, dan bagiNya keutamaan, dan bagiNya pujian yang baik, tiada Tuhan selain Allah ikhlas

⁶⁴⁶ Ab- Abd al-Rahman ibn Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, Kitab al-Sahwu, bab al-Tahlil Ba'da al-Taslim*, nomor hadis 1323

⁶⁴⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* nombin Hanbal, kitab ...nomor hadis.

bagiNya agama, dan walaupun orang kafir membencinya. HR. Ahmad bin Hanbal.

2. Hadis tentang *Zikir* Allahumma la mani`a lima `taita Setelah Salat Fardu

1. Riwayat al- Bukha>ri>.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَادِ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمَلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.⁶⁴⁸ رواه البخاري

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, berkata; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah ... kepada Mu`awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. al-Bukhari.

2. Riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَادِ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

⁶⁴⁸ Ab- Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari (disebut al-Bukhari), *ḥāhīh al-Bukhari, Kitāb al-Azan, bab al-ḥikr ba`da al-ḥalat*, nomor hadis 799.

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.⁶⁴⁹ رواه البخاري

Terjemahnya:

Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Mans-r, dari al-Musayyab bin Rafi`dari Warrad Mawla al-Mugirah bin Syu`bah berkata: al-Mugirah telah menuliskan kepada Mu`awiyah bin Abu Sufyan sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. al-Bukhari.

3.Riwayat al-Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمُغِيرَةَ اُكْتُبَ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ فَأَمَلِي عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.⁶⁵⁰ رواه البخاري

Terjemahnya:

Muhammad bin Sinan menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami, Abdah bin Abu Lubabah menceritakan kepada kami, dari Warrad mawla al-Mugirah bin Syu`bah berkata, Mu`awiyah telah menuiskan kepada al-Mugirah bin Syu`bah: Tulislah dariku aku mendengar Nabi saw., bersabda:..... Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak

⁶⁴⁹ Ab- Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari , *ṣahih al-Bukhari, Kitab al-da`wat, bab al-Du`a ba`da al-ḥalat*, nomor hadis 5855.

⁶⁵⁰ Ab- Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari , *ṣahih al-Bukhari, Kitab al-Qadr, bab laa maani`a lima a`tha Allah*, nomor hadis 6125

ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. al-Bukhari.

4. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَادِ مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ⁶⁵¹ رواه مسلم

Terjemahnya:

Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Jarir memberitakan kepada kami, dari Mansur dari al-Musayyab bin Rafi', dari Warrad maula al-Mugirah bin Syu'bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu'bah ... kepada Mu'awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. Muslim.

5. Riwayat Muslim.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمِيرٍ سَمِعَا وَرَادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ لَا كَتَبَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمُغِيرَةَ أَكْتُبُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

⁶⁵¹ Ab- al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisab-ri (disebut Imam Muslim), *ḥahih Muslim. Kitab al-masajid wa mawadhi` al-jalat, bab istajabah al-ḥikr ba`da al-jalat*, nomor hadis 933

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَّ
لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.⁶⁵² رواه مسلم

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, berkata; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah ... kepada Mu`awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. Muslim

6. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ
عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ كَتَبَ مُعَاوِيَةَ
إِلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَمْلَاهَا الْمُغِيرَةُ عَلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ
لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.⁶⁵³ رواه
أبو داود

Terjemahnya:

Musaddad menceritakan kepada kami, berkata; Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari Al-A`masy, dari al-Musayyab bin Rafi`, dari Warrad mawla al-Mugirah bin Syu`bah dari al-Mugirah bin Syu`bah, Mu`awiyah telah menuliskan kepada al-Mugirah bin Syu`bah tentang sesuatu bahwa Rasulullah saw., bersabda: Apabila salam dari salat ...

⁶⁵² Ab- al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisab-ri, *ḥāhīh Muslim. Kitāb al-masajid wa mawadhī` al-jalat, bab istajābah al-ḥamdi* nomor hadis 934.

⁶⁵³ Ab- Dawud Sulaiman ibn al-Asy`as al-Sijistani (disebut Abi Dawud), *Sunan Abi Dawud, Kitāb al-jalat, bab ma yaq-lu al-rajul iḥadīth al-Salam*, hadis nomor 1287

kepada Mu`awiyah sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya segala kekuasaan dan bagiNya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. Abu Dawud.

7. Riwayat al-Nasa'i.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ كِلَاهُمَا سَمِعَهُ مِنْ وَرَادِ كَاتِبِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَتْ وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعَتْ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .⁶⁵⁴ رواه النسائي

Terjemahnya:

Muhammad bin Mas-r menceritakan kepada kami, dari Sufyan berkata aku mendengarnya dari Abdat bin Abu Lubabah dan aku mendengarnya, dari Abd al-Malik bin A`yan, keduanya mendengar dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, Mu`awiyah menuliskan kepada al-Mugirah bin Syu`bah sesungguhnya aku mendengarnya dari Rasulullah saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya segala kekuasaan dan bagiNya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang

⁶⁵⁴ Ab- Abd al-Rahman ibn Syu`aib al-Nasa'i (disebut al-Nasa'i) , *Sunan al-Nasa'i, Kitab al-jahwu, bab Nawu` min al-qa-li inda inqi`a`*, nomor hadis 1324

bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. al-Nasa`i.

8.Riwayat al-Nasa`i .

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ وَرَادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ دُبْرَ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.⁶⁵⁵ رواه النسائي

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, berkata; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah ... kepada Mu`awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. al-Nasa`i.

9.Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُهُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ وَرَادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَادٌ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جِئِنِ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.⁶⁵⁶ رواه احمد بن حنبل

⁶⁵⁵ Ab- Abd al-Rahman ibn Syu`aib al-Nasa`i, *Sunan al-Nasa`i, Kitab al-;ahwu, bab Nawu` min al-qa-li` in da inqi`a`*, nomor hadis 1325.

⁶⁵⁶ Abu Abd Allah Ahmad bin Hambal (disebut Ahmad bin Hanbal) , *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Awwal al-Kufiyyin, bab hadisu al-Mugirat bin Syu`bah radhiyallahu anhu* hadis nomor 17437

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, berkata; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah ... kepada Mu`awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. Ahmad bin Hanbal.

10. Riwayat Ahmad bin Hambal.

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنِي وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَيَّ الْمُغِيرَةَ أَكْتُبُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَعَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.⁶⁵⁷ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, berkata; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah ... kepada Mu`awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. Ahmad bin Hanbal.

11. Riwayat Ahmad bin Hanbal .

⁶⁵⁷ Abu Abd Allah Ahmad bin Hambal (disebut Ahmad bin Hanbal) , *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Kitab Awwal al-Kufiyyin*, *bab hadisu al-Mugirat bin Syu`bah radhiyallahu anhu* hadis nomor 17456,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ
 بْنَ رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ
 إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ
 مِنْكَ الْجَدُّ.⁶⁵⁸ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, berkata; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah ... kepada Mu`awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. Ahmad bin Hanbal.

12. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ وَرَادٍ
 كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَكْتُبُ
 إِلَيْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي الْمُغِيرَةُ
 قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا
 انصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
 وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا
 مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.⁶⁵⁹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, berkata; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin

⁶⁵⁸ Abu Abd Allah Ahmad bin Hambal (disebut Ahmad bin Hanbal) , *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Awwal al-Kufiyyin, bab hadisu al-Mugirat bin Syu`bah radhiyallahu anhu* hadis nomor 17477

⁶⁵⁹ Abu Abd Allah Ahmad bin Hambal (disebut Ahmad bin Hanbal) , *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Awwal al-Kufiyyin, bab hadisu al-Mugirat bin Syu`bah radhiyallahu anhu* hadis nomor 17522

Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah ... kepada Mu`awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. Ahmad bin Hanbal.

13. Riwayat Ahmad bin Hanbal

وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالَ وَعَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَعَنْ
وَأَدِ الْبَنَاتِ وَعُفُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعِ وَهَاتِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ
عَنْ عَبْدِ عَنْ وَرَادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ
لِمَا مَنَعْتَ.⁶⁶⁰ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, berkata; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah ... kepada Mu`awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. Ahmad bin Hanbal.

14. Riwayat al-Darami.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَمَلَى عَلِيَّ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ فِي

⁶⁶⁰ Abu Abd Allah Ahmad bin Hambal (selanjutnya disebut Ahmad bin Hanbal) , *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Awwal al-Kufiyyin, bab hadisu al-Mugirat bin Syu`bah radhiyallahu anhu* hadis nomor 17523

كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ».⁶⁶¹ رواه الدارمي

Terjemahnya:

Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, berkata; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah ... kepada Mu`awiyah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menghalangi apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. al-Darimi.

B.Hadis-Hadis Tentang Zikir Setiap Saat

1. Hadis Tentang Zikir Setiap Saat.

1. Riwayat al-Bukhari.

بَاب تَقْضِي الْحَائِضِ الْمَنَاسِكَ كُلِّهَا إِلَّا الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ وَلَمْ يَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ بِالْفِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.⁶⁶² رواه البخاري

Terjemahnya:

²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. al-Bukhari.

2. Riwayat al-Bukhari.

⁶⁶¹ Ab- Muhammad Abd Allah ibn Abd al-Rahman ibn Fadl ibn Abd al-Samad al-Darimi (disebut al-Darimi), *Sunan al-Darimi*, juz IV bab al-Qawl Ba`da al-Salam nomor hadis 1400

⁶⁶² al-Bukhari. *ṣahih al-Bukhari*, kitab al-Haid, bab taqdi al-Haid al-manasik kulluha illa al-tawaf bi al-bait, juz II, h. 4.

بَاب هَلْ يَتَّبِعُ الْمُؤَدِّينَ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ وَيُذَكِّرُ
عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ
فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّينَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ
عَطَاءٌ الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَذَكِّرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.⁶⁶³ رواه البخاري

Terjemahnya:

²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. al-Bukhari>ri>.

3, Riwayat Muslim.

558 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَكِّرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
أَحْيَانِهِ.⁶⁶⁴ رواه مسلم

Terjemahnya:

Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ala'i, dan Ibrahim ibn M-sa menceriterakan kepada kami, Ibn Abu Zaidat menceriterakan kepada kami dari Bapaknya, dari Khalid bin Salamah dari al-Bahi, dari Urwat, dari ²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Muslim.

4. Riwayat Abu Dawud.

17 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ
سَلْمَةَ يَعْنِي الْفَأْفَاءَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَكِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.⁶⁶⁵ رواه
ابودود

Terjemahnya:

Muhammad ibn al-Ala'i menceriterakan kepada kami, Ibn Abu Zaidat menceriterakan kepada kami dari Bapaknya, dari Khalid bin Salamah dari al-Bahi, dari Urwat, dari ²isyah berkata;

⁶⁶³ al-Bukhari. *ṣahih al-Bukhari, kitab al-Azan, bab hal yattabi` al-muazzana, hahuna wa hahuna wa hal yultafit al-azan*, juz III, h. 10.

⁶⁶⁴ Muslim. *Sahih Muslim, kitab al-Haid, bab zakarallahu ta`ala fi halin al-janabati wa gairuha*, juz II, h. 297. nomor hadis 558.

⁶⁶⁵ Abi Dawud. *Sunan Abi Dawud, kitab al-Taharah, bab fi al-rajul yazkurullaju ta`ala ala gairi tahrin*, juz I, h. 27. nomor hadis 17.

sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Abu Dawud.

5. Riwayat al-Turmuzi.

3306 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.⁶⁶⁶ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Abu Kuraib dan Muhammad ibn Ubaidillah al-Muharibi menceritakan kepada kami, Yahya ibn Zakariya bin Abu Zaidat menceritakan kepada kami dari Bapaknya, dari Khalid bin Salamah dari al-Bahi, dari Urwat, dari ʿisyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. al-Turmuzi.

6. Riwayat Ibn Majah.

298 - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.⁶⁶⁷ رواه ابن ماجه

erjemahnya:

Suwaid ibn Sa'id menceritakan kepada kami, Yahya ibn Zakariya bin Abu Zaidat menceritakan kepada kami dari Bapaknya, dari Khalid bin Salamah al-Makhz-mi, dari al-Bahi, dari Urwat, dari ʿisyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Ibn Majah.

7. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

23274 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ الْمَخْرُومِيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

⁶⁶⁶ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab al-Da`wat `an Rasulillah, bab ma ja`a anna al-da`wata al-muslim mustajabah*, juz XI, h. 240. nomor hadis 3306.

⁶⁶⁷ Ibn Majah. *Sunan ibn Majah, kitab al-Taharah wa Sunanuha, bab zakarullah azza wajalla ala al-Khala`i wa al-Halin fi al-Khala`i*, juz I, h. 358. nomor hadis 298.

عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.⁶⁶⁸ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Khalaf ibn al-Walid menceritakan kepada kami, Yahya ibn Zakariya bin Abu Zaidat menceritakan kepada kami dari Bapaknyanya, dari Khalid bin Salamah al-Makhz-mi, dari al-Bahi, dari Urwat, dari ʿisyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Ahmad ibn Hanbal.

8. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

24044 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ عَنِ الْبُهَيْيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.⁶⁶⁹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Khalaf ibn al-Walid menceritakan kepada kami, Yahya ibn Zakariya bin Abaidat menceritakan kepada kami dari Bapaknyanya, dari Khalid bin Salamah al-Makhz-mi, dari al-Bahi, dari Urwat, dari ʿisyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Ahmad ibn Hanbal

9. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

25172 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْبُهَيْيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.⁶⁷⁰ رواه احمد بن حنبل

⁶⁶⁸ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad al-Anjar, bab hadis al-sayyidat ʿisyah radiyallahu anha*, juz 49, h. 430. nomor hadis 23274.

⁶⁶⁹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad al-Anjar, bab baqi musnad al-Sabiq*, juz 51, h. 207. nomor hadis 24044.

⁶⁷⁰ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad al-Anjar, bab baqi musnad al-Sabiq*, juz 53, h. 330. nomor hadis 25172.

Terjemahnya:

Al-Walid menceriterakan kepada kami, berkata; Zakariya menceriterakan kepada kami berkata; Khalid bin Salamah menceriterakan kepada kami, dari al-Bahi, dari Urwat, dari ʿIsyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Ahmad ibn Hanbal.

10. Riwayat al-Baihaqi.

(اخبّرنا) أبو سعد احمد بن محمد الماليني انا أبو احمد بن عدى الحافظ نا أبو عروبة ثنا أبو كريب ثنا يحيى بن زكريا بن ابى زائدة عن ابيه عن خالد بن سلمة عن البهى (1) عن عروة عن عائشة قالت كان النبي ﷺ يذكر الله على كل احيانه.⁶⁷¹ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Sa'id Ahmad ibn Muhammad memberitakan kepada kami, Abu Ahmad ibn Adi menceriterakan kepada kami, Abu Ur-bat menceriterakan kepada kami, Abu Kuraib menceriterakan kepada kami, Ibn Abu Zaidat menceriterakan kepada kami, dari Khalid bin Salamah dari al-Bahi, dari Urwat, dari ʿIsyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. al-Baihaqi.

11. Riwayat Abu Awanah.

440 - حدثنا معاوية بن صالح الدمشقي قال : ثنا يحيى بن معين قال : أنبا ابن أبي زائدة ح ، وحدثنا أبو أمية قال : ثنا معلى بن منصور قال : أنبا ابن أبي زائدة قال : أخبرني أبي ، عن خالد بن سلمة ، عن البهى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ». ⁶⁷² رواه أبي عوانة

Terjemahnya:

Muawiyah bin shalih al-Dimasyqi menceriterakan kepada kami, berkata; Yahya ibn Ma'in menceriterakan kepada kami, berkata; Ibn Abu Zaidah memberitakan kepada kami, bapakku memberitakan kepadaku, dari Khalid bin Salamah dari al-Bahi, dari Urwat, dari ʿIsyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Abu Awanah.

⁶⁷¹ al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, bab juz I, h. 90.*

⁶⁷² Abi Awanah. *Mustakhraj Abi Awanah, kitab muftada` kitab al-taharah, bab bayan ma yaq-l inda al-dukh-l ala al-Khala`i wa al-dalil ala la-ibahah zukira, juz I, h. 499. nomor hadis 440.*

12. Riwayat Abu Ya`la.

4579 - حدثنا أبو كريب ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن خالد بن سلمة ، عن البهي ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ « يذكر الله على كل أحيانه ».⁶⁷³ رواه أبي يعلى

Terjemahnya:

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ibn Abu Zaidat menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Salamah dari al-Bahi, dari Urwat, dari ²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Abu Ya`la.

13. Riwayat Ibn Huzaimah.

209 - نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ، وعلي بن مسلم قالوا : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن خالد بن سلمة ، عن البهي ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه ».⁶⁷⁴ رواه ابن خزيمة

Terjemahnya:

Muhammad bin al-Ala`i ibn Kuraib al-Hamdani, dan Ali ibn Muslim menceritakan kepada kami, Ibn Abu Zaidat menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Salamah dari al-Bahi, dari Urwat, dari ²isyat berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Ibn Abu Huzaimah.

14. Riwayat al-Baihaqi.

221 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب قال : حدثنا الحسين بن محمد بن زياد القباني قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن زائدة ، عن أبيه ، عن

⁶⁷³ Abi Ya`la. *Musnad Abi Ya`la al-Maus-li, kitab Sa`id ibn Sinan, an Anas ibn Malik, bab yazkurullahu ala kulli ahyanihi, juz IX, h. 464.* nomor hadis 4579.

⁶⁷⁴ Ibn Huzaimah. *Sahih Ibn Huzaimah, kitab al-wudu`, bab jama` abwab fadl al-tathir wa al-istihbab min gairi ijab, juz I, h. 382.* nomor hadis 209.

خالد بن سلمة ، عن البهي ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه » .⁶⁷⁵ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Abd Allah al-Hafiz memberitakan kepada kami, berkata; Abu al-Fadl al-Hasan ibn Ya`q-b memberitakan kepada kami, berkata; al-Husain ibn Muhammad ibn Ziyad al-Qibani menceriterakan kepada kami, berkata; Abu Kuraib menceriterakan kepada kami, berkata; Yahya ibn Zakariya menceriterakan kepada kami, dari Bapaknya, dari Khalid bin Salamah dari al-Bahi, dari Urwat dari 2isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. al-Baihaqi.

C.Hadis Tentang Zikir Pada Waktu Pagi Dan Petang.

1.Hadis Tentang Zikir Pagi dan petang.

1. Riwayat Muslim.

4858 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سَهَيْلٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.⁶⁷⁶ رواه مسلم

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Malik al-Umawi menceriterakan kepadaku, Abd al-Aziz bin al-Mukhtar menceriterakan kami, dari Suhail dari Summi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada pagi dan sore subhanallah wa bihambih 100 kali maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan seperti itu atau lebih dari itu." ,..... HR.Muslim.

2. Riwayat al-Turmuzi.

⁶⁷⁵ al-Baihaqi. *Ma`rifat al-Sunan wa al-2sar li al-Baihaqi*, kitab zakarallahu azza wajalla ala gairi wudu`i, bab yazkurullaha ala kulli ahyanih rawahu Muslim fi al-jahih, juz I, h. 264. nomor hadis 221.

⁶⁷⁶ Muslim. Sahih Muslim, kitab al-zikr wa al-du`a wa al-ta-bat wa al-istigfar, bab fadl al-tahlil wa al-tasbih wa al-du`a, juz XIII, h. 202. nomor hadis 4858.

3393 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحَمِيرِيُّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ حُمْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَمَنْ حَمَدَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قَالَ عَزَا مِائَةَ عَزْوَةٍ وَمَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَادٍ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَى بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ.⁶⁷⁷ رواه الترمذي

Terjemahnya:

Muhammad bin Wasir al-Wasiti menceritakan kepada kami, Abu Sufyan al-Himyari menceritakan kepada kami, dari al-Dahhak bin Humrat dari Amr bin Syu'aib dari Bapaknya dari Neneknya berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa bertasbih kepada Allah seratus kali pagi dan petang..... HR. al-Turmuzi.

3. Riwayat al-Turmuzi.

3391 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.⁶⁷⁸ رواه الترمذي

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Malik al-Sywarib menceritakan kepada kami, Abd al-Aziz bin al-Mukhtar menceritakan kami, dari Suhail dari Summi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada pagi dan sore subhanallah wa bihamdih 100

⁶⁷⁷ al-Turmuzi . *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Rasulillah, bab ma ja`a fi fadl al-tasbih wa al-takbir wa al-tahlil wa al-tahmid*, juz XI, h. 374. nomor hadis 3393.

⁶⁷⁸ al-Turmuzi . *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Rasulillah, bab ma ja`a fi fadl al-tasbih wa al-takbir wa al-tahlil wa al-tahmid*, juz XI, h. 372. nomor hadis 3391.

kali tidak datang pada hari kiamat, kecuali.....atasnya. HR. al-Turmuzi.

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.⁶⁷⁹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad menceritakan kepada kami, berkata; Isma`il bin Zakariya menceritakan kami, dari Suhail bin Abu Salih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada pagi dan sore subhanallah wa bihambih 100 kali tidak datang pada hari kiamat, kecuali.....atasnya. HR. Ahmad bin Hanbal.

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.⁶⁸⁰ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad menceritakan kepada kami, berkata; Isma`il bin Zakariya menceritakan kami, dari al-Hasan bin al-Hakam al-Nah`i, dari Adi bin Sabit, Abu Hazim dari Abi Harairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan diwaktu pagi dan sore subhanallah wa bihamdihi 100 kali tidak datang seorang pada hari kiamat ,, kecuali seseorang berakat seperti apa yang diucapkan atau tambahan atasnya. HR. Ahmad bin Hanbal.

⁶⁷⁹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab baqi al-musnad al-sabiq nomor hadis 8479

⁶⁸⁰ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab baqi al-musnad al-sabiq nomor hadis 8480.

6. Riwayat al-Nasa`i.

(10403) أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَصْبِحُ وَحِينَ يَمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ نَوْعَ آخَرَ.⁶⁸¹ رواه النسائي

Terjemahnya:

Zakariya bin Yahya memberitakakan kepada kami, Ibn Abu al-Syawareib menceriterakan kepada kami, Abd al-Aziz bin al-Mukhtar menceriterakan kami, dari Suhail bin Abu Salih dari Summi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada pagi dan sore subhanallah wa bihamdih 100 kali tidak datang pada hari kiamat, kecuali.....atasnya. HR. al-Nasa`i.

2. Hadis tentang Zikir *Hasbiyallahu la ilaha illa huwa.*

1. Riwayat Abu Dawud.

4418 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُتَعَدِّدِينَ قَالَ حَدَّثَنَا مُدْرِكُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ يَزِيدُ شَيْخٌ ثِقَةٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.⁶⁸² رواه ابى داود

Terjemahnya:

Yazid bin Muhammad al-Dimasyqi menceriterakan kepada kami, Abd al-Razzaq bin Muslim al-Dimasyqi menceriterakan kepada kami, Mudrik bin Sa`d, dari Yunusbin Maisarat bin Halbas, dari Ummu al-Darda` dari Abu al-Darda` ra. Berkata : "Barang siapa yang ketika pagi dan sore mengucapkan; *hasbiyallaah laa ilaaha*

⁶⁸¹ al-Nasa`i. *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, h. 146. nomor hadis 10403.*

⁶⁸² Ab- Dawud. *Sunan Abi Dawud, kitab al-Adab, ba b ma yaq-lu iza asbaha, juz XIII, h.275.. nomor hadis 4418.*

illa huwa 'alaihi tawakkaltu wahuwa rabbul 'arsyil 'azhiim (cukuplah Allah bagiku tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakkal karena Dialah Rabb pemilik 'Arsy yang agung) tujuh kali, maka Allah akan mencukupkan (menyelamatkannya) dari kesusahan-kesusahan yang membelitnya, baik dia mengucapkannya secara jujur, atau pura-pura (tanpa ada niat, spontan).".... HR. Abu Dawud.

3. Hadis Tentang Zikir: *Allahumma Inni Asbahtu asyhaduka*. pada Waktu Pagi.

1. Riwayat Abu Da>wud.

4416 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمَسِّي غُفِرَ لَهُ مَا أَصَابَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.⁶⁸³ رواه ابوداود

Artinya:

Amr bin Usma>n menceritakan kepada kami, Baqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Ma>lik berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa saat waktu pagi membaca: *'allahumma inni ashbahtu usyhiduka wa usyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jamii'a khalqika annaka antaallahu laa ilaaha illa anta wahdaka laa syariika laka anna muhammadan abduka wa rasuuluka* (Ya Allah, aku berada di waktu pagi bersaksi atas-Mu, dan kepada para pembawa Arsy-Mu, kepada semua malaikat, dan kepada semua makhluk-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau semata, tidak ada sekutu bagi-Mu. Dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu). ' Kecuali akan dihapuskan dari dosa yang ia lakukan pada hari itu. Dan jika ia membacanya pada waktu sore, maka akan dihapuskan semua dosa yang ia lakukan pada malam itu." ... HR. Abu Da>wud.

⁶⁸³ Ab- Dawud. *Sunan Abi Dawud, kitab al-Adab, bab ma yaq-lu iza asbaha*, juz XIII, h. 273, nomor hadis 4416.

2. Riwayat Abu Da>wud.

4407 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْعَازِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ مَكْحُولِ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ جِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمَسِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.⁶⁸⁴ رواه ابوداود

Artinya:

Amr bin Usma>n menceritakan kepada kami, Baqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Ma>lik berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Barangsiapa ketika waktu pagi dan sore hari membaca: *allahumma inni ashbahtu usyhiduka wa usyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jamii'a khalqika annaka antallahu laa ilaaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuuluka* (Ya Allah, aku berada di waktu pagi bersaksi atas-Mu, dan kepada para pembawa Arsy-Mu, kepada semua malaikat, dan kepada semua makhluk-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu.) maka Allah akan membebaskan seperempat tubuhnya dari neraka, dan barangsiapa mengucapkannya sebanyak dua kali maka Allah akan membebaskan separuh tubuhnya dari neraka, dan barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali maka Allah akan membebaskan tiga perempat tubuhnya dari neraka, dan barangsiapa membacanya sebanyak empat kali maka Allah akan membebaskan semua anggota badannya dari neraka."... HR. Abu Da>wud.

3. Riwayat al-Turmuzi>.

3423 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْحِمِصِيُّ عَنْ بَوَيْتَةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ

⁶⁸⁴ Ab- Dawud. *Sunan Abi Dawud, kitab al-Adab, bab ma yaq-lu iza asbaha*, juz XIII, h. 264, nomor hadis 4407

أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ
 اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا نَشْهَدُكَ وَنُشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ
 بِأَنَّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ
 وَرَسُولُكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ
 يُمَسِّي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ.⁶⁸⁵ رواه
 الترميذي

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceritakan kepada kami, Baqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barang siapa pada pagi hari mengucapkan: "*allaahumma ashbahnaa nusyhiduka wa nusyhidu hamalata 'arsyika wa malaikataka wa jamii'a khalqika biannakallaahu laa ilaaha illaa antallaahu wahdaka laa syariikalak, wa anna muhammadan 'abduka wa rasuuluk*" (Ya Allah, di pagi ini kami meminta persaksianMu dan persaksian para Malaikat pembawa 'arsyMu serta para MalaikatMu yang lain dan seluruh makhlukMu bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Allah semata, tidak ada sekutu bagiMu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanMu) melainkan Allah mengampuni dosa yang telah ia lakukan pada hari itu, dan apabila ia mengucapkannya ketika sore hari maka Allah mengampuni apa yang telah ia lakukan pada malam hari."... HR. Abu Dawud.

4. Riwayat al-Nasa>'i>

(9837) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقرية بن الوليد قال حدثني مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي ﷺ قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله ﷺ من قال حين يصبح اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وإن محمدا عبدك ورسولك اعتق الله

⁶⁸⁵ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Ras-lillah, bab ma ja`a fi aqdi al-Tasbih bi al-yadi*, juz XI, h. 406, nomor hadis 3423.

ربعه ذلك اليوم من النار فإن قالها أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار.⁶⁸⁶ رواه النسائي

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceritakan kepada kami, Baiqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka*, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud.

5. Riwayat al-Nasa>'i>.

(9838) أخبرني عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد عن بقية عن مسلم بن زياد قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدا ورسولك إلا غفر الله له ما أصاب من ذنب وان هو قالها حين يمسي غفر الله له ما أصابه يعني تلك الليلة نوع آخر.⁶⁸⁷ رواه النسائي

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceritakan kepada kami, Baiqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka*, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud.

6. Riwayat al-Tabra>ni>.

7409 - حدثنا محمد بن جابان ، ثنا محمد بن مهران الجمال ، ثنا بقية بن الوليد ، عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي ﷺ قال : سمعت

⁶⁸⁶ Al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, kitab *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, bab juz VI, h. 6, nomo hadis 9837.

⁶⁸⁷ Al-Nasa`i, *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, kitab *al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, bab juz VI, h. 6, nomo hadis 9838.

أنس بن مالك يقول : قال رسول الله ﷺ : « ما من رجل يقول إذا أصبح : اللهم إني أصبحت أشهدك ، وأشهد حملة عرشك وملائكتك ، وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، إلا غفر الله له ما أصاب من ذنب في يومه ذلك ، وإن قالها إذا أمسى غفر الله له ما أصاب في ليلته تلك ».⁶⁸⁸ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceritakan kepada kami, Baqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka*, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud.

7. Riwayat al-Bukha>ri>.

1243 - حدثنا إسحاق قال : حدثنا بقرية ، عن مسلم بن زياد ، مولى ميمونة زوج النبي ﷺ ، قال : سمعت أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « من قال حين يصبح : الله إنا أصبحنا نشهدك ، ونشهد حملة عرشك ، وملائكتك وجميع خلقك ، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، إلا أعتق الله ربه في ذلك اليوم ، ومن قالها مرتين أعتق الله نفسه من النار ، ومن قالها أربع مرات أعتقه الله من النار في ذلك اليوم ».⁶⁸⁹ رواه البخاري

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceritakan kepada kami, Baqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma*

⁶⁸⁸ Al-Tabrani, *al-Mu`jam al-A-sat li al-Tabrani, kitab bab al-Ain, bab al-mim min ismihi Muhammad*, juz XV, h. 485. nomor hadis 7409

⁶⁸⁹ al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad li al-Bukhari, kitab bab* juz IV, h. 319, nomor hadis 1243.

inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud.

8. Riwayat al-Tabra>ni>.

1512 - حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ، ثنا أحمد بن صالح ، ح وحدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح ، ثنا جعفر بن مسافر ، قالوا : ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، حدثني عبد الرحمن بن عبد المجيد ، عن هشام بن الغاز ، عن مكحول ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله ﷺ قال : « من قال حين يصبح وحين يمسي : اللهم إني أصبحت أشهدك ، وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ، أنك أنت الله لا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار ، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ، ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه ، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار . »⁶⁹⁰ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceritakan kepada kami, Baqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud.*

9. Riwayat al-Tabra>ni>

269 - حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ، ثنا أحمد بن صالح ، ح وحدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري ، ثنا عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي ، قالوا : ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، حدثني عبد الرحمن بن عبد المجيد ، عن هشام بن الغاز ، عن مكحول ، عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه أن رسول الله

⁶⁹⁰ al-Tabrani, *Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, kitab ma intaha ilaina min musnad Bisyr bin al-Ala`i akhi Abdullah, bab ma intaha ilaina min musnad Hasyim bin al-Gazi bin Rabi`ah al-Juruzi, juz V, h. 127, nomor hadis 1512.*

ﷺ قال : « من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني أصبحت ، أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله ، وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ، أعتق الله عز وجل ربه من النار ، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه ، ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه ، ومن قالها أربعاً أعتقه الله عز وجل من النار .»⁶⁹¹ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceritakan kepada kami, Baqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka*, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud.

10.Riwayat al-Baihaqi>.

39 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمي ، عن هشام بن الغاز ، عن مكحول ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله ﷺ قال : « من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني أصبحت أشهدك ، وأشهد حملة عرشك ، وملائكتك ، وجميع خلقك ، أنك أنت الله ، لا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، أعتق الله ربه من النار ، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه ، ومن قالها ثلاث مرات أعتق الله ثلاثة أرباعه ، ومن قالها أربعاً أعتقه الله من النار .»⁶⁹² رواه البيهقي

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceritakan kepada kami, Baqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku

⁶⁹¹ al-Tabrani, *al-Du`a li al-Tabrani*, kitab bab *al-qa-l inda al-sabah wa al-masa*, bab *man qala hina yusbih aw yamsi*, *allahumma inni asbahtu*, juz I, h. 304, nomor hadis 269.

⁶⁹² al-Baihaqi, *al-Da`wat li al-Baihaqi*, kitab *al-Da`wat li al-Baihaqi*, bab *man qala hina yusbih aw yamsi*, *allahumma inni asbahtu*, juz I, h. 42. nomor hadis 39.

mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka*, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud.

11. Riwayat Ibn Abi> Syai>bah.

22 - حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن عبد الرحمن بن عبد المجيد ، عن هشام بن الغاز ، عن مكحول ، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال : « من قال حين يصبح وحين يمسي : اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك ، وحملة عرشك ، وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربه من النار ، فإن قالها أربع مرات أعتقه الله من النار ».⁶⁹³ رواه ابن شيبه

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceritakan kepada kami, Baqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka*, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud.

12. Riwayat al-Syuyu>kh al-Awa>li> Ali> bin Umar al-Harabi>.

59 - أخبرنا علي قال : ثنا جعفر ، قال : ثنا صالح بن مسمار الرازي ، بمكة ، ثنا ابن أبي فديك ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن هشام بن الغاز ، عن مكحول ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله ﷺ قال : « من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا عبدك ورسولك : أعتق الله ربه من النار ، ومن قالها مرتين أعتق الله نفسه ، ومن قالها ثلاث

⁶⁹³ Ibn Abi Syaibah. *Al-Arsy wa ma Ruwiya Fihī Ibn Abi Syaibah, kitab al-Arsy wa ma Ruwiya Fihī, bab man qala hina yusbiḥ wa hina yamsi, juz I, h. 24, nomor hadis 22.*

مرات أعتق الله ثلاثة أرباعه ، فإن قالها أربعا أعتقه الله عز وجل من النار».⁶⁹⁴ رواه علي بن عمر الحربي

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Alla>h la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka*, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud.

13. Riwayat Ibn al-Sinni>

70 - أخبرنا أبو عبد الرحمن ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرني بقية بن الوليد ، حدثني مسلم بن زياد ، مولى ميمونة وج النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : قال رسول الله ﷺ : « من قال حين يصبح : اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك ، وملائكتك وجميع خلقك ، أنك أنت الله لا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار ، فإن قال أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار».⁶⁹⁵ رواه ابن السني

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa*

⁶⁹⁴ al-Syuy-kh al-Awali Ali bin Umar al-Harabi. *Al-Fawaid al-Muntaqah `an al-Syuy-kh al-Awali Ali bin Umar al-Harabi. Kitab Al-Fawaid al-Muntaqah `an al-Syuy-kh al-Awali Ali bin Umar al-Harabi, bab man qala hina yusbih aw yamsi, allahumma inni asbahtu*, juz I, h. 60, nomor hadis 59.

⁶⁹⁵ Ibn al-Sinni, *Amal al-Yaum wa al-Lail li Ibn al-Sinni, kitab naw²khar, bab man qala hina yusbih , allahumma inni asbahtu*, juz I, h. 130, nomor hadis 70.

anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud.

14. Riwayat Ibn al-Sinni>.

736 - أخبرنا أبو بكر بن أبي داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، وجعفر بن مسافر ، قالوا : ثنا ابن أبي فديك ، أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد ، - وقال جعفر عبد الحميد - عن هشام بن الغاز بن ربيعة ، عن مكحول الدمشقي ، عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك ، وملائكتك وجميع خلقك ، أنك أنت الله لا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، أعتق الله ربه من النار ، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ، ومن قالها أربعا أعتقه الله عز وجل من النار ».⁶⁹⁶ رواه ابن السنني

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceritakan kepada kami, Baqiyat menceritakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Da>wud.*

15. Riwayat Tamma>m.

781 - أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبيد الله بن الحارث ، ثنا محمد بن هارون بن بكار ، ثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا هشام بن الغاز ، عن أبان بن أبي عياش ، عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال : « من قال حين يصبح : أصبحت أشهدك ، وحملة عرشك ، وملائكتك ، وجميع خلقك ، أنك أنت الله وحدك لا شريك لك ، أعتق الله عز وجل ربه من النار ، فإن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ، فإن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار ، فإن قالها

⁶⁹⁶ Ibn al-Sinni, *Amal al-Yaum wa al-Lail li Ibn al-Sinni, kitab naw²khar, bab man qala hina yusbih , allahumma inni asbahtu, juz III, h. 404, nomor hadis 736.*

أربعاً أعتقه الله من النار ، ومن قالها حين يمسي فمثل ذلك
 «⁶⁹⁷ رواه فوائد تمام

Terjemahnya:

Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh; *Allahumma inni> asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Alla>h la> ila>ha illa> anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa ras-luka*, kecuali diampuni padanya...
 HR. Abu Dawud.

4.Hadis Tentang Zikir *Akhir surat al-Hasyr 3x.*

1. Riwayat al-Turmuzi>.

2846 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ الْخَقَافُ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.⁶⁹⁸ رواه الترميذي

Terjemhanya:

Mahmu ibn Gailan menceriterakan kepada kami, Abu Ahmad al-Zubair menceriterakan kepada kami, Khalid ibn Tahman menceriterakan kepada kami, Nafi` ibn Abi Nafi` menceriterakan kepadaku, dari Ma`qil ibn Yassar dari Nabi saw., bersabda: "Barangsiapa membaca tiga kali di pagi hari, *a'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajim* kemudian membaca tiga ayat terakhir surat Al Hasyr, maka dengannya Allah akan menugaskan tujuh puluh ribu malikat untuk mendoakannya hingga sore hari dan bila ia meninggal pada hari itu, ia mati dalam keadaan syahid dan

⁶⁹⁷ Fawaid al-Tammam, juz II, h. 280, nomor hadis 781

⁶⁹⁸ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab fadhail al-Qur`an `an Ras-lillah, bab ma ja`a fiman qara`a harfan min al-Qur`an malihi min al-ajr*, juz X, h. 164.

barangsiapa mengucapkannya di sore hati, kedudukannya sama seperti itu.".... HR al-Turmuzi.

2.Riwayat Ahmad bin Hanbal.

19419 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأَ الثَّلَاثَ آيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.⁶⁹⁹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abu Ahmad al-Zubairi menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, Nafi` ibn Abu Nafi`, dari Ma`qil bin Yassar, dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa pada waktu subuh tiga kali ' auzu billahi al-sami`i al-alim mina al-syaitani al-rajim, dan membaca tiga ayat akhir surat al-Hasyr..... HR. Ahmad bin Hanbal.

3.Riwayat al-Darimi.

3488 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ الْخَفَّافُ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ قَالَهَا مَسَاءً فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ».⁷⁰⁰ رواه الدارمي

Terjemahnya:

Abu Ahmad al-Zubairi menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, Nafi` ibn Abu Nafi`, dari Ma`qil bin Yassar, dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa pada waktu subuh tiga kali ' auzu billahi al-sami`i al-alim mina al-

⁶⁹⁹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab musnad al-Basariyyin, bab hadis Ma`qil bin Yassar radiyallahu anhu, juz 41, h. 254, nomor hadis 19419

⁷⁰⁰ al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, kitab wa min kitab fadhail al-Qur`an, bab fi fadhil hamim al-Dukhan wa al-hawamin wa al-musbahat, juz X, h. 322, nomor hadis 3488.

syaitani al-rajim, dan membaca tiga ayat akhir surat al-Hasyr..... HR. Ahmad bin Hanbal.

4.Riwayat al-Tabrani.

16927 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ مَرَارٍ آخِرَ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، فَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ".⁷⁰¹ رواه الطبران

Terjemahnya:

Abu Ahmad al-Zubairi menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, Nafi` ibn Abu Nafi`, dari Ma`qil bin Yassar, dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa pada waktu subuh tiga kali 'auzu billahi al-sami'i al-alim mina al-syaitani al-rajim, dan membaca tiga ayat akhir surat al-Hasyr..... HR. Ahmad bin Hanbal.

5.Riwayat Ibn Basyran.

208 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْجَابِ الطَّيْبِيِّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الضَّرِيرِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبِيرِي ، ثنا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ الْخَفَافِ ، ثنا نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَقَرَأَ الثَّلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا ، وَمَنْ قَرَأَ حِينَ يُمْسِي فَبِتِلْكَ الْمَنْزِلَةَ ». ⁷⁰² رواه ابن بشار

Terjemahnya:

Abu Ahmad al-Zubairi menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, Nafi` ibn Abu Nafi`, dari Ma`qil bin Yassar, dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa pada

⁷⁰¹ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, bab juz XV*, h. 164, nomor hadis 16927.

⁷⁰² Ibn Basyran, *Amali Ibn Basyran, kitab bab, juz I*, h. 220, nomor hadis 208.

waktu subuh tiga kali ' auzu billahi al-sami`i al-alim mina al-syaitani al-rajim, dan membaca tiga ayat akhir surat al-Hasyr..... HR. Ahmad bin Hanbal.

6. Riwayat al-Tabrani.

278 - حدثنا محمد بن السري بن مهران الناقد ، ثنا عمرو بن محمد الناقد ، ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، قالوا : ثنا أبو أحمد الزبير ، ثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف ، عن نافع بن أبي نافع ، عن معقل بن يسار ، رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « من قال حين يصبح : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم (1) وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله عز وجل به ملائكة يحفظونه حتى يمسي ، وإن قالها مساء فمثل ذلك » .⁷⁰³ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Abu Ahmad al-Zubairi menceriterakan kepada kami, Khalid menceriterakan kepada kami, Nafi` ibn Abu Nafi`, dari Ma`qil bin Yassar, dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa pada waktu subuh tiga kali ' auzu billahi al-sami`i al-alim mina al-syaitani al-rajim, dan membaca tiga ayat akhir surat al-Hasyr..... HR. Ahmad bin Hanbal.

D.Hadis Tentang Zikir Ketika Selesai Azan

1. Hadis Tentang Zikir Ketika Selesai Azan

1. Riwayat Muslim.

579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْفَرَشِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

⁷⁰³ al-Tabrani, *al-Du`a li al-Tabrani*, kitab bab al-qa-l inda al-sabah wa al-masa, bab man qala hina yusbih auzu billahi al-sami` al-alim min, juz I, h. 313, nomor hadis 278.

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا غَيْرَ لَهُ ذَنْبُهُ.
704 رواه مسلم

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya dosanya akan diampuni." . HR. Muslim

2. Riwayat Abu Dawud.

441 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا غَيْرَ لَهُ.
705 رواه ابو داود

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya dosanya akan diampuni." . HR. Abu Daud

3. Riwayat al-Turmuzi.

194 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

⁷⁰⁴ ṣahih Muslim, kitab al-salat bab istihbab al-qaul al-muazzan liman yasmauhu summa yusalli, juz II, h. 329. nomor hadis 579.

⁷⁰⁵ Abi Dawud. Sunan Abi Dawud, kitab al-salat, bab ma yaq-lu iza sami`a al-muazzana juz II, h. 121, nomor hadis 441.

لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.⁷⁰⁶ رواه الترميذي

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, 'niscaya dosanya akan diampuni.". HR. Tirmizi

4. Riwayat al-Nasa`i.

672 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.⁷⁰⁷ رواه النسائي

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, 'niscaya dosanya akan diampuni.". HR Nasai

5. Riwayat Ibn Majah.

713 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أُنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ

⁷⁰⁶ *al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab al-salat bab ma yaq-lu al-rajul iza azzana al-muazzana mina al-du`a juz I, h. 355, nomor hadis 194.*

⁷⁰⁷ *al-Nasa`i. Sunan al-Nasa`i, kitab al-azan bab al-du`a inda al-azan juz III, h. 71, nomor hadis 672.*

مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا
غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.⁷⁰⁸ رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, 'niscaya dosanya akan diampuni.". HR. Ibnu Majah

6. Riwayat al-Nasa`i.

(وأخبرنا) أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا
قتيبة ثنا الليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن
سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ﷺ قال من قال حين يسمع
المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده
ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر
له.⁷⁰⁹ رواه البيهقي

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, 'niscaya dosanya akan diampuni.

7. Riwayat al-Nasa`i.

أنبا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله
ﷺ قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

⁷⁰⁸ Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah, kitab al-azan al-sunnah fihi bab ma yuqal iza azzana al-muazana* juz II, h. 421, nomor hadis 713.

⁷⁰⁹ al-Nasa`i. *Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz I, h. 410.*

شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام ديننا غفر له ذنبه.⁷¹⁰ رواه النسائي

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya dosanya akan diampuni."

8. Riwayat al-Nasa`i.

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد عن رسول الله ﷺ قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد ﷺ رسولا وبالاسلام ديننا غفر له ذنبه.⁷¹¹ رواه النسائي

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya dosanya akan diampuni."

9. Riwayat al-Hakim.

685 - حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا أبو عبد الله العبدى ، وحدثنا أبو الوليد حسان بن محمد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ومحمد بن نعيم ، قالوا : ثنا قتيبة ، ثنا الليث بن سعد ، عن الحكم بن عبد الله بن قيس المدائني ، عن عامر بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص ، عن رسول الله ﷺ ، قال : « من قال حين سمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا

⁷¹⁰ al-Nasa`i. *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz I, h.511, nomor hadis 1643*

⁷¹¹ al-Nasa`i. *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, h.23, nomor hadis 9901.*

إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ، وبالإسلام ديننا ، غفر له ذنبه »⁷¹². رواه الحاكم

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya dosanya akan diampuni."

10. Riwayat Abu Awanah.

770 - حدثنا الربيع بن سليمان قال : ثنا شعيب بن الليث ح ، وحدثنا الصغاني ، ومحمد بن عامر قال : ثنا يحيى بن إسحاق السالحي قال : ثنا الليث بن سعد ، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ، عن عامر بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله ﷺ : « من سمع المؤذن قال - وقال ابن عامر من قال حين يسمع المؤذن - : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، رضيت بالله ربا وبالإسلام ديننا وبمحمد نبيا .⁷¹³ رواه ابي عوانة

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: barang siapa mendengar muadzdzin 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya dosanya akan diampuni."HR. Abi Iwanah

11. Riwayat Abu Ya`la.

694 - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا ليث بن سعد ، عن الحكم بن عبد الله بن قيس ، قال أبو خيثمة : - وبعضهم يقول : حكيم بن عبد الله - ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه سعد ، عن النبي

⁷¹² al-Hakim. Al-Mustadrak ala al-çahihain, kitab al-salat bab fi fadl al-salawat al-hamz juz II, h. 233, nomor hadis 685.

⁷¹³ Abi Awanah. Mustakhraj Abi Awanah, kitab al-salat bab bayan sawab man qala iza sami`a al-muazzana yuazzin; asyhadu, juz II, h. 392, nomor hadis 770.

ﷺ أنه قال : « من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبمحمد رسولا ، وبالإسلام ديننا ، غفر له ذنبه ».⁷¹⁴ رواه ابي يعلي

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, 'niscaya dosanya akan diampuni."

12. Riwayat Ibn Hibban.

1722 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيدي ، ببست ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن رسول الله ﷺ ، قال : « من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبالإسلام ديننا ، وبمحمد ﷺ رسولا ، غفر له ما تقدم من ذنبه ».⁷¹⁵ رواه ابن حبان

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, 'niscaya dosanya akan diampuni."

13. Riwayat Ibn Khuzaimah.

⁷¹⁴ Abi Ya`la. *Musnad Abi Ya`la al-Mawsuli*, kitab musnad Sa`ad bin Abi Waqqas bab man qala hina yasmau al-muazzana wa ana asyhadu an la juz II, h. 201, nomor hadis 694.

⁷¹⁵ Ibn Hibban. *ṣahih Ibn Hibban*, kitab al-salat bab al-azan juz VII, h. 383, nomor hadis 1722.

414 - نا الربيع بن سليمان المرادي ، نا شعيب يعني ابن الليث ، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا أبي ، وشعيب قالوا : حدثنا الليث ، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن سعد بن أبي وقاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبمحمد رسولا ، وبالإسلام ديننا ، غفر له ذنبه »⁷¹⁶. رواه ابن خزيمة

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, 'niscaya dosanya akan diampuni."

14. Riwayat Ibn Khuzaimah.

415 - نا زكريا بن يحيى بن إياس ، نا سعيد بن عفير ، حدثني يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن المغيرة ، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا رسول الله ، رضيت بالله ربا ، وبالإسلام ديننا ، غفر له ما تقدم من ذنبه »⁷¹⁷. رواه ابن خزيمة

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah

⁷¹⁶ Ibn Khuzaimah. *ḥāhīh Ibn Khuzaimah, kitab al-salat bab fadilah al-syahadat lillah azza wajalla biwahdaniyyah wa li al-Nabi saw.*, juz II, h. 226.nomor hadis 414.

⁷¹⁷ Ibn Khuzaimah. *ḥāhīh Ibn Khuzaimah, kitab al-salat bab fadilah al-syahadat lillah azza wajalla biwahdaniyyah wa li al-Nabi saw.*, juz II, h. 226.nomor hadis 415.

hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, 'niscaya dosanya akan diampuni."

15. Riwayat Abdu bin Humaid.

144 - حدثنا وهب بن جرير ، ثنا ليث بن سعد ، عن حكيم بن عبد الله ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال حين يسمع النداء : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ، غفر له ذنبه .⁷¹⁸ رواه عبد بن حميد

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, 'niscaya dosanya akan diampuni."

16. Riwayat al-Baihaqi.

642 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو منصور محمد بن القاسم العتكي قال : أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي قال : أخبرنا عبد العزيز الدراوردي ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد ، عن العباس بن عبد المطلب ، أنه : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ، وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ».⁷¹⁹ رواه البيهقي

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa

⁷¹⁸ Abdu bin Humaid. *Musnad Abdu bin Humaid. musnad Abi Sa`ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu bab man qala hina yasma`u al-Nida` ; wa ana asyhadu* juz I, h. 153, nomor hadis 144.

⁷¹⁹ al-Baihaqi. *Ma`rifat al-Sunan wa al-²sar li al-Baihaqi, kitab al-salat bab al-qa-l misla ma yaq-lu al-muazzin , juz II, h. 271, nomor hadis 642.*

tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata.....,"

17. Riwayat al-Baihaqi.

عن ابن أبي عمر ، وبشر بن الحكم ، عن عبد العزيز . وروينا عن سعد بن أبي وقاص ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من قال : حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا ، وبالإسلام ديننا غفر له » .⁷²⁰ رواه البيهقي

Terjemahnya:

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, 'niscaya dosanya akan diampuni."

E. Hadis-Hadis Tentang Zikir Menjelang Tidur, Penghujung Malam, Bangun Tidur.

1.Hadis Tentang *zikir* menjelang Tidur

1. Riwayat al-Turmuzi.

3449 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يُدْرِكَهُ النَّعَاسُ لَمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.⁷²¹ رواه الترميذي

Terjemah:

⁷²⁰ al-Baihaqi. *Ma`rifat al-Sunan wa al-²sar li al-Baihaqi, kitab al-salat bab al-qa-l misla ma yaq-lu al-muazzin*, juz II, h. 271.

⁷²¹ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Ras-lillah, bab minhu*, juz XI, h. 433.nomor hadis 3449.

"Barang siapa yang pergi menuju tempat tidurnya dalam keadaan menyebut nama Allah hingga ia mengantuk, maka tidaklah ia berbalik sesaat pada waktu malam untuk memohon sesuatu kepada Allah berupa kebaikan dunia dan akhirat melainkan Allah mengabulkannya."

2. Riwayat Abd al-Razzaq.

19837 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ (1) عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْعَجَلِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا وَنَامَ ذَاكِرًا ، كَانَ فِرَاشِهِ مَسْجِدًا ، وَكَانَ فِي صَلَاةٍ وَذَكَرَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَمَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ غَيْرَ طَاهِرٍ وَنَامَ غَيْرَ ذَاكِرٍ ، كَانَ فِرَاشِهِ قَبْرًا ، وَكَانَ جِيْفَةً حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.⁷²² رواه عبد الرز

al-Nasa`i.

(10641) أَخْبَرَنَا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد عن ثابت وعاصم عن شهر عن أبي ظبية عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله تعالى حتى تغلبه عيناه فتعار من الليل لم يسأل الله تعالى خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه.⁷²³ رواه النسائي

4. Riwayat al-Tabrani.

7447 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْجِمَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يُدْرِكَهُ النَّعَاسُ، لَمْ يَتَغَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ".⁷²⁴ رواه الطبراني

5. Riwayat Ibn al-Sinni.

⁷²² Abd al-Razzaq, Musannaf Abd al-Razzaq, kitab Musannaf Abd al-Razzaq bab juz XI, h. 37. nomor hadis 19837.

⁷²³ al-Nasa`i. *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i*, kitab *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i*, bab, juz VI, h. 201. nomor adis 10641.

⁷²⁴ Al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, kitab *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, bab juz II, h. 134. nomor hadis 7447.

717 - أخبرني أحمد بن جعفر بن رزين الحمصي ، حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا ابن أبي حسين ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة الباهلي ، رضي الله عنه قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « من أوى إلى فراشه طاهرا ، وذكر الله عز وجل حتى يدركه النعاس ، لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله عز وجل فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه »⁷²⁵ رواه السنني

2. Hadis Tentang zikir dipenghujung Malam.

1. Riwayat al-Turmuzi.

3503 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنُ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ.⁷²⁶ رواه الترميذي

Terjemah:

"Waktu yang paling dekat antara Rab dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir, maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berdzikir kepada Allah (shalat) pada waktu itu. lakukanlah!"

2. Riwayat al-Nasa`i.

568 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى سُلَيْمٌ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ نَعِيمٌ بْنُ زِيَادٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَبْسَةَ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنَ الْآخِرَى أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغَى

⁷²⁵ Ibn al-Sunni, *Amal al-Ya-m wa al-Lailah li Ibn al-Sunni*, kitab *naw`khar*, bab *man awa ila firasyihi tahiran wa zakarallagu azza wajalla*, juz III, h. 374. nomo hadis 717.

⁷²⁶ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi*, kitab *al-da`wat`an Rasulillah*, bab *fi al-du`a al-dha`if*, juz XI, h. 498. nomor hadis 3503.

ذَكَرُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةً مَشْهُودَةً إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدُ رُمْحٍ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسَجَّرُ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَفِيءَ الْفِيءُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيْبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ.⁷²⁷ رواه النسائي

Terjemah:

"Wahai Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, apakah ada waktu yang lebih dekat (kepada Allah) dari pada yang lain? Atau apakah ada waktu yang lebih baik untuk berdzikir kepadanya?" Beliau Shallallahu'alaihi wasallam menjawab; "Ya, waktu yang paling dekat antara Allah Azza wa Jalla dengan hambanya adalah pertengahan malam yang terakhir. Jika engkau mampu menjadi bagian dari orang yang berdzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah, karena ketika itu dihadiri dan disaksikan (oleh para malaikat) sampai matahari terbit. Dan matahari terbit diantara dua tanduk setan dan itulah waktu ibadahnya orang-orang kafir, maka tinggalkanlah shalat hingga matahari mulai meninggi seukuran tombak dan sinarnya mulai menyebar. Kemudian shalat saat itu dihadiri dan disaksikan (oleh para malaikat) hingga matahari tegak seperti tegaknya tombak pada pertengahan hari, karena saat itulah pintu-pintu neraka Jahannam dibuka dan dinyalakan apinya, maka tinggalkanlah shalat hingga terlihat bayangan (suatu benda), kemudian shalat saat itu dihadiri dan disaksikan (oleh para malaikat) hingga matahari terbenam, karena matahari terbenam diantara dua tanduk setan dan itulah waktu ibadahnya orang-orang kafir."

3. Riwayat al-Baihaqi.

(اخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني انبأ ابن وهب اخبرني معاوية بن صالح حدثني سليم بن عامر وضمرة بن حبيب ونعيم بن زياد عن ابي

⁷²⁷ al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i, kitab al-mawaqit, bab al-nahyu`an salat ba`da al-asr*, juz II, h. 408. nomor hadis 568.

امامة الباهلي قال حدثني عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال اتيت رسول الله ﷺ وهو نازل بعكاظ فقلت يا رسول الله هل من دعوة اقرب من اخرى أو ساعة نبغي أو نبتغي ذكرها قال نعم ان اقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن.⁷²⁸ رواه البيهقي

3. Riwayat al-Hakim.

1110 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، ثنا ابن وهب ، أخبرني معاوية بن صالح ، حدثني سليم بن عامر ، وضمرة بن حبيب ، ونعيم بن زياد ، عن أبي أمامة الباهلي ، قال : حدثني عمرو بن عبسة ، قال : أتيت رسول الله ﷺ وهو نازل بعكاظ ، فقلت : يا رسول الله هل من دعوة أقرب من أخرى ، أو ساعة تبقى ، أو ينبغي ذكرها ؟ قال : « نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف (1) الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن » « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ».⁷²⁹ رواه الحاكم

4. Riwayat Ibn Huzaimah.

1085 - ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، ثنا ابن وهب ، أخبرني معاوية بن صالح ، حدثني أبو يحيى وهو سليم بن عامر ، وضمرة بن حبيب ، وأبو طلحة هو نعيم بن زياد ، عن أبي أمامة الباهلي قال : حدثني عمرو بن عبسة قال : أتيت رسول الله ﷺ وهو نازل بعكاظ ، فذكر الحديث ، وقال : فقلت : يا رسول الله فهل من دعوة أقرب من أخرى ، أو ساعة ؟ قال : « نعم ، إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن ».⁷³⁰ رواه ابن حزيمة

⁷²⁸ al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, kitab Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, bab juz III, h. 4.*

⁷²⁹ al-Hakim. *Mustadrak ala al-Sahihain li al-Hakim. Kitab min kitab al-salat al-tatawwu`, bab aqrabu ma yak-nu al-rabb min al-ibad jaufi al-lail al-akhar, juz III, h. 181. nomor hadis 1110.*

⁷³⁰ Ibn Huzaimah. *Sahih ibn Huzaimah, kitab jama` abwab zikir al-witr wa fih min al-sunnah, bab jama` abwab salat al-tatawwu` bi al-lail, juz IV, h. 335. nomor hadis 1085.*

5. Riwayat al-Tabrani

590. - حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا صدقة بن خالد ، ثنا عبد الرحمن بن يزيد ، ثنا أبي ، عن عمرو بن عبسة ، عن النبي ﷺ ، قال : « أقرب ما يكون الرب من العبد جوف (1) الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فافعل ».⁷³¹ رواه الطبراني

5. Riwayat al-Tahawi.

3343 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثني معاوية بن صالح الحمصي ، قال : حدثني أبو يحيى ، قال أبو جعفر ، وهو سليم بن عامر الخبائري ، وضمرة بن حبيب ، وأبو طلحة ، عن أبي أمامة الباهلي ، قال : حدثني عمرو بن عبسة السلمي ، قال : قال لي رسول الله ﷺ : « إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف (1) الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فافعل ؛ فإن الصلاة محضرة مشهودة إلى طلوع الشمس ، فإذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وهي ساعة صلاة الكفار ، فدع الصلاة حتى ترتفع ، ويذهب شعاعها » قال معاوية : وأما ضمرة ، فقال : « حتى ترتفع قيد رمح ، ثم الصلاة محضرة مشهودة إلى أن ينتصف النهار ، وإنها ساعة تفتح أبواب جهنم وتسجر ، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء ، ثم الصلاة محضرة مشهودة إلى غروب الشمس ، فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وهي ساعة صلاة الكفار ».⁷³² رواه الطحاوي

3.Hadis Tentang zikir *La ilaha illallah* ketika bangun malam.

1. Riwayat Bukhari.

⁷³¹ al-Tabrani. Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, kitab ma intaha ilaina min musnad Abd al-Rahman bin Yazid bin Jabir, bab Ibn Jabir `an abihi, juz II, h. 316. nomor hadis 590.

⁷³² al-Tahawi. Musykil al-²sar li al-Tabrai, kitab bayan musykil ma ruwiya `an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, juz VIII, h. 463. nomor hadis 3343.

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قَبِلَتْ صَلَاتُهُ.⁷³³ رواه البخاري

Terjemahnya:

Sadaqah bin al-Fadl menceritakan kepada kami, al-Walid (Ibn Muslim) memberitakan kepada kami, al-Awza'i menceritakan kepada kami, Umair bin Hani menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, Ubadah bin al-Samit menceritakan kepadaku dari Nabi saw., bersabda "Siapa yang bangun di malam hari lalu membaca "laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir. Alhamdulillah wa subhaanallah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar wa laa jaula wa laa quwwata illa billah" (Tidak ada ilah yang berhaq disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagiNya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginNya segala pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah dan tidak ada ilah kecuali Allah dan Allah Maha Besar dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Dia") Kemudian dilanjutkan dengan membaca "Allahummaghfirlii" ("Ya Allah ampunilah aku") atau berdo'a, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwudhu' lalu shalat maka shalatnya diterima".....HR. al-Bukhari.

2.Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ الْعَنْسِيُّ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ

⁷³³Al-Bukhari, *ṣahih al-Bukhari, kitab.... bab Fadl man Ta'arra min al-Lail Faḥalli*, nomor hadis 1086.

اغْفِرْ لِي أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَاهُ اسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ عَزَمَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى ثُقُبَاتٍ صَلَاتُهُ⁷³⁴. رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Sadaqah bin al-Fadl menceritakan kepada kami, al-Walid (Ibn Muslim) memberitakan kepada kami, al-Awza'i menceritakan kepada kami, Umair bin Hani menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, Ubadah bin al-Samit menceritakan kepadaku dari Nabi saw., bersabda "Siapa yang bangun di malam hari lalu membaca "laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir. Alhamdulillah wa subhaanallah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar wa laa jaula wa laa quwwata illa billah" (Tidak ada ilah yang berhaq disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagiNya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginNya segala pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.,HR. al-Bukhari.

3. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي جُبَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ دَعَا رَبَّ اغْفِرْ لِي قَالَ الْوَلِيدُ أَوْ قَالَ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ⁷³⁵. رواه أبو داود .

Terjemahnya:

Sadaqah bin al-Fadl menceritakan kepada kami, al-Walid (Ibn Muslim) memberitakan kepada kami, al-Awza'i menceritakan kepada kami, Umair bin Hani menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, Ubadah bin al-Samit menceritakan kepadaku dari Nabi saw., bersabda.....maka ucapkanlah:

⁷³⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab....bab hasi£ Ubadah ibn al-çamit ra.* Nomor hadis 21619.

⁷³⁵ Ab- Dawud, *Sunan Abi Dawud, kitab.... bab ma yaq-l al-Rajul iza ta`arra min al-Lail,* nomor hadis 4401.

Tiada Tuhan selain Allah, Allah itu Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, Maha Suci atas Allah, dan Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, kemudian berkata; Ya Allah ampunilah dosaku.....HR. al-Bukhari.

4. Riwayat al-Turmuzi .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ عَزَمَ فَنَوَّضًا ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ⁷³⁶ رواه الترميذی .

Terjemahnya:

Sadaqah bin al-Fadl menceritakan kepada kami, al-Walid (Ibn Muslim) memberitakan kepada kami, al-Awza`i menceritakan kepada kami, Umair bin Hani menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, Ubadah bin al-Samit menceritakan kepadaku dari Nabi saw., bersabda.....maka ucapkanlah: Tiada Tuhan selain Allah, Allah itu Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, Maha Suci atas Allah, dan Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, kemudian berkata; Ya Allah ampunilah dosaku.....HR. al-Bukhari.

5. Riwayat Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَّ

⁷³⁶ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab....bab ma Ja`a fi al-Du`a iza intabahu min al-Lail*, nomor hadis 3336

مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ثُمَّ دَعَا رَبَّ
اغْفِرْ لِي غُفْرًا لَهُ قَالَ الْوَالِدُ أَوْ قَالَ دَعَا اسْتَجِيبْ لَهُ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ
صَلَّى فُيَلِّتْ صَلَاتَهُ.⁷³⁷ رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Sadaqah bin al-Fadl menceritakan kepada kami, al-Walid (Ibn Muslim) memberitakakan kepada kami, al-Awza'i menceritakan kepada kami, Umair bin Hani menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, Ubadah bin al-Samit menceritakan kepadaku dari Nabi saw., bersabda.....maka ucapkanlah: Tiada Tuhan selain Allah, Allah itu Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, Maha Suci atas Allah, dan Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, kemudian berkata; Ya Allah ampunilah dosaku.....HR. al-Bukhari.

F. Hadis-Hadis Tentang Zikir Pada Waktu Fajar dan Subuh.

1. Hadis Tentang zikir *La ilaha illallah* ketika waktu subuh.

1. Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
إِذَا أَمْسَى أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ زَادَ
فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَأَمَّا رَبِّيذٌ كَانَ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ يَقُولُ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ
سُوءِ الْكِبَرِ أَوْ الْكُفْرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي

⁷³⁷ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, kitabbab ma yad` - iza intabahu min al-Lail*, nomor hadis 3868

الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ.⁷³⁸ رواه أبو داود

Terjemahnya:

Ahmad bin Muni` menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceritakan kepada kami, berkata;.....saudara Salim bin Abdillah bin Umar menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. Abu Dawud.

2. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَرَاهُ قَالَ فِيهَا لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.⁷³⁹ الترميذی

Terjemahnya:

Ahmad bin Muni` menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceritakan kepada kami, berkata;.....saudara Salim bin Abdillah bin Umar menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan

⁷³⁸ Abu Dawud, *Sunan Ab- Dawud, kitab al-adab, bab ma yaq-lu iza Asbaha*, nomor hadis 4409

⁷³⁹ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an rasulillah, bab ma Ja`a fi al-du`a iza Asbaha wa iza amsa*, nomor hadis 3312.

Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. al-Bukhari.

2.Hadis tentang Zikir: *Raditu bi Allah Rabba wabi al-Islami Dinan. Pagi dan Petang.*

1. Riwayat Abu Dawud.

4410 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَامٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمَصَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالُوا هَذَا خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِحَدِيثِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَدَاوَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرَّجَالُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ.⁷⁴⁰ رواه ابو داود

Terjemahnya:

Hafz bin Umar menceritakan kepada kami, Syu`bah menceritakan kepada kami, dari Abu Aqil, dari Sabaq bin Najiyah dari Abu Sallam di Masjid Hims, Bahwasanya suatu ketika ia berada di masjid Himsha, lalu ada seorang laki-laki melewatinya. Orang-orang lalu berkata, "Ini ada pembantu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam!" maka ia pun berdiri menuju laki-laki tersebut dan berkata, "Ceritakanlah kepadaku sebuah hadits yang engkau dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yang engkau dengar secara langsung tanpa perantara orang lain. laki-laki itu berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengucapkan saat datang waktu pagi dan waktu sore: "*radliina billahi rabban wa bil islaami diinan wa bimuhammaddin rasuulan* (kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami dan Muhammad sebagai rasul kami), kecuali telah wajib bagi Allah untuk meridhainya."HR. Abu Dawud.

2. Riwayat al-Turmuzi.

⁷⁴⁰ Ab- Dawud. *Sunan Abi Dawud, kitab al-Adab, bab ma yaq-lu iza asbaha, juz XIII, h.267.* nomor hadis 4410.

3311 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُمَسِّي رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ.⁷⁴¹ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Abu Bakar bin Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Mas'ar menceritakan kepada kami, Abu Uqail menceritakan kepada kami, dari Sabiq, dari Abu Sallam hadim NAbu saw., dari Nabi saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan ketika waktu petang atau waktu pagi; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya*, HR. Ibn Majah

3. Riwayat Ibn Majah.

3860 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ عَنْ سَابِقٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ خَادِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ وَسَلَّمَ عَبْدٌ يَقُولُ حِينَ يُمَسِّي وَحِينَ يُصْبِحُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁷⁴² رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Abu Bakar bin Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Mas'ar menceritakan kepada kami, Abu Uqail menceritakan kepada kami, dari Sabiq, dari Abu Sallam hadim NAbu saw., dari Nabi saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan ketika waktu petang atau waktu pagi; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya*, kecuali ia memperoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR. Ibn Majah

⁷⁴¹ Al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Ras-lillah, bab ma ja`a fi al-du`a iza asbaha wa iza amsi, juz XI, h. 249, nomor hadis 331.*

⁷⁴² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, kitab al-du`a, bab ma yad`- bihi al-rajul iza asbaha wa iza amsi, juz XI, h. 334. nomor hadis 3860.*

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

18199 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ قَاضِي وَاسِطٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَامٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ حِمَصَ فَقَالُوا هَذَا خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْدَأُوْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرَّجَالُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁷⁴³ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, Mas`ar menceritakan kepada kami, dari Abu Uqail, dari Sabiq, dari Abu Sallam, dari Hadim NAbu saw., dari Nabi saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu petang atau waktu pagi tiga kali; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya*, kecuali ia memperoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR. Ahmad bin Hanbal.

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

18200 - حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ خَادِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ حِمَصَ فَقَالُوا هَذَا خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْدَأُوْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرَّجَالُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁷⁴⁴ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Waki` menceritakan kepada kami, Mas`ar menceritakan kepada kami, dari Abu Uqail, dari Sabiq, dari Abu Sallam, dari Hadim NAbu saw., dari Nabi saw., bersabda: Tidaklah

⁷⁴³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab musnad al-kufiyyin, bab hadis hadam al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz XXXVIII, h. 442, nomor hadis 18199.

⁷⁴⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab musnad al-kufiyyin, bab hadis hadam al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz XXXVIII, h.443. nomor hadis 18200.

seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu petang atau waktu pagi tiga kali; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya*, kecuali ia memperoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR. Ahmad bin Hanbal.

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

18201 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ هَاشِمِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَامٍ قَالَ أَبُو النَّضْرِ الْحَبَشِيُّ قَالَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ حِمَصَ فَقِيلَ هَذَا خَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَدَاوَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرَّجَالُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ يُمَسِّي وَحِينَ يُصْبِحُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَيَا لِلْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ.⁷⁴⁵ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

dari Nabi saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu petang atau waktu pagi tiga kali; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya*, kecuali ia memperoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR. Ahmad bin Hanbal.

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

22032 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَقِيلٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَامٍ قَالَ كُنَّا فُغُودًا فِي مَسْجِدِ حِمَصَ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالُوا هَذَا خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَهَضَّنْتُ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ حَدَّثَنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَدَاوَلْهُ الرَّجَالُ فِيمَا بَيْنَكُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ يُمَسِّي

⁷⁴⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab musnad al-kufiyyin, bab hadis hadam al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz XXXVIII, h.444. nomor hadis 18201.

أَوْ يُصْبِحُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁷⁴⁶ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

dari Nabi saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu petang atau waktu pagi tiga kali; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya*, kecuali ia memperoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR. Ahmad bin Hanbal.

8. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو عَقِيلٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ سَابِقَ بْنَ نَاجِيَةَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ النَّسَائِمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْبَرَاءِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ قَالَ كُنَّا فُغُودًا فِي مَسْجِدِ حِمَصَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحَ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَمْسَى إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁷⁴⁷ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

dari Nabi saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu petang atau waktu pagi tiga kali; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya*, kecuali ia memperoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR. Ahmad bin Hanbal.

9. Riwayat al-Nasa'i.

(9831) أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن زر عن بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمت الاخلاص وعلى دين نبينا محمد ﷺ وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثواب من قال حين يصبح وحين

⁷⁴⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Anjar, bab hadis rijal min ashab al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz 47, h.85. nomor hadis 22032.

⁷⁴⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Anjar, bab hadis rijal min ashab al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz 47, h.85. nomor hadis 22032.

يمسي : رضيت بالله ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً.⁷⁴⁸ رواه النسائي

Terjemahnya:

dari Nabi saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu petang atau waktu pagi tiga kali; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya*, kecuali ia mempeoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR. al-Nasa`i.

10. Riwayat al-Nasa`i.

أخبرنا علي بن خشرم أخبرنا هشيم عن هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام قال مر بنا رجل طوال أشعث فقيل إن هذا خدم النبي ﷺ فقلت إليه فقلت أخدمت النبي ﷺ قال نعم قلت حدثني عنه حديثاً لم تداوله الرجال بينك وبينه قال سمعته يقول من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة نوع آخر.⁷⁴⁹ رواه النسائي

Terjemahnya:

dari Nabi saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu petang atau waktu pagi tiga kali; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya*, kecuali ia mempeoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR. al-Nasa`i.

11. Riwayat Ibn Abu 2sim.

440 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن بشر ، ثنا مسعر ، أخبرني أبو عقيل ، عن سابق ، عن أبي سلام خادم النبي ﷺ ، عن رسول الله ﷺ قال : « ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يصبح : رضيت بالله ربا ، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله

⁷⁴⁸ al-Nasa`i. *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, h. 4.* nomor hadis 9831.

⁷⁴⁹ al-Nasa`i. *Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, h. 145.*

عليه وسلم نبيا ، إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة».⁷⁵⁰ رواه ابن ابي عاصم

Terjemahnya:

Abu Bakar bin Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyrî menceritakan kepada kami, Mas'ar menceritakan kepada kami, Abu Uqail memberitakannya kepadaku, dari Sabiq, dari Abu Sallam hadim Nabu saw., sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan ketika waktu petang atau waktu pagi; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya*, kecuali ia memperoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR Ibn Abu 2sim

12. Riwayat Ibn Abu 2sim.

2481 - حدثنا المقدمي ، نا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن أبي عقيل ، عن سابق بن ناجية ، عن أبي سلام ، رضي الله عنه قال : مر رجل في مسجد حمص فقالوا : هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : حدثني حديثا سمعته من رسول الله ﷺ ، فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من قال ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي : رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ، كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة ».⁷⁵¹ رواه ابن ابي عاصم

Terjemahnya:

Al-Maqdami menceritakan kepada kami, Sa'id bin 2mir menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dari Abu Uqail, dari Sabiq bin Najiyah, dari Abu Sallam ra., berkata; lewat seorang laki-laki di Masjid Himsi , beliau berkata; Ini hadim Nabi saw., maka aku berkata; ceritakan kepadaku suatu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah saw., maka aku menjawab; aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Siapa yang mengucapkan ketika waktu pagi tiga kali atau waktu petang tiga kali; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi*

⁷⁵⁰ Ibn Abi 2sim, *al-2had wa al-Masani Ibn Abi 2sim, kitab wa man zukira Abi Sallam hadim al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ma min muslim aw insani aw abdin yaq-lu hina yamsi*, juz I, h. 491, nomor hadis 440.

⁷⁵¹ Ibn Abi 2sim, *al-2had wa al-Masani Ibn Abi 2sim, kitab Ab- Sallam radiyallahu anhu hadim al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ma qala salasan hina yusbih wa salasan hina yamsi*, juz VIII, h. 128, nomor hadis 2481.

Muhammadin Nabiyya, kecuali ia memperoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR Ibn Abu 2sim

13. Riwayat al-Hakim.

1861 – أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، وأبو بكر بن حمدان الزاهد ، قالوا : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، قال : سمعت أبا عقيل هاشم بن بلال يحدث ، عن أبي سلام سابق بن ناجية ، قال : كنا جلوسا في مسجد حمص فمر رجل فقالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم فنهضت إليه فسألته قلت ، حدثني حديثا سمعته من رسول الله ﷺ ولم يتداوله الرجال بينكم ، قال : سمعت رسول الله ﷺ ، يقول : « ما من عبد يقول : حين يمسي ، وحين يصبح رضيت بالله ربا ، وبالإسلام ديننا ، وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة .⁷⁵² رواه الحاكم

Terjemahnya:

dari Nabi saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu petang atau waktu pagi tiga kali; *raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya*, kecuali ia memperoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR. al-Hakim.

14. Riwayat al-Tabrani.

18356 – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، ثنا مَسْعَرٌ، ثنا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ سَابِقٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ أَوْ إِنْسَانٍ أَوْ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُمَسِّي وَحِينَ يُصْبِحُ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁷⁵³ رواه الطبراني

⁷⁵² Al-Hakim, *Mustadrak ala al-Sahihain li al-Hakim*, kitab bismillahi al-rahmani al-rahim awwal kitab al-manasik, bab al-du`a wa al-takbir wa al-tahlil wa al-tasbih wa al-zikir, juz IV, h. 454, nomor hadis 1861.

⁷⁵³ al-Tabrani, *Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani*, kitab Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, bab juz V, h.224 nomor hadis 18356.

Terjemahnya:

Ubaid bin Gannam menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyrî menceritakan kepada kami, Mas`ar menceritakan kepada kami, Abu Uqail menceritakan kepada kami, dari sabiq, dari Abu Sallam hadim Nabu saw., sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan ketika waktu petang atau waktu pagi; raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya, kecuali ia memperoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR.al-Tabrani

15. Riwayat Ibn Abu Naim al-Asbhani.

6222 – حدثنا محمد بن محمد المقرئ ، ثنا محمد بن محمد بن عزرّة ، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ، ثنا محمد بن بشر ، قال : ثنا مسعر ، ثنا أبو عقيل ، عن سابق ، عن أبي سلام ، خادم النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : « ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي أو حين يصبح : رضيت بالله ربا ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة » .⁷⁵⁴ رواه ابي نعيم الاصبهاني

Terjemahnya:

Muhammad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhammad bin Uzrat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisyrî menceritakan kepada kami, Mas`ar menceritakan kepada kami, Abu Uqail menceritakan kepada kami, dari sabiq, dari Abu Sallam hadim Nabu saw., sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan ketika waktu petang atau waktu pagi; raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya, kecuali ia memperoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR. Ibn Abu Naim.

⁷⁵⁴ Abi Naim al-Asbahani, *Ma`rifat al-Sahabat Abi Naim al-Asbahani*, kitab bab al-sin, bab Ab- Sallam, juz XX, h. 193, nomor hadis 6222.

BAGIAN KEENAM HADIS-HADIS TENTANG ZIKIR PADA TEMPAT TERTENTU

1. Hadis Tentang *zikir* ketika pulang dari perang, haji dan umrah

1. Riwayat al- Bukhari.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ⁷⁵⁵. رواه البخاري

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila kembali dari

⁷⁵⁵ Al-Bukhari, *ṣahih al-Bukhari, kitabbab, ma yaq-l iza raja`a min al-hajj aw al-Umrah*, nomor hadis 1670.

suatu peperangan atau haji atau 'umrah, Beliau bertakbir tiga kali pada setiap dataran tinggi dari permukaan bumi lalu berdo'a: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. Aayibuuna taabuuna 'aabiduuna saajiduuna li rabbinaa haamiduun. Shadaqallah wa'dahu wa nashara 'abdahu wa hazamal ahzaaba wahdah". (Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan, dan pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Kita kembali, sebagai hamba yang bertaubat, ber'ibadah, sujud untuk Rabb kita dan yang memuji-Nya. Allah Maha Benar dengan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan musuh-musuh-Nya) "HR. al-Bukhari.

2. Riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الْعَزْوُ يَقُولُ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى تَيْبَةٍ أَوْ فَدَفِدِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.⁷⁵⁶ رواه البخاري

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Nafi', dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. al-Bukhari.

3. Riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ

⁷⁵⁶ Al-Bukhari, *ṣaḥih al-Bukhari, kitab... bab al- Takbir Ala syarafan*, nomor hadis 2773

عَزَوْ أَوْ حَجَّ أَوْ عُمْرَةَ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.⁷⁵⁷ رواه البخاري

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Nafi, dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. al-Bukhari.

4.Riwayat Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْعَزْوِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مَرَارٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.⁷⁵⁸ رواه البخاري

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Nafi, dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. al-Bukhari.

5.Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى

⁷⁵⁷ Al-Bukhari, *ḥāh al-Bukhari, kitab...., bab al-Du`a iza Arada al-Safar aw Raji`a*, nomor hadis 5906

⁷⁵⁸ Al-Bukhari, *ḥāh al-Bukhari, kitab... bab Gazwat al-Hndaq wa hiya al-Ahzab*, nomor hadis 3807.

وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُبُوشِ أَوْ السَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى تَنْبِيءٍ أَوْ فَدْفِدٍ كَثِيرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.⁷⁵⁹ رواه مسلم

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Nafi', dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Muslim

6.Riwayat Abu Dawud.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ عَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.⁷⁶⁰ رواه أبو داود

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Nafi', dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Abu Dawud

7.Riwayat al-Turmuzi.

⁷⁵⁹ Muslim, *ṣahih Muslim, kitab.... bab ma yaq-l i©a qafal min safat al-haj wa gairihi*, nomor hadis 2394

⁷⁶⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, kitab... bab al-Takbir ala kuli syarf fi al-maisir*, nomor hadis 2389.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدَفَدًا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا كَثِيرًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَائِحُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.⁷⁶¹ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Nafi, dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. al-Turmuzi

8. Riwayat Malik.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ سَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.⁷⁶² رواه مالك

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Nafi, dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Malik.

9. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

⁷⁶¹ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab.... bab ma ja`a ma yaq-linda al-qaf-l min al-haj*, nomor hadis 873.

⁷⁶² Malik, *Muwatta Malik, juz III, bab Jami` al-haj* nomor hadis 838

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدَفَدًا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيُونَ تَائِبُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.⁷⁶³ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Nafi', dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal.

10. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُبُوشِ أَوْ السَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ إِذَا أَوْفَى عَلَى تَنْبِيَةٍ أَوْ فَدَفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيُونَ تَائِبُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.⁷⁶⁴ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Nafi', dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal.

⁷⁶³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab...bab Musnad Abd.Allah ibn Umar ibn Khattab*, nomor hadis 4341. &4407.

⁷⁶⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab...bab Musnad Abd.Allah ibn Umar ibn Khattab*, nomor hadis 4487.

al-Bukhari.

11 Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجَبُوشِ وَالسَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِذَا أَوْفَى عَلَى أُرْبِيَّةٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَحْرَابَ وَحْدَهُ.⁷⁶⁵ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Nafi', dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal.

al-Bukhari.

12. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ كَبَّرَ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّونَ تَائِبُونَ سَاجِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَحْرَابَ وَحْدَهُ.⁷⁶⁶ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakannya kepada kami, dari Nafi', dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-

⁷⁶⁵ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab... bab *Musnad Abd. Allah ibn Umar ibn Khattab*, nomor hadis 4720

⁷⁶⁶ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab..bab *Musnad Abd. Allah ibn Umar ibn Khattab*, nomor hadis 5043

Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal

13.Riwayat Ahmad Bin Hambal.

حَدَّثَنَا عَتَابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْعَزْوِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مَرَارٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَبِيونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.⁷⁶⁷ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd Allah bin Y-suf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Nafi, dari Abd Allah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.....HR. Ahmad ibn Hanbal.

2.Hadis pertama: zikir *La ilaha illallah Ketika Masuk Pasar*

1. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِينِي أَحِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.⁷⁶⁸ رواه الترميذي

⁷⁶⁷ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab...bab Musnad Abd.Allah ibn Umar ibn Khattab*, nomor hads 5567

⁷⁶⁸ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Rasulullah bab ma Yaq-lu ii@ a dakhala fi al-Ass-q*, nomor hadis 3350.

Terjemahnya:

Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceriterkan kepada kami, berkata;.....saudara Salim bin Abdullah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: "Barang siapa yang memasuki pasar kemudian mengucapkan; *laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu laa yamuutu biyadihil khairu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir* (tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagiNya, milikNya semua kerajaan dan bagiNya seluruh pujian, Dia Yang menghidupkan, dan mematikan, Dia tidak mati, di tanganNya segala kebaikan, dan Dia Maha Mampu melakukan segala sesuatu) maka Allah mencatat baginya satu juta kebaikan, dan menghapus darinya satu juta kesalahan, serta mengangkat untuknya satu juta derajat." . HR. al-Turmuzi.

2. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا بِدَلِّكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيِّي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ قَهْرَمَانُ آلِ الرَّبِيعِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.⁷⁶⁹ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: "Barang siapa yang di pasar mengucapkan; *laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu laa yamuutu biyadihil khairu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir* (tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagiNya, milikNya semua kerajaan dan bagiNya seluruh pujian, Dia Yang menghidupkan, dan mematikan, di

⁷⁶⁹ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Rasulillah bab ma Yaq-lu ii@a dakhala fi al-Ass-q*, nomor hadis 3351.

tanganNya segala kebaikan, dan Dia Maha Mampu melakukan segala sesuatu) maka Allah mencatat baginya satu juta kebaikan, dan menghapus darinya satu juta kesalahan, dan membangunkan rumah untuknya di Surga."HR. al-Turmuzi.

3.Riwayat Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ⁷⁷⁰. رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Salim bin Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir*HR. Ibn Majah.

4.Riwayat Ahmad bin Hambal

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي سُوْقٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَا عَنْهُ بِهَا أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ⁷⁷¹. رواه أحمد بن حنبل

⁷⁷⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, kitab al-tijarat, bab al-Aswaq wa Duh-laha, nomor hadis 2226

⁷⁷¹ Ahamd ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, musnad al-asyarat al-mubasysyirina bi al-jannah, bab Awwal Musnad Umar ibn Khattab ra. Nomor hadis 309.

Terjemahnya:

Salim bin Abdillah bin Umar menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya'in qadir*HR. Ahmad ibn Hanbal.

5. Riwayat al-Darimi.

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيْتُ بِهَا أَخِي سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفٍ حَسَنَةً وَمَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفٍ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفٍ دَرَجَةً.⁷⁷² رواه الدارمي

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya'in qadir*HR.al-Darimi.

6. Riwayat al-Hakim.

حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري ، وأبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو ، قالوا : ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبا أزهر بن سنان القرشي ، ثنا محمد بن واسع ، قال : قدمت المدينة فلقيت بها سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني ، عن أبيه ، عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من دخل السوق ، فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا (1)

⁷⁷² al-Darimi, *Sunan al-Darimi. kitab al-ʿItiʿzan, bab ma yaq-lu iza dakhala al-s-q*, nomor hadis 2576.

عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وبنى له بيتا في الجنة.⁷⁷³ رواه الحاكم

Terjemahnya:

Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir*HR.al-Hakim

7. Riwayat al-Hakim.

1932 - وقد روي ، عن عمر بن محمد بن زيد ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عمر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « من دخل السوق ، فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا (1) عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة »⁷⁷⁴. رواه الحاكم

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir* (Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR.al-Hakim

8. Riwayat al-Hakim.

1933 - حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن حيدر البغدادي ، ثنا مسروق بن المرزبان ، ثنا حفص بن غياث ، عن هشام بن حسان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن

⁷⁷³ al-Hakim. *Mustadrak ala al-Sahihain li al-Hakim*, kitab *bismillahi al-rahmani al-rahim awwal kitab al-manasik*, bab *wa amma hadis Rafi` Hudaij*, juz V, h. 28. nomor hadis 1930.

⁷⁷⁴ al-Hakim. *Mustadrak ala al-Sahihain li al-Hakim*, kitab *bismillahi al-rahmani al-rahim awwal kitab al-manasik*, bab *wa amma hadis Rafi` Hudaij*, juz V, h. 30. nomor hadis 1932.

عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من دخل السوق فباع فيها واشترى ، فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا (1) عنه ألف ألف سيئة ، وبنى له بيتا في الجنة » « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، والله أعلم »⁷⁷⁵ . رواه الحاكم

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya'in qadir* (Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR.al-Hakim .

9. Riwayat Ibn Basyran.

607 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الأجرى بمكة ، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا سعيد بن سليمان ، عن أزهر بن سنان ، قال : سمعت محمد بن واسع ، قال : لقيت سالم بن عبد الله بن عمر ، فقال : ألا أخبرك بما ، أخبرنيه أبي ، عن رسول الله ﷺ ؟ قلت : بلى . قال : « من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، كتب الله عز وجل له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة »⁷⁷⁶ . رواه ابن بشران

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-*

⁷⁷⁵ al-Hakim. *Mustadrak ala al-Sahihain li al-Hakim, kitab bismillahi al-rahmani al-rahim awwal kitab al-manasik, bab wa amma hadis Rafi` Hudaij*, juz V, h. 31. nomor hadis 1933

⁷⁷⁶ Ibn Basyran. *Amali Ibn Basyran, kitab majlis akhar fi rajab min al-sunnah, bab man dakhala al-s-q faqala la ilaha illallah*, juz II, h. 144. nomor hadis 607.

mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya'in qadir (Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR.Basyran

10. Riwayat Ibn Basyran

683 - أخبرنا أبو علي أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة ، ثنا محمد بن الفرج الأزرق ، ثنا عبد الأعلى بن سليمان العبدى ، ثنا هشام بن حسان ، عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي ﷺ قال : « من دخل السوق في فورة (1) السوق ، أو حين تقوم السوق فقال : لا إله إلا ، الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه بها ألف ألف سيئة ، وبنى له بها بيتا في الجنة »⁷⁷⁷. رواه ابن بشران

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya'in qadir* (Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. Basyran

11. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

1202 - حدثنا عبد الله ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن مهاجر قال : سمعت ابن عمر ، يقول : من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

⁷⁷⁷ Ibn Basyran. *Amali Ibn Basyran, kitab majlis akhar fi yaum al-jum`ah al-hadi asyara min rajab min al-sunnah, bab man dakhala al-s-q fi faurat al-s-q aw hina taq-m, juz II, h. 225. nomor hadis 683.*

قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وحط عنه ألف ألف خطيئة.⁷⁷⁸ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir* (Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. Ahmad ibn Hanbal.

12. Riwayat Uqaili.

2291 - حدثنا محمد بن بحر قال يزيد بن هارون قال : أخبرنا أزهر بن سنان القرشي قال : حدثنا محمد بن واسع قال : قدمت مكة فلقيت بها سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبيه عن جده عمر عن رسول الله ﷺ قال : « من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وبني له بيتا في الجنة . رواه العقيلي.⁷⁷⁹

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir* (Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR.Uqaili

13. Riwayat Uqaili.

⁷⁷⁸ Ahmad ibn Hanbal. *al-Zuhud li Ahmad ibn Hanbal, kitab al-Zuhud li Ahmad ibn Hanbal , bab man dahala al-s-q wa qala la ilaha illallah wahdahu la*, juz III, h. 242. nomor hadis 1202.

⁷⁷⁹ Uqaili. *al-Du`afa` li al-Uqaili, kitab bab al-alif, bab Ayy-b, juz I, h. 401. nomor hadis 229.*

230 - حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم الزيدي قال : حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال : حدثنا يزيد الدورقي أبو الفضل صاحب الجواليق قال : كان محمد بن واسع الأزدي لا يزال يجيء إلى دكان فيقعد ساعة في أصحاب الجواليق فنرى أنه يذكر ربه ، فحدثنا قال : كنت بخراسان مع قتيبة فاستأذنته في الحج فأذن لي ، فلقيت سالم بن عبد الله فسمعتَه يذكر أنه : « من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له ألف حسنة ومحيت عنه ألف سيئة ، وبني له بيتا في الجنة.⁷⁸⁰ رواه العقيلي

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya'in qadir* (Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. Uqaili.

14. Riwayat Abu Fadl al-Zuhri.

156 - أخبركم أبو الفضل الزهري ، نا يحيى ، نا محمد بن يزيد ، أبو هشام الرفاعي القاضي ، نا أبو خالد الأحمر ، نا المهاجر ، قال : سمعت سالم بن عبد الله بن عمر ، قال : سمعت أبي ، قال : سمعت عمر بن الخطاب ، يقول : قال رسول الله ﷺ : « من دخل السوق ، فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، كتب الله تعالى له ألف حسنة ومحا (1) عنه ألف سيئة ». ⁷⁸¹ رواه أبي الفضل الزهري

Terjemahnya:

⁷⁸⁰ Uqaili. *al-Du`afa` li al-Uqaili, kitab bab al-alif, bab Ayy-b, juz I, h. 402, nomor hadis 230*

⁷⁸¹ Abi Fadl al-Zuhri. *Hadis Abi Fadl al-Zuhri, kitab man dahala al-s-q, bab man dahala al-s-q faqala la ilaha illallah, juz I, h. 157, nomor hadis 156.*

Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “*la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya'in qadir* (Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. Abu Fadl al-Zuhri.

3. Hadis Tentang zikir *La ilaha illallah* ketika di Arafah.

1. Riwayat Malik.

. وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.⁷⁸² رواه مالك

Terjemahnya:

Ahmad bin Muni` menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceritakan kepada kami, berkata;.....saudara Salim bin Abdillah bin Umar menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. Malik.

2.Riwayat Ahmad bin Hambal.

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ أَكْثَرَ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

⁷⁸² Malik ibn Anas, *Muwatta Malik*, juz III, bab *Jami` al- Hajj*, nomor hadis 841.

عَرَفَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.⁷⁸³ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceriterkan kepada kami, berkata;.....saudara Salim bin Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. Ahmad ibn Hanbal.

3.Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَدَّاءُ الْمَدِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ نَافِعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ
وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.⁷⁸⁴ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceriterkan kepada kami, berkata;.....saudara Salim bin Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. al-Turmuzi

⁷⁸³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab *musnad al-mukassirin min al-sahabah*, bab *Musnad Abd Allah ibn Amr ibn al-2sh* nomor hadis 6667.

⁷⁸⁴ Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, kitab *al-da`wat `an rasulillah*, bab *fi al-du`a yaum Arafat*, nomor hadis 3509

4.Hadis tentang zikir *La ilaha illallah* ketika di shafa dan Marwah

1.Riwayat Ahmad bin Hanbal

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.⁷⁸⁵ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ahmad bin Muni` menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceritakan kepada kami, berkata;.....saudara Salim bin Abdillah bin Umar menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. Ahmad ibn Hanbal.

2.Riwayat Malik.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.⁷⁸⁶ رواه مالك

Terjemahnya:

Ahmad bin Muni` menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi`

⁷⁸⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab baqi musnad al-muksirin bab baqi al-musnad al-sabiq. nomor hadis 14638

⁷⁸⁶ Malik ibn Anas, *Muwatta Malik*, kitab al-hajj, bab al-bada` bi al-jafa fi al-sa`i, nomor hadis 731.

menceriterkan kepada kami, berkata;.....saudara Salim bin Abdillan bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: "Jika Rasulallah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di atas bukit Shafa, beliau bertakbir tiga kali dan mengucapkan: "*laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syai'in qadiir* (Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Tunggal, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, dan pujian. Dia Maha Menentukan atas segala sesuatu)" HR. Malik.

3. Riwayat al-Nasa'i.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.⁷⁸⁷ رواه النسائي

Terjemahnya:

Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceriterkan kepada kami, berkata;.....saudara Salim bin Abdillan bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, HR. al-Nasa`i.

4. Riwayat al-Nasa'i.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا ثُمَّ بَدَأَ لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

⁷⁸⁷ Al-Nasa`i, *Sunan al-Nasa`i, kitab manasik al-hajj, bab al-takbir ala al-ʿafa*, nomor hadis 2923.

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ وَسَبَّحَهُ وَحَمَدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَّ هَذَا حَتَّى فَرَّغَ مِنَ الطَّوَافِ.⁷⁸⁸ رواه النسائي

Terjemahnya:

Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceriterkan kepada kami, berkata;.....saudara Salim bin Abdillan bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, HR. al-Nasa`i.

5. Riwayat al-Nasa`i .

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَأَ لَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ وَحَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى قَضَى طَوَافَهُ.⁷⁸⁹ رواه النسائي

Terjemahnya:

Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceriterkan kepada kami, berkata;.....saudara Salim bin Abdillan bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, HR. al-Nasa`i.

⁷⁸⁸ Al-Nasa`i, *Sunan al-Nasa`i, Juz IX, bab maudu` al-qiyam ala al-Marwah*, nomor hadis 2935

⁷⁸⁹ Al-Nasa`i, *Sunan al-Nasa`i, kitab manasik al-hajj, bab al-Takbir alaiha*, nomor hadis 2935

BAGIAN KETUJUH HADIS-HADIS TENTANG KEUTAMAAN ZIKIR

1.Hadis Tentang zikir lebih utama dari segala hal.

1. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأُنَبِّئُنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُتُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانَكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.⁷⁹⁰ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Abu Bakar memceritakan kepada kami, Zaid ibn al-Hubab menceriterakan kepada kami, Mu`awiyah ibn shalih menceriterakan kepadaku, Amribn Qais al-Kindi memberitakan kepadaku dari Abd Allah ibn Yusr, seseorang bertanya kepada “Sudikah kalian aku kabari dengan kebaikan yang bisa engkau amalkan, dan diridhai amalan itu disisi Tuhanmu, dan diangkat derajat kalian, dan lebih baik daripada diberi emas dan perak, dan lebih baik dibanding jika kalian berperang fi sabilillah?” Sahabat berkata: “Dan apakah itu, wahai Rasulullah?” Nabi menjawab: “Zikir kepada Allah.” Dan Muad bin Jabal mengatakan: “Tidak ada amalan seseorang yang dengan amalan tersebut lebih menyelamatkannya dari siksa neraka daripada zikir kepada Allah”. .. HR. Al-Turmuzi.

⁷⁹⁰ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab Tafsir al-Qur`an an Rasulillah, bab wa min surat al-Taubat*, nomor hadis 3019.

2. Riwayat al-Turmuzi.

3297 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَسَبَّتُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.⁷⁹¹ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, aid ibn Hubab menceritakan kepada kami, dari Mu`awiyah ibn Abu shalih dari Amr ibn Qais dari Abd Allah ibn Busri ra. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku lakukan, maka beritakan kepadaku tentang sesuatu supaya tetap dengannya, maka Rasulullah saw., bersabda: “Sudikah kalian aku kabari dengan kebaikan yang bisa engkau amalkan, dan diridhai amalan itu disisi Tuhanmu, dan diangkat derajat kalian, dan lebih baik daripada diberi emas dan perak, HR. Al-Turmuzi.

3. Riwayat Ibn Majah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَخْبَرَنِي عَمْرِو بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَنْبِئْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ أَتَسَبَّتُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.⁷⁹² رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Abu Bakar memceritakan kepada kami, Zaid ibn al-Hubab menceritakan kepada kami, Mu`awiyah ibn shalih menceritakan kepadaku, Amribn Qais al-Kindi memberitakan kepadaku dari Abd Allah ibn Yusr, seseorang bertanya kepada Rasulullah saw., sesungguhnya syari`at Islam...Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah azza wajalla. HR.Ibn Majah.

⁷⁹¹ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat an Rasulillah, bab ma ja`a fi fadl al-zikir*, juz XI, h. 226. nomor hadis 3297.

⁷⁹² Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah, kitab fadl al-Adab, bab al-zikr*, nomo hadis 3783.

4. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

17020 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيَّانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ خَيْرُ الرَّجَالِ يَا مُحَمَّدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَقَالَ الْآخَرُ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا فَبَابُ نَتَمَسَّكَ بِهِ جَامِعٌ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.⁷⁹³ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ali ibn Ayyas menceritakan kepada kami, Hassan ibn N-h menceritakan kepada kami, dari Amr ibn Qais dari Abd Allah ibn Busri berkata; Nabi saw., didatangi dua orang Arab, salah satu diantaranya bertanya, ya, Muhammad.siapa laki-laki yang baik, maka Nabi saw., bersabda: Siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya, dan bertanya yang lain, sesungguhnya syariat Islam telah banyak.... Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR. Ahmad ibn Hanbal.

5.Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

17037 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ بُسْرِ يَقُولُ جَاءَ أَعْرَابِيَّانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَقَالَ الْآخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ أَتَنَبَّثُ بِهِ فَقَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.⁷⁹⁴ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd al-Rahman ibn Mahdi menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah, dari Amr ibn Qais, berkata; aku mendengar i Abd Allah ibn Busri berkata; Nabi saw., didatangi dua orang Arab, salah satu diantaranya bertanya, ya, Muhammad.siapa laki-laki

⁷⁹³ Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab al-Syamiyyin, bab hadis Abd Allah ibn Basar al-Mani radiyallahu anhu, juz XXXVI, h. 82. nomor hadis 17020.

⁷⁹⁴ Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab al-Syamiyyin, bab hadis Abd Allah ibn Basar al-Mani radiyallahu anhu, juz XXXVI, h. 99. nomor hadis 17037

yang baik, maka Nabi saw., bersabda: Siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan bertanya yang lain, sesungguhnya syariat Islam telah banyak.... Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR. Ahmad ibn Hanbal.

6. Riwayat Ibn Abu Syaibah.

حدثنا زيد بن حباب أخبرنا معاوية بن صالح قال : أخبرني عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله ﷺ : يا رسول الله ! إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بأمر أتثبت به ، قال : " لا يزال لسانك رطبا بذكر الله " .⁷⁹⁵ رواه ابن ابي شيبة

Terjemahnya:

ʿAid ibn Hubab menceritakan kepada kami, Muʿawiyah ibn shalih memberitakan kepada kami, Amr ibn Qais al-Kindi memberitakan kepadaku, dari Abd Allah ibn Busri sesungguhnya seorang Arab bertanya, ya Rasulullah saw., sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku laksanakan, maka beritakan kepadaku tentang sesuatu, supaya aku tetap dengannya, maka Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR. Ibn Abu Syaibah.

7. Riwayat Ibn Abu Syaibah.

(7) حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام قال : قال موسى لربه : يا رب ، ما الشكر الذي ينبغي لك ؟ قال : لا يزال لسانك رطبا من ذكري ، قال : يا رب ، إني أكون على حال أجلك أن أذكرك من الجنابة والغائط وإراقة الماء وعلى غير وضوء قال : بلى ، قال : كيف أقول ، قال : قل⁷⁹⁶ . رواه ابن ابي شيبة

Terjemahnya:

⁷⁹⁵ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah, bab juz VII, h. 72.*

⁷⁹⁶ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah, bab juz VIII, h. 121.nomor hadis 7.*

Mu`awiyah ibn Hisyam menceriterakan kepada kami, berkata; Ibn Abu Za`bin menceriterakan kepada kami, dari Sa`id al-Makburi dari bapaknya dari Abd Allah ibn Sallam berkata; Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR. Ibn Abu Syaibah.

8. Riwayat Ibn Abu Syaibah.

(8) حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال : أخبرني عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال : يا رسول الله ! إن شرائع الإسلام قد كثرت ، فأنبئني منها بما أتشبهت به ، قال : (لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله).⁷⁹⁷ رواه ابن ابي شيبة

Terjemahnya:

^aaid ibn Hubab menceriterakan kepada kami, Mu`awiyah ibn shalih memberitakan kepada kami, Amr ibn Qais al-Kindi memberitakan kepadaku, dari Abd Allah ibn Busri sesungguhnya seorang Arab bertanya, ya Rasulullah saw., sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku laksanakan, maka beritakan kepadaku tentang sesuatu, supaya aku tetap dengannya, maka Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR. Ibn Abu Syaibah.

9. Riwayat al-Baihaqi.

(اخبارنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح حدثني معاوية ابن صالح عن عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بشر قال جاء اعرابيان إلى رسول الله ﷺ يسألانه فقال احدهما يا رسول الله اي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله وقال الآخر يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بامر اتشبهت به قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله.⁷⁹⁸ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR.al-Baihaqi.

⁷⁹⁷ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah, bab juz VIII, h. 236.* nomor hadis 8

⁷⁹⁸ al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, bab juz III, h. 371.*

10. Riwayat al-Hakim.

1776 - حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا زيد بن الحباب ، ثنا معاوية بن صالح ، حدثني عمرو بن قيس السكوني ، عن عبد الله بن بسر ، أن أعرابيا قال لرسول الله ﷺ : إن شرائع (1) الإسلام قد كثرت علي فأنبئني بشيء أتشبث به ، فقال : « لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله » « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ».⁷⁹⁹ رواه الحاكم

Terjemahnya:

Abu al-Fadl al-Hasan ibn Ya`q-b al-Adl menceriterakan kepada kami, Yahya ibn Abu Talib menceriterakan kepada kami, aib ibn Habab Mu`awiyah ibn shalih memberitakan kepada kami, Amr ibn Qais al-Kindi memberitakan kepadaku, dari Abd Allah ibn Busri sesungguhnya seorang Arab bertanya, ya Rasulullah saw., sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku laksanakan, maka beritakan kepadaku tentang sesuatu, supaya aku tetap dengannya, maka Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR.al-Hakim.

11. Riwayat al-Baihaqi.

544 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن عمرو بن قيس الكندي ، عن عبد الله بن بسر قال : جاء أعرابيان إلى رسول الله ﷺ يسألانه ، فقال أحدهما : يا رسول الله ، أي الناس خير ؟ قال : « من طال عمره ، وحسن عمله » . وقال الآخر : يا رسول الله ، إن شرائع

⁷⁹⁹ al-Hakim. *Al-Mustadrak ala al-`ahihain li al-Hakim*, kitab bismillahir rahmanir rahim awwal kitab wa al-manasik, juz IV, h. 369. nomor hadis 1776.

الإسلام قد كثرت علي ، فمرني بأمر أتشبهت (1) به قال : « لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل ».⁸⁰⁰ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu al-Husain Muhammad ibn al-Husain ibn al-Fadl memberitakan kepada kami, Abd Allah bin Ja`far al-Nahwi memberitakan kepada kami, Abu shalih menceriterakan kepada kami, Mu`awiyah ibn shalih menceriterakan kepada kami, dari Amr ibn Qais al-Kindi, dari Abd Allah ibn Busri berkata; Nabi saw., didatangi dua orang Arab, salah satu diantaranya bertanya, ya, Muhammad.siapa laki-laki yang baik, maka Nabi saw., bersabda: Siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan bertanya yang lain, sesungguhnya syariat Islam telah banyak.... Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR.al-Baihaqi.

12. Riwayat al-Baihaqi.

647 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا هارون بن سليمان ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، أن رجلا قال لأبي الدرداء : إن أبا سعد بن منبه أعتق مائة محرر قال : إن « مائة محرر من مال رجل لكثير ، وإن شئت أنباتك بما هو أفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل ، والنهار لا يزال لسانك رطبا (1) بذكر الله تعالى ».⁸⁰¹ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Abd Allah al-Hafiz danriterakan kepada kami, Muhammad ibn M-sa memberitakan kepada kami, Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya`q-b menceriterakan kepada kami, Harun bin Sulaiman menceriterakan kepada kami, Abd al-Rahman bin Mahdi menceriterakan kepada kami, dari Sufyan, dari Mans-r, dari Salim ibn Abu al-Ja`di, sesungguhnya seorang laki-laki,

⁸⁰⁰ al-Baihaqi.Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab fasl idamati zikrullahi azza wajalla, bab ayyu al-nas khair, qala; man tala, juz II, h. 86. nomor hadis 544.

⁸⁰¹ al-Baihaqi.Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab fasl idamati zikrullahi azza wajalla, bab miati muharrar mali rajul likasirin wain syi`ta lianbaatika, juz II, h. 189. nomor hadis 647.

bertanya kepada Abu al-Darda`; sesungguhnya Aba Sa`id ibn Munabbih..... Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR.al-Baihaqi.

13. Riwayat al-Baihaqi.

698 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف البخاري ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا زيد بن الحباب ، أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سلام قال : قال : موسى عليه السلام : يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك ؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن لا يزال لسانك رطبا (1) من ذكرني قال : « يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها قال : وما هي ؟ قال : أكون جنبا (2) أو على غائط (3) أو إذا بلت قال : وإن كان قال : يا رب فما أقول قال : قل سبحانك وبحمدك جنبني الأذى سبحانك وبحمدك قني الأذى ».⁸⁰² رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu ^akariya bin Abu Ishaq memberitakan kepada kami, Abu al-Fadl al-Hasan bi Ya`q-b bin Y-suf al-Bukhari memberitakan kepada kami, Yahya ibn Abu Talib menceriterakan kepada kami, ^aaid ibn al-Habbab memberitakan kepada kami, Ibn Abu ^ai`bin memberitakan kepada kami, dari Sa`id bin Abu Sa`id al-Makburi, dari Bapaknya, dari Abd Allah bin Sullam: M-sa as berdoa; Ya rabb aku ingin bersyukur kepadamu; maka Allah azza wajalla mewahyukan kepadanya: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR.al-Baihaqi.

14. Riwayat al-Baihaqi.

4256 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمى ، حدثنا محمد بن يوسف ، قال : ذكر سفيان ، عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سلام ، « قال موسى عليه السلام : يا رب ما الشكر الذي

⁸⁰² al-Baihaqi. *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab al-faslu al-sani fi zikri asar akhbari wuridat fi zikrillah, bab ya rabb inni ak-na ala rijal ajlika an azkuruka fika, juz II, h. 241. nomor hadis 698.*

ينبغي لك ؟ ، قال : لا يزال لسانك رطبا من ذكرى .⁸⁰³ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Tahir al-Faqih memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin al-Husain al-Qattan memberitakan kepada kami, Ahmad ibn Y-suf al-Sulami menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; Sufyan menyebutkan, dari Ibn Abu 'i`bin, dari al-Makburi, dari Bapaknya, dari Abd Allah bin Sullam: Ya rabb aku ingin bersyukur kepadamu, Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR.al-Baihaqi.

15. Riwayat Ibn Hibban.

815 - أخبرنا ابن قتيبة ، قال : حدثنا يزيد بن موهب ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، أن عمرو بن قيس الكندي حدثه ، عن عبد الله بن بسر ، قال : جاء أعرابيان إلى النبي ﷺ ، فقال أحدهما : يا رسول الله ، أخبرني بأمر أتشبهت به ، قال : « لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ».⁸⁰⁴ رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Ibn Qutaibah memberitakan kepada kami, berkata; Yazid menceriterakan kepada kami, berkata; Ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, berkata; Mu`awiyah ibn shalih menceriterakan kepadaku, Amr ibn Qais menceriterakan kepada kami, sesungguhnya aku mendengar Abd Allah ibn Basri, Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR.Ibn Hibban.

16. Riwayat Abd Allah ibn Mubarak.

44 - حدثنا جدي ، نا حبان ، أنا عبد الله عن إسماعيل بن عياش ، ثنا عمرو بن قيس ، أنه سمع عبد الله بن بسر ، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : قال رجل : يا رسول الله ، أي العمل أفضل ؟

⁸⁰³ al-Baihaqi. *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab al-sani wa salas-n min sya`b al-Iman wa huwa fi ta`did ni`mallah, bab la yazalu lisanaka min zikri, qala fainna kunna*, juz IX, h 456. nomor hadis 4256.

⁸⁰⁴ Ibn Hibban. *Sahih ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-azkar, juz IV, h. 120. nomor hadis 815.*

قال : « لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل ».⁸⁰⁵ رواه عبد الله ابن مبارك

Terjemahnya:

Jaddi menceritakan kepada kami, Habban menceritakan kepadaku, Abd Allah menceritakan kepada kami, dari Isma`il bin Ayyas, Amr ibn Qais menceritakan kepada kami, sesungguhnya aku mendengar Abd Allah ibn Basri, para sahabat Nabi saw., bertanya, ya Rasulullah mana amal yang lebih utama, Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR. Abd Allah ibn Mubarak.

17. Riwayat al-Tabrani.

1979 - حدثنا بكر بن سهل ، ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن عمرو بن قيس الكندي ، عن عبد الله بن بسر ، قال : جاء أعرابيان إلى رسول الله ﷺ يسألانه ، فقال أحدهما : أي الناس خير ؟ فقال : « من طال عمره وحسن عمله » وقال الآخر : يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي ، فأخبرني بأمر أتشبهت (1) به ، فقال : « لا يزال لسانك رطبا (2) من ذكر الله عز وجل ».⁸⁰⁶ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Bakar bin Sahal menceritakan kepada kami, Abd Allah bin shalih menceritakan kepada kami, Mu`awiyah ibn shalih menceritakan kepadaku, dari Amr ibn Qais al-Kindi, dari Abd Allah ibn Busri berkata; Nabi saw., didatangi dua orang Arab, salah satu diantaranya bertanya, ya, Muhammad. siapa laki-laki yang baik, maka Nabi saw., bersabda: Siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan bertanya yang lain, sesungguhnya syariat Islam telah banyak.... Rasulullah saw.,

⁸⁰⁵ Abd Allah ibn Mubarak. *Musnad Abd Allah ibn Mubarak, bab ayyu amal afdal, qala; la yazalu lisanaka ratban*, juz I, h. 45. nomor hadis 44.

⁸⁰⁶ al-Tabrani, *Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, kitab ma intaha ilaina min musnad Basyir bin al-Ala`i akhi Abd Allah, bab ma intaha ilaina min musnad Muhammad bin al-Walid al-Zubaidi*, juz VI, h. 136. nomor hadis 1979.

bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR. al-Tabrani.

18. Riwayat al-Tabrani.

2487 - حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، وأحمد بن محمد بن عرق الحمصي ، قالوا : ثنا علي بن عياش الحمصي ، ثنا حسان بن نوح ، عن عمرو بن قيس ، عن عبد الله بن بسر ، قال : أتى النبي ﷺ أعرابيان ، فقال أحدهما : من خير الرجال يا محمد ؟ فقال النبي ﷺ : « من طال عمره وحسن عمله » وقال الآخر : إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فبأيه نتمسك ؟ قال : « لا يزال لسانك رطبا (1) من ذكر الله »⁸⁰⁷ . رواه الطبراني .

Terjemahnya:

Abu 'ur'ah al-Dimasyqi, dan Ahmad ibn Muhammad menceritakan kepada kami, Ali bin Ayyas menceritakan kepada kami, Hassan ibn N-h menceritakan kepada kami, dari Amr ibn Qais al-Kindi, dari Abd Allah ibn Busri berkata; Nabi saw., didatangi dua orang Arab, salah satu diantaranya bertanya, ya, Muhammad.siapa laki-laki yang baik, maka Nabi saw., bersabda: Siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan bertanya yang lain, sesungguhnya syariat Islam telah banyak.... Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR. al-Tabrani.

2.Hadis Tentang zikir lebih utama dari segala amal.

1. Riwayat Malik.

441 - وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَأَرْكَأَهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْفُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذَكَرُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ زَيْدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَا

⁸⁰⁷ al-Tabrani, *Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani*, kitab ma intaha ilaina min musnad Basyir bin al-Ala`i akhi Abd Allah, bab ma intaha ilaina min hadis Amr bin Qais al-Kindi summa al-Sak-ni, juz VII, h. 321. nomor hadis 2487.

عَمَلِ ابْنِ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.⁸⁰⁸ رواه مالك

Terjemahnya:

Dari Malik menceritakan kepadaku, dari Ziyad ibn Abi Ziyad berkata; Abi Darda` ra. Berkata: Nabi saw., bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebuah amalan yang lebih baik dan lebih tinggi derajatnya bagi kalian, lebih bersih di sisi Rabb kalian, dan lebih baik dari menyedekahkan emas dan uang. Dan lebih baik dari saat kalian bertemu musuhmu sehingga kalian memenggal kepala mereka dan mereka memenggal kepala kalian?” Mereka menjawab; “Tentu.” Abu Darda berkata, “Yaitu dzikir kepada Allah Ta’ala.” Ziyad bin Abu Ziyad berkata; [Abu Abdurrahman Mu’adz bin Jabal] berkata, “Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam, yang lebih bisa menyelamatkannya dari adzab Allah selain dzikir kepada Allah.”..... HR. Malik.

2. Riwayat al-Turmuzi.

3299 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زِيَادِ مَوْلَى ابْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْبَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْكَأَهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْفُقُوا عِدْوَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.⁸⁰⁹ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Al-Husain ibn Hurais menceritakan kepada kami, al-Fadl ibn M-sa menceritakan kepada kami, dari Abdullah ibn Sa`id, dari Ziyad, dari Abu Bahriyah dari Abi Darda` ra. Berkata: Nabi saw., bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebuah amalan yang lebih baik dan lebih tinggi derajatnya bagi kalian, lebih bersih di sisi Rabb kalian, dan lebih baik dari menyedekahkan emas dan uang. Dan lebih baik dari saat kalian bertemu

⁸⁰⁸ Malik. *Muwatta` Malik, kitab al-nida` li al-jalat, bab ma ja`a fi zikrillah tabaraka wa ta`ala*, juz II, h. 141. nomor hadis 441.

⁸⁰⁹ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Rasulillah, bab minhu*, juz XI, h. 230. nomor hadis 3299.

musuhmu sehingga kalian memenggal kepala mereka dan mereka memenggal kepala kalian?” Mereka menjawab; “Tentu.” Abu Darda berkata, “Yaitu dzikir kepada Allah Ta’ala.” Ziyad bin Abu Ziyad berkata; [Abu Abdurrahman Mu’adz bin Jabal] berkata, “Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam, yang lebih bisa menyelamatkannya dari adzab Allah selain dzikir kepada Allah.”..... HR. Al-Turmuzi.

3. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

21064 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ عَمَلًا قَطُّ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.⁸¹⁰ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abdullah menceritakan kepada kami, Bapakku menceritakan kepadaku, Hujain ibn al-Musanna menceritakan kepada kami, Abd al-Aziz menceritakan kepada kami, dari Ziyad ibn Ziyad dari Mu’az ibn Jabal berkata; Rasulullah saw., bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebuah amalan yang lebih baik dan lebih tinggi derajatnya bagi kalian, lebih bersih di sisi Rabb kalian, dan lebih baik dari menyedekahkan emas dan uang.....”. HR. Ahmad ibn Hanbal.

4. Riwayat al-Hakim.

1779 - أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرور ، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، ثنا مكى بن إبراهيم ، ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش ، وأبي بحرية ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال : قال النبي ﷺ : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم ، وأزكاها (1) عند مليكم وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ، ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا : وما ذاك يا رسول

⁸¹⁰ Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab musnad al-Anjar, bab hadis Mu`az bin Jabal radiyallahu anhu ta`ala* , juz 54, h. 57. nomor hadis 21064.

الله؟ قال: « ذكر الله عز وجل » وقال معاذ بن جبل: « ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل ».⁸¹¹
رواه الحاكم

5. Riwayat al-Tabrani.

16765 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا عَمَلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ"، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَلَا، إِلَّا أَنْ تَضْرِبَ بِسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقُطَ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.⁸¹² رواه الطبراني

6. Riwayat Ibn Abu Hatim.

500 - وحدثني عن مالك ، عن زياد بن أبي زياد أنه قال : قال أبو الدرداء : « ألا أخبركم بخير أعمالكم ، وأرفعها في درجاتكم ، وأزكاها عند مليكم ، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق (1) ، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ، ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى ، قال : ذكر الله تعالى » قال زياد بن أبي زياد ، وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل : « ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله ، من ذكر الله ».⁸¹³ رواه ابن أبي حاتم

7. Riwayat al-Baihaqi.

548 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا إبراهيم وهو ابن حمزة ، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، عن عبد الله

⁸¹¹ al-Hakim. *Al-Mustadrak ala al-ṣāhihain li al-Hakim*, kitab bismillahir rahmanir rahim awwalu kitab al-manasik, bab kitab al-da`wat wa al-takbir, wa al-tahlil, wa al-tasbih, wa al-zikir, juz IV, h. 372. nomor hadis 1779.

⁸¹² al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-Kubra li al-Tabrani, bab juz IV, h. 92. nomor hadis 16165

⁸¹³ Ibn Abi Hatim. *Tafsir Ibn Abi Hatim*, kitab qa-luhu ta`ala; Takallam al-nas fi al-mahdi, bab qa-luhu ta`ala; wa iza takhruju al-mauta` bi izni, juz XXIV, h. 253. nomor hadis 500.

بن سعيد بن أبي هند ، عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش ، عن أبي البحرية ، عن أبي الدرداء ، أن رسول الله ﷺ قال : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها لكم عند مليكم ، وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم ممن أعطي الذهب والورق ، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « ذكر الله » وقال معاذ بن جبل : « ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله » .⁸¹⁴ رواه البيهقي

8. Riwayat al-Baihaqi.

551 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا علي بن عياش ، حدثنا سعيد بن سنان ، حدثني أبو الزاهرية ، عن أبي شجرة واسمه كثير بن مرة ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي ﷺ ، أنه كان يقول : « إن لكل شيء سقالة ، وإن سقالة القلوب ذكر الله ، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله » . قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : « ولو أن تضرب بسيفك حتى ينقطع » .⁸¹⁵ رواه البيهقي

9. Riwayat al-Tabrani.

2479 - حدثنا عمرو بن إسحاق ، ثنا أبو علقمة ، أن أباه ، حدثه ، عن نصر بن علقمة ، عن أخيه محفوظ ، عن ابن عائذ ، عن أبي بشر ، عن أبي رهم ، عن أبي أيوب الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما على ظاهر الأرض من بنيان هو أنجى لامرئ من عذاب الله من ذكر الله عز وجل » قال رجل : ولا الجهاد

⁸¹⁴ al-Baihaqi. Sya`b al-Iman, kitab fasl idamati zikrullah azza wa jalla, bab ala unabbiikum bikhairin a`malakum wa ardaha lakum inda malaikakum wa arfaha, juz II, h. 90. nomor hadis 548.

⁸¹⁵ al-Baihaqi. Sya`b al-Iman, kitab fasl idamati zikrullah azza wa jalla, bab inna likulli sya`in saqalahu, wa in saqalahu al-kul-b zikrullah, juz II, h. 93. nomor hadis 551.

في سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد في سبيل الله وإن ضربت بسيفك حتى ينقطع ». ⁸¹⁶ رواه الطبراني

10. Riwayat al-Tabrani.

1744 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي الزبير ، عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل ». ⁸¹⁷ رواه الطبراني

11. Riwayat al-Baihaqi.

18 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا علي بن عياش ، حدثنا سعيد بن سنان ، حدثني أبو الزاهرية ، عن أبي شجرة واسمه كثير بن مرة ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : « إن » لكل شيء صقالة ، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل ، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله « قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد ، إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ». ⁸¹⁸ رواه البيهقي

12. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

1017 - حدثنا عبد الله ، حدثنا عبد الله بن صندل ، حدثنا فضيل يعني ابن عياض عن يحيى بن سعيد ، عن أبي الزبير قال : أخبرني من سمع معاذًا وهو يقول : ما من شيء أنجى لابن آدم من عذاب الله من ذكر الله ، قالوا : ولا السيف في سبيل الله ثلاث مرات ، قال : ولا أن

⁸¹⁶ al-Tabrani. *Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, kitab ma intaha ilaina min musnad Basri bin al-2la` akhi Abdullah, bab ma intaha ilaina musnad Nasir bin Alqamah*, juz VII, h. 307. nomor hadis 2479.

⁸¹⁷ al-Tabrani. *al-Du`a li al-Tabrani, juz V, h. 20*. nomor hadis 1744.

⁸¹⁸ al-Baihaqi. *Al-Da`wat al-Kabir li al-Baihaqi, juz I, h. 20*. nomor hadis 18.

يضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل حتى ينقطع.⁸¹⁹ رواه احمد بن حنبل

13. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

1034 - حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا حجاج ، حدثنا حريز بن عثمان ، عن المشيخة ، عن أبي بحرية ، عن معاذ بن جبل قال : ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ، قالوا : يا أبا عبد الرحمن ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ، قال : ولا إلى أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ؛ لأن الله عز وجل يقول في كتابه (ولذكر الله أكبر (1).⁸²⁰ رواه احمد بن حنبل

14. Riwayat al-Turmuzi.

3377 حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن زياد مولى ابن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله .⁸²¹ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Al-Husain ibn Hurais menceriterakan kepada kami, al-Fadl ibn M-sa menceriterakan kepada kami, dari Abdullah ibn Sa`id, dari Ziyad, dari Abu Bahriyah dari Abi Darda` ra. Berkata: Nabi saw., bersabda:..... “Maukah kalian aku beritahu sebuah amalan yang lebih baik dan lebih tinggi derajatnya bagi kalian, lebih bersih di sisi Rabb kalian, dan lebih baik dari menyedekahkan emas dan uang. Dan lebih baik dari saat kalian bertemu musuhmu sehingga kalian memenggal kepala mereka dan mereka memenggal kepala kalian?” Mereka menjawab; “Tentu.” Abu Darda berkata, “Yaitu dzikir kepada Allah

⁸¹⁹ Ahmad ibn Hanbal. *Al-Zuhud li Ahmad ibn Hanbal*, kitab juz III, h. nomor hadis 1017.

⁸²⁰ Ahmad ibn Hanbal. *Al-Zuhud li Ahmad ibn Hanbal*, kitab juz III, h. 68, nomor hadis 1034.

⁸²¹ al-Turmuzi. *ṣahih wa Daif Sunan al-Turmuzi*, juz VII, h. 377. nomor hadis 3377.

Ta'ala.” Ziyad bin Abu Ziyad berkata; [Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal] berkata, “Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam, yang lebih bisa menyelamatkannya dari adzab Allah selain dzikir kepada Allah.”HR. Al-Turmuzi.

3. Hadis tentang Berzikir lebih utama daripada berifaq pada jalan Allah.

1. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْضَلُ الذِّكْرُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِسَبْعِ مِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ.⁸²² رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ishaq ibn Isa menceritakan kepada kami ibn Lahi`ah menceritakan kepada kami, dari Khabra ibn Nu`aim al-Khadrami, dari Suhail ibn Mu`az ibn Anas al-Juhani dari bapaknya berkata; Rasulullah saw., bersabda: zikir lebih utama daripada berinfaq pada jalan Allah tabaraka wa ta'ala, tujuh puluh ribu kali lipat. HR. Ahmad ibn Hanbal.

2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal

15060 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رَشْدِينٌ عَنْ رَبَّانٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الذِّكْرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى يُضَعَّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ بِسَبْعِ مِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ.⁸²³ رواه احمد بن حنبل

⁸²² Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab *musnad al-muksirin*, bab *hadis Mu`az bin Anas al-Juhani*, juz XXXI, h. 212, nomor hadis 15093.

⁸²³ Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab *musnad al-muksirin*, bab *hadis Mu`az bin Anas al-Juhani*, juz XXXI, h. 212, nomor hadis 15060.

Terjemahnya:

Hasan menceritakan kepada kami, ibn Lahi`ah menceritakan kepada kami, Yahya ibn Gailan menceritakan kepada kami, Risydin menceritakan kepada kami, dari `abban, dari Suhail ibn Mu`az, dari bapaknya berkata; Rasulullah saw., bersabda: zikir lebih utama daripada berinfaq pada jalan Allah tabaraka wa ta`ala, tujuh puluh ribu kali lipat. HR. Ahmad ibn Hanbal.

4. Hadis tentang Orang yang berzikir lebih mulia dari orang yang berperang.

1. Riwayat al-Turmuzi.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ الْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمَا لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهُ أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً.⁸²⁴ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Qutaibah menceritakan kepada kami, Ibn Lahi`ah menceritakan kepada kami, dari Darraj, dari Abu al-Haisam, dari Abu Sa`id al-Khudri, aku bertanya kepada Rasulullah saw., mana Ibadat yang lebih afdal derajatnya disisi Allah pada hari kiamat, beliau bersabda: seorang yang banyak berzikir kepada Allah, aku bertanya lagi, ya Rasulullah dan bagaimana orang yang berperang di jalan Allah, beliau menjawab; sekiranya engkau memerangi dengan pedang orang kafir dan orang musyrik sehingga hancur, niscaya lebih mulia orang-orang yang berzikir. HR. Al-Turmuzi.

2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

11295 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهُ كَثِيرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ الْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ

⁸²⁴ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Rasulillah, bab minhu.* Juz XI, h. 228. nomor hadis 3298.

وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمَا لَكَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ أَفْضَلَ مِنْهُ
دَرَجَةً.⁸²⁵ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Aku bertanya kepada Rasulullah saw., mana Ibadat yang lebih afdal derajatnya disisi Allah pada hari kiamat, beliau bersabda: seorang yang banyak berzikir kepada Allah, aku bertanya lagi, ya Rasulullah dan bagaimana orang yang berperang dijalan Allah, beliau menjawab; sekiranya engkau memerangi dengan pedang orang kafir dan orang musyrik sehingga hancur, niscaya lebih mulia orang-orang yang berzikir. HR. Ahmad ibn Hanbal.

3. Riwayat Abu Ya`la.

1371 - وعن أبي سعيد الخدري قال : قلت : يا رسول الله ، أي العبادة أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : « الزاكرين الله كثيرا » ، قلت : يا رسول الله ، ومن الغازي في سبيل الله ؟ قال : « لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب (1) دما لكان الذاكر الله أفضل منه ». ⁸²⁶ رواه ابي يعلي الموصلي

Terjemahnya:

Dari Abu Sa`id al-Khudri, aku bertanya kepada Rasulullah saw., mana Ibadat yang lebih afdal derajatnya disisi Allah pada hari kiamat, beliau bersabda: seorang yang banyak berzikir kepada Allah, aku bertanya lagi, ya Rasulullah dan bagaimana orang yang berperang dijalan Allah, beliau menjawab; sekiranya engkau memerangi dengan pedang orang kafir dan orang musyrik sehingga hancur, niscaya lebih mulia orang-orang yang berzikir. HR. Abu Ya`l

5. Hadis Tentang orang yang berzikir lebih mulia dari Emas dan Perak.

1. Riwayat al-Turmuzi.

⁸²⁵ Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, kitab baqi musnad al-muksirin, bab musnad Abi Sa`id al-Khudri radiyallahu anhu, juz 23, h. 340. nomor hadis 11295.

⁸²⁶ Abi Ya`la. *Musnad Abi Ya`la*, kitab min musnad Abi Sa`id al-Khudri, bab al-Ibadat afadal darajatan indallah yaum al-qiyamah; qala, juz III, h. 415. nomor hadis 1371.

3019 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثُوبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ { قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنْزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
مَا أَنْزَلَ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَتَتَّخِذَهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانَ ذَاكِرٍ وَقَلْبُ
شَاكِرٍ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ. ⁸²⁷ رواه الترميذي

Terjemahnya:

Abdu ibn Humaid menceritakan kepada kami, Ubaidillah ibn M-sa menceritakan kepada kami, dari Isra`il, dari Mans-r, dari Salim ibn Abu al-Ja`di, dari Tsauban, berkata; Saat turun ayat: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak." (At Taubah: 34) kami bersama nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam dalam salah satu perjalanan beliau lalu sebagian sahabat beliau berkata: Telah diturunkan (ayat) tentang emas dan perak seperti itu, andai saja kita tahu harta terbaik lalu kita mengambilnya. Lalu beliau bersabda: "Harta terbaik adalah lisan yang berdzikir, hati yang bersyukur dan istri mu`minah yang membantu keimanannya (suami)". HR. Al-Turmuzi.

2. Riwayat Ibn Majah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
بْنِ مَرَّةٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثُوبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ فِي
الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا فَأَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ عُمَرُ فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ
ذَلِكَ فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي
أَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِيَتَّخِذُ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا
وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. ⁸²⁸ رواه
ابن ماجه

Terjemahnya:

Muhammad bin Isma`il ibn Samurat menceritakan kepada kami, Waki` memceritakan kepada kami, dari Abd Allah ibn Amr ibn Murrat, dari Bapaknya, dari Salim ibn Abu al-Ja`di, dari Tsauban, berkata; setelah turun ayat tentang perak dan emas.....,

⁸²⁷ al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi, kitab Tafsir al-Qur`an an Rasulillah, bab wa min surat al-Taubat, juz X, h. 360. nomor hadis 3019.*

⁸²⁸ Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah, kitab al-Nikah, bab afdal al-Nisa, nomor hadis 1846.*

maka aku bertanya kepada ya, Rasulullah mana harta yang dapat aku ambil, Rasulullah bersabda: jadilah diantara kamu, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, isteri yang mu`min, yang dapat menolong salah seorang diantara kami atas urusan akhirat.
HR. Ibn Majah.

3. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَتْ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَرَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ.⁸²⁹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abd al-Rahman menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Mans-r, dari Salim ibn Abu al-Ja`di, dari Tsauban, berkata; setelah turun ayat tentang perak dan emas....., maka aku bertanya kepada ya, Rasulullah mana harta yang dapat aku ambil, Rasulullah bersabda: jadilah diantara kamu, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, isteri yang mu`min, yang menolong imannya. HR. Ahmad ibn Hanbal.

4. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا فَأَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ عَمْرٌو أَنَا أَعْلَمُ ذَلِكَ لَكُمْ قَالَ فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرٍ فَأَدْرَكَهُ وَأَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَرَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ.⁸³⁰ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Waki` memceritakan kepada kami, dari Abd Allah ibn Amr ibn Murrat, dari Bapaknya, dari Salim ibn Abu al-Ja`di, dari Tsauban, berkata; setelah turun ayat tentang perak dan emas....., maka aku bertanya kepada ya, Rasulullah mana harta yang dapat

⁸²⁹ Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad al-Anjar, bab wa min hadis Tsawban. Nomor hadis 21358.

⁸³⁰ Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad al-Anjar, bab wa min hadis Tsawban. Nomor hadis 21401.

aku ambil, Rasulullah bersabda: jadilah diantara kamu, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, isteri yang mu`min, yang dapat menolong salah seorang diantara kami atas urusan akhirat.
HR. Ahmad ibn Hanbal.

5.. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي سَلْمٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي الْهَدَيْلِ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ فَحَدَّثَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُكَ تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَاذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَرَوْجَةً تُعِينُ عَلَى الْآخِرَةِ.⁸³¹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad ibn ja`far menceritakan kepada kami, Syu`bah menceritakan kepada kami, Salmun menceritakan kepadaku, berkata; aku mendengar Abd Allah ibn Abu al-Huzail, berkata; shahib menceritakan kepadaku, sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: setelah turun ayat tentang perak dan emas....., maka aku bertanya kepada ya, Rasulullah mana harta yang dapat aku ambil, Rasulullah bersabda: jadilah diantara kamu, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, isteri yang mu`min, yang dapat menolong salah seorang diantara kami atas urusan akhirat.
HR. Ahmad ibn Hanbal.

7.Hadis Tentang Orang yang berzikir Mendapatkan Kebaikan Dunia dan Akhirat.

1. Riwayat Abd al-Razza>q.

(20606) – أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن داود النبي ﷺ قال : ثلاث من كن فيه أعجبني : القصد في الفقر والغناء ، والعدل في الغضب والرضا ، والخشية في السر والعلانية ، وثلاث من كن فيه أهلكنه : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه ، وأربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخره : لسان

⁸³¹ Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad al-Anjar, bab Ahadis rijal min ashabi al-Nabi*, nomor hadis 22022

ذاكر ، وقلب شاکر ، وبدن صابر ، وزوجته موافقة ، أو قال :
مواتية.⁸³² رواه عبد الرزاق

Terjemahnya:

Abd al-Razzaq memberitakan kepada kami, dari Ma`mar, dari Qatadah, sesungguhnya Dawud, Nabi saw., bersabda: Tiga macam yang membuat aku kagum, hemat pada waktu fakir dan kaya, adl pada waktu marah dan ridha, takut pada saat sunyi dan ramai, dan tiga yang dapat membinasakan , yaitu kikir yang ditaati, hawa yang diikuti, dan mengagumi diri sendiri, dan empat macam barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya diberikan kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang bersabar, isteri.yang taat. HR. Abd al-Razzaq.

2. Riwayat al-Baihaqi.

4257 – أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله ، أخبرنا أحمد بن سلمان ، حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا ، حدثنا محمود بن غيلان المروزي ، حدثنا المؤمل بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا حميد الطويل ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة : قلب شاکر ، ولسان ذاکر ، وبدن على البلاء صابر ، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله ». ⁸³³ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abd al-Rahman ibn Ubaidillah memberitakan kepada kami, dari Ahmad ibn Salman memberitakan kepada kami, Abd Allah ibn Abu al-Dunya menceriterakan kepada kami, Mahm-d ibn Gailan al-Marwuzi menceriterakan kepada kami, al-Mu`mal ibn Isma`il menceriterakan kepada kami, Hammad ibn Salamat menceriterakan kepada kami, Humaid al-Tawil menceriterakan kepada kami, dari Talaq ibn HAbub dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: empat macam

⁸³² Abd al-Razzaq. *Musannaf Abd al-Razzaq*, XI, h. 304. nomor hadis 20606.

⁸³³ al-Baihaqi. Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab al-salis wa salas-n min sya`b al-iman wa huwa bana fi ta`did ni`mallah, bab arbaun man u`tiyahunna faqad u`tiyah khairan al-dunya wa al-²khirat; qalbun, juz IX, h. 457. nomor hadis 4258.

barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya diberikan kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang bersabar, isteri yang tidak berhianat pada dirinya dan hartanya. HR.al-Baihaqi

3. Riwayat al-Baihaqi.

4258 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالاً حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا سعيد بن أبي مریم ، أخبرني يحيى بن أيوب ، حدثني ابن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل : « يا معاذ ، قلب شاكر ، ولسان ذاكِر ، وزوجة سالحة تعينك على أمر دنياك ، ودينك خير ، ما اكتنز الناس ». ⁸³⁴ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Abd Allah al-Hafiz, dan Abu Bakar Ahmad ibn al-Hasan memberitakan kepada kami, Abu al-Abbas menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Ishaq al-Sagani menceriterakan kepada kami, Sa'id ibn Maryam menceriterakan kepada kami, Yahya ibn Ayy-b memberitakan kepadaku, Ibn Zahr menceriterakan kepadaku, dari Ali ibn Yazid, dari al-Qasim Abu Abd al-Rahman, dari Abu Umamah berkata; Rasulullah bersabda: Ya Mu'az, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, isteri yang salih yang menolong engkau atas urusan dunia dan kebaikan dunia.. HR. Al-Baihaqi.

4. Riwayat al-Baihaqi.

717 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرقي ، ببغداد ، أنبأنا أحمد بن سليمان النجاد ، حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا ، حدثنا محمود بن غيلان المروزي ، حدثنا المؤمل بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا حميد الطويل ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : « أربع من أعطيهن فقد أعطي خير

⁸³⁴ al-Baihaqi. Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab al-salis wa salas-n min sya`b al-iman wa huwa bana fi ta`did ni`mallah, bab qalibun syakiun wa lisanun zakirun wa zaujatun salihat tuayyinuka ala amrihi, juz IX, h. 458. nomor hadis 4258.

الدنيا والآخرة : قلب شاكر ، ولسان ذاكر ، وبدن على البلاء صابر ، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله»⁸³⁵ رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu al-Qasim Abd al-Rahman ibn Ubaidillah memberitakan kepada kami, dari Ahmad ibn Salman memberitakan kepada kami, Abd Allah ibn Abu al-Dunya menceriterakan kepada kami, Mahm-d ibn Gailan al-Marwuzi menceriterakan kepada kami, al-Mu`mal ibn Isma`il menceriterakan kepada kami, Hammad ibn Salamat menceriterakan kepada kami, Humaid al-Tawil menceriterakan kepada kami, dari Talaq ibn HABub dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: empat macam barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya diberikan kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang bersabar, isteri yang tidak berhianat pada dirinya dan hartanya. HR.al-Baihaqi.

5. Riwayat Abu Naim al-Asbaha>ni>.

42 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا حميد الطويل ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن عباس ، أن رسول الله ﷺ قال : « أربيع من أعطيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة : قلب شاكر ، ولسان ذاكر ، وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه في نفسها وماله خونا»⁸³⁶ رواه ابي نعيم

Terjemahnya:

Abu Amr bin Hamdan menceriterakan kepada kami, al-Hasan ibn Sufyan menceriterakan kepada kami, Mahm-d ibn Gailan al-Marwuzi menceriterakan kepada kami, al-Mu`mal ibn Isma`il menceriterakan kepada kami, Hammad ibn Salamat menceriterakan kepada kami, Humaid al-Tawil menceriterakan kepada kami, dari Talaq ibn HABub dari Ibn Abbas,

⁸³⁵ al-Baihaqi. *Al-2dab li al-Baihaqi, kitab min hamdillah azza wajalla fi al-sarair wa al-darra`i, bab bab arbaun man u`tiyahunna faqad u`tiyah khairan al-dunya wa al-2khirat* juz II, h. 495. nomor hadis 717.

⁸³⁶ Abi Naim al-Asbahani. *Al-Arba-n ala mashab al-Mutahaqqin min al-S-fiyah li Abi Naim al-Asbahani, kitab wa minha al-ta`yid bi al-hisali allati zafara biha al-amal, bab arbaun man u`tiyahunna faqad u`tiyah khairan al-dunya wa al-2khirat* , juz I, h. 72. nomor hadis 42.

sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: empat macam barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya diberikan kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang bersabar, isteri yang tidak berhianat pada dirinya dan hartanya.

6. Riwayat al-Syukr, kitab al-Syukru.

34 - حدثنا محمود بن غيلان المروزي ، حدثنا المؤمل بن إسماعيل ، نا حماد بن سلمة ، حدثنا حميد الطويل ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن عباس ، أن رسول الله قال : « أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة : قلب شاكر ، ولسان ذاكِر ، وبدن على البلاء صابر ، وزوجة لا تبغيه خوفا في نفسها ولا ماله ».⁸³⁷ رواه الشكر

Terjemahnya:

Mahm-d ibn Gailan al-Marwuzi menceriterakan kepada kami, al-Mu`mal ibn Isma`il menceriterakan kepada kami, Hammad ibn Salamat menceriterakan kepada kami, Humaid al-Tawil menceriterakan kepada kami, dari Talaq ibn HAbub dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: empat macam barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya diberikan kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang bersabar, isteri yang tidak berhianat pada dirinya dan hartanya. HR. Al-Syukr.

7. al-Sabr wa al-Sawab alaih, kitab al-Sabr wa al-Sawab alaih.

34 - حدثنا محمود بن غيلان المروزي ، والحسن بن الصباح قالوا : حدثنا المؤمل بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا حميد الطويل ، عن طلق بن حبيب ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة : قلب شاكر ، ولسان ذاكِر ، وبدن على البلاء صابر ، وزوجة لا تبغيه خوفا في نفسه ولا ماله »⁸³⁸

Terjemahnya:

⁸³⁷ al-Syukr, kitab al-Syukru, bab arbaun man u`tiyahunna faqad u`tiyah khairan al-dunya wa al-²akhirat ,juz I, h. 35. nomor 34.

⁸³⁸ al-Sabr wa al-Sawab alaih, kitab al-Sabr wa al-Sawab alaih, bab qalibun syakiun wa lisanun zakirun wa badanun ala al-balai sabirun, juz I, h. 35. nomor hadis 34.

Mahm-d ibn Gailan al-Marwuzi menceritakan kepada kami, al-Mu`mal ibn Isma`il menceritakan kepada kami, Hammad ibn Salamat menceritakan kepada kami, Humaid al-Tawil menceritakan kepada kami, dari Talaq ibn HAbub dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: empat macam barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya diberikan kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang bersabar, isteri yang tidak berhianat pada dirinya dan hartanya.

8.Hadis tentang Zikir dengan Memakai Istilah “Mala>i”.

1. Riwayat al-Bukha>ri>.

6856 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِيهِ أَتَيْتُهُ هَرَوْلَةً.⁸³⁹ رواه البخاري

Terjemahnya:

Umar bin Hafz menceritakan kepada kami, Abu menceritakan kepada kami, al-A`masy menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Salih, dari Abu Hurayrah ra. berkata, Nabi saw. bersabda: “Allah swt. berfirman: “Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis, mereka lebih baik dari mereka (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan,

⁸³⁹ Al-Bukhari. *ṣahih al-Bukhari, kitab al-tauhid, bab qa-luhu ta`ala wa yuhazzirukum Allah nafsahu*, juz XXII, h. 409. nomor hadis 6856.

maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.”HR.al-Bukhari.

2. Riwayat Muslim

- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً⁸⁴⁰. رواه مسلم

Terjemahnya:

Qutaibah bin Sa'id dan Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, dan lafaz dari Qutaybah, keduanya berkata, Jarir menceritakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurayrah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Allah swt. berfirman: "Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis, mereka lebih baik dari mereka (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari."HR.Muslim.

3. Riwayat Muslim

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنْ أَفْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا

⁸⁴⁰ Muslim. *ṣaḥih Muslim, kitab al-zikri wa al-du`a wa al-taubat wa al-istighfar, bab al-hassu ala zikrillahi ta`ala*, nomor hadis 4832., h. 2061.

تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ أَقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً⁸⁴¹. رواه مسلم

Terjemahnya:

Abu Bakr bin Abu Syaybah dan Abu Kurayb menceritakan kepada kami, dan lafaz dari Abu Kurayb, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Allah swt. berfirman: "Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari."HR. Muslim

4. Riwayat al-Tirmizi.

- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِنْ أَقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً⁸⁴². رواه الترميذي

Terjemahnya:

Abu Kurayb menceritakan kepada kami, Ibnu Numayr dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Allah swt. berfirman: "Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia

⁸⁴¹ Muslim. *ṣahih Muslim, kitab al-zikri wa al-du'a wa al-taubat wa al-istigfar, bab fadli al-zikri wa al-du'a wa al-taqarrub ilallahi ta'ala*, nomor hadis 4851. h. 2068.

⁸⁴² al-Turmuzi, *Sunan al-Tirmizi, Kitab al-da'awat bab husn al-zhan bi Allah 'azza wa jalla*, h. 542.

berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.”HR. al-Turmuzi

5. Riwayat Ibnu Majah

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ
جِبْنَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي
مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ
ذِرَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِيهِ أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً.⁸⁴³ رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Abu Bakr bin Abu Syaybah dan ‘Aliy bin Muḥammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu’awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A’asy, dari Abu Salih, dari Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Allah swt. berfirman: “Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir (mengingat) Aku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.”

⁸⁴³ Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan ibn Majah, Kitab al-adab, bab fadhl al-‘amal*, juz II (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M./1415 H.), h. 435.

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَعَ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شَبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي.⁸⁴⁴ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abu Mu'awiyah dan Ibnu Numayr menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Allah swt. berfirman: "Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari." HR. Ahmad bin Hanbal.

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَلْمَانَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمِيدٍ وَثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ وَصَالِحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ

⁸⁴⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah radiyallahu anhu, nomor hadis 7115. h. 251.

ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ مِنَ النَّاسِ
ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ⁸⁴⁵. رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari ‘Atha’ bin al-Sayb, dari Salman al-Agar, dari Abu Hurayrah, sesungguhnya Nabi saw., dan Humayd dan ‘Abit al-Bunaniy serta Salih bin ‘akwan, dari al-Hasan, dari Abu Hurayrah, dari Nabi saw. atas apa yang diceritakan dari Tuhannya, sesungguhnya ia bersabda: “barang siapa yang berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.”HR. Ahmad bin Hanbal

8. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلْمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْكِي عَنْ
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي
فِي مَلَأٍ مِنَ النَّاسِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ⁸⁴⁶. رواه احمد
بن حنبل

Terjemahnya:

‘Affan menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu Salamah menceritakan kepada kami, dari ‘Atha’ bin al-Sayb, dari al-Agar, dari Abu Hurayrah, dari Nabi saw., atas apa yang diceritakan dari Tuhannya, ia bersabda: “barang siapa yang berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu, dan barang siapa yang berzikir keada-Ku dalam majelis manusia, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam

⁸⁴⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah radiyallahu anhu, nomor hadis 9834. h. 354.

⁸⁴⁶ *Ibid.*, h. 405.

majelis yang lebih banyak dan lebih bagus dari mereka (yaitu majelis malaikat).” HR. Ahmad bin Hanbal.

9. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِدْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ جَاءَنِي يَمْشِي جِئْتُهُ مَهْرُولًا⁸⁴⁷. رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

‘Affan menceritakan kepada kami, ‘Abd al-Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata, Sulayman al-A’masy menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Salih menceritakan kepada kami, ia berkata, saya mendengar Aba Hurayrah berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Allah ‘azza wa jalla berfirman: “Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekati kepada-Ke sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal.

10. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِي عِنْدَ ظَنِّهِ بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ وَإِنْ

⁸⁴⁷ *Ibid.*, h. 413.

تَقَرَّبَ مِنِّي سِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ بَاعًا
وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً⁸⁴⁸. رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulayman, dari 'akwan, dari Abu Hurayrah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Allah 'azza wa jalla berfirman: "Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya apabila ia memanggil-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik dan lebih bagus dari mereka (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekat kepada-Ke sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari." HR. Ahmad bin Hanbal.

11. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ
يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ
ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٌ مِنْ مَلِكِهِ الَّذِينَ يَذْكُرُونِي فِيهِمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي
سِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا
جَاءَنِي يَمْشِي جِئْتُهُ هَرْوَلٌ لَهُ الْمَنْ وَالْفَضْلُ⁸⁴⁹. رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Surayj bin Nu'man menceritakan kepada kami, ia berkata, Fulayh menceritakan kepada kami, dari Hilal bin 'Aliy, dari 'Abd al-Rahman bin Abu 'Amrah, dari Abu Hurayrah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Allah 'azza wa jalla berfirman: "Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya apabila ia memanggil-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu.

⁸⁴⁸ *Ibid.*, h. 480.

⁸⁴⁹ *Ibid.*, h. 482.

Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekati kepada-Ke sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal.

12. Riwayat Ahmad bin Hanbal

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْتُكَ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ دَنَوْتُ مِنِّي شَبْرًا دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعًا وَإِنْ دَنَوْتُ مِنِّي ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعًا وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمْشِي أَتَيْتُكَ أَهْرُولٌ⁸⁵⁰. رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

‘Abd al-Razzaq menceritakan kepada kami, Ma’mar menyampaikan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “wahai anak Adam! “Apabila kamu berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatimu), maka Aku pun ingat pula kepadamu seperti itu. Kalau kamu berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadamu dalam majelis yang lebih baik dari mereka (yaitu majelis malaikat). Dan apabila kamu mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadamu sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadamu lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal.

13. Riwayat Ibn Battah.

2639 - حدثنا القافلائي ، قال : ثنا الصاغاني ، قال : ثنا علي بن بحر بن بري قال : ثنا جرير ، وأبو معاوية عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خير منهم ، وإن اقترب

⁸⁵⁰ *Ibid.* Jilid III, h. 138.

إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا (1) وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.⁸⁵¹ رواه ابن بطّة

Terjemahnya:

Al-Qafalani menceritakan kepada kami, al-shagani menceritakan kepada kami, Ali bin Bahr bin Bari menceritakan kepada kami, Jarir dan Abu Mu`awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Allah swt. berfirman: “Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR.Battah.

14. Riwayat Ibn Hibban.

812 - أخبرنا عبد الله بن قحطبة بن مرزوق ، قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : أخبرنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « قال الله تبارك وتعالى : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حيث يذكرني ، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.⁸⁵² رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-shabbah menceritakan kepada kami, Jarir memberitakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Allah swt.

⁸⁵¹ Ibn Battah. *Al-Ibanah al-Kubra li Ibn Battah, kitab bab, bab jani` min ahadis al-sifat*, juz VI, h. 283, nomor hadis 2639.

⁸⁵² Ibn Hibban, *ʿahih Ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-azkar*, juz IV, h. 114, nomor hadis 812.

berfirman: “Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR.Ibn Hibban.

9.Hadis Tentang Ataituhu Harwatan

1. Riwayat al-Bukhari.

6982 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشِيًّا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.⁸⁵³ رواه البخاري

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: “Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR. Al-Bukhari

2. Riwayat Muslim.

4850 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ

⁸⁵³ Al-Bukhari, *ṣahih al-Bukhari, kitab al-ta-hid, bab al-zikri al-Nabi sallallahu alaihi wasallam wariwayatihi an rabbihi*, juz XXIII, h.70. nomor hadis 6982.

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمْسِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.⁸⁵⁴ رواه مسلم

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritakannya kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi' al-Harawi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakannya kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: "Allah swt. berfirman: "Dan apabila hambaku mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari." HR.Muslim.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

10210 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي النَّبِيَّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْنِي الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا.⁸⁵⁵ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritakannya kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi' al-Harawi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakannya kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: "Allah swt. berfirman: "Dan apabila hambaku mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari." HR. Ahmad bin Hanbal.

⁸⁵⁴ Muslim. *ṣaḥih Muslim, kitab al-zikri wa al-du'a wa al-ta-bah wa al-istighfar, bab fadli al-zikri wa al-du'a wa al-taqarrub ilallahi ta'ala*, juz XIII, h. 190, nomor hadis 4850.

⁸⁵⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah radiyallahu anhu*, juz XXI, h. 254, nomor hadis 10210.

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal

11786 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي مَاشِيًا أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً.⁸⁵⁶ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritakannya kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi' al-Harawi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakannya kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: "Allah swt. berfirman: "Dan apabila hambaku mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari." HR. Ahmad bin Hanbal.

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal

11839 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي رَجَمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِيهِ أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً.⁸⁵⁷ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritakannya kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi' al-Harawi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakannya kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: "Allah swt. berfirman: "Dan apabila hambaku mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya

⁸⁵⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab musnad Anas bin Malik, juz XXIV, h. 332, nomor hadis 11786.

⁸⁵⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab musnad Anas bin Malik, juz XXIV, h. 385, nomor hadis 11839.

sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal.

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal

11870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي سِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمْسِيهِ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.⁸⁵⁸ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritakan kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi' al-Harawi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: “Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal.

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

13369 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي سِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي يَمْسِيهِ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.⁸⁵⁹ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritakan kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi' al-Harawi menceritakan kepada

⁸⁵⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab musnad Anas bin Malik, juz XXIV, h. 416, nomor hadis 11870.

⁸⁵⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab baqi musnad al-Muksirin, bab musnad Anas bin Malik, juz XXVII, h. 416, nomor hadis 13369.

kami, Syu`bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: “Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal.

8. Riwayat Abu Ya`la.

3098 - حدثنا أبو موسى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، قال : سمعت قتادة ، يحدث عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال ربكم تبارك وتعالى : إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإذا تقرب ذراعا تقربت إليه باعا ، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة (1) ». ⁸⁶⁰ رواه أبي يعلي

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritakannya kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada kami, Syu`bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: “Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR. Abu Ya`la

9. Riwayat Abu Ya`la.

3181 - حدثنا أحمد ، حدثنا حجاج بن محمد ، قال : حدثني شعبة ، قال : سمعت قتادة بن دعامة ، يحدث ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال ربكم : إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت

⁸⁶⁰ Abi Ya`la. Musnad Abi Ya`la, kitab Qatadah bin Anas, bab iza taqarraba abdu minni syibran taqarrabtu ilaihi ziraan, juz VII, h. 211, nomor hadis 3096.

ذراعا ، وإذا تقرب ذراعا تقربت باعا (1) ، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة (2) «⁸⁶¹ رواه أبي يعلى

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritakannya kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi' al-Harawi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakannya kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: "Allah swt. berfirman: "Dan apabila hambaku mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari." HR.

10. Riwayat Ibn Hibban.

377 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا محمد بن المتوكل ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : حدثني أبي ، قال : أنبأنا أنس بن مالك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « قال الله تبارك وتعالى : إذا تقرب عبدي مني شبرا ، تقربت منه ذراعا ، وإذا تقرب مني ذراعا ، تقربت منه باعا ، وإذا أتاني مشيا ، أتيته هرولة (1) ، وإن هرول سعيت إليه ، والله أوسع بالمغفرة »⁸⁶² رواه ابن حبان

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritakannya kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi' al-Harawi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakannya kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: "Allah swt. berfirman: "Dan apabila hambaku mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekati kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekati kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia

⁸⁶¹ Abi Ya'la. *Musnad Abi Ya'la*, kitab *Qatadah bin Anas*, bab *iza taqarraba abdu minni syibran taqarrabtu ilaihi ziraan*, juz II, h.243, nomor hadis 3181.

⁸⁶² Ibn Hibban. *ṣahih Ibn Hibban*, kitab *al-bir wa al-ihsan*, bab *ma ja'a fi al-ta'atu wa sawabiha*, juz II, h. 243, nomor hadis 377.

datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR.Hibban

11. Riwayat Abd bin Humaid.

1171 - أنا يزيد بن هارون ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « قال ربكم عز وجل : إن تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا ، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة .»⁸⁶³ رواه عبد بن حميد

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritakannya kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi' al-Harawi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakannya kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: “Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR.Abd bin Humaid.

12. Riwayat al-Tabrani.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ، عَنْ أَبِي عُمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ رَفَعَهُ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي يَمْسِيهِ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً".⁸⁶⁴ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Muhammad bin Abd al-Rahim menceritakannya kepada kami, Abu Zaid Sa'id bin al-Rabi' al-Harawi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakannya kepada kami, dari Qatadah dari Anas ra, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya: “Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku

⁸⁶³ Abd bin Humaid. *Musnad Abdu bin Humaid, kitab musnad Anas bin Malik, bab qala rabbukum azza wajalla `an taqarruba abdi*, juz III, h. 291, nomor hadis 1171.

⁸⁶⁴ Al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, bab juz II*, h. 67.

akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” HR. Al-Tabrani

10. Hadis tentang Allah swt., selalu bersama orang yang berzikir.

1. Riwayat al-Bukhari

وَفَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتِهِ.⁸⁶⁵ رواه البخاري

Terjemahnya:

Ketika turun kepadanya wahyu dan berkata Abu Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya Allah ta'ala berfirman: Aku bersama hamba-Ku, dimanapun dia mengingat Aku dan menggerakkan kedua bibirnya. HR. al-Bukhari.

2. Riwayat ibn Majah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتِهِ.⁸⁶⁶ رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

Abu Bakr menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mus'ab menceritakan kepada kami dari al-Awza'i dari Isma'il bin Ubaidillah dari Ummi al-Darda' dari Abu Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku bersama hamba-Ku, apabila dia mengingat Aku dan menggerakkan kedua bibirnya. HR. Ibn Majah.

⁸⁶⁵ al-Bukhari, *ʿahih al-Bukhari, Kitab al-Tawhid*, bab qauli taala la tuhahhik bihi lisanaka, juzXXIII, h. 50

⁸⁶⁶ Muhammad bin Yazid Ab- Abdillah al-Qazwini (disebut Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, juz II (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h.1246. *Kitab al-Adab bab Fadl al-zikir*, nomor hadis 3782. Ahmad bin Hanbal (selanjutnya disebut Ahmad), *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz II (Kairo: Muassasah Mathbaah, t.th), h. 540. *Kitab Baqi musnad muksirin, bab baqi musnad al-sabiq*, nomor hadis 10981.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ وَأَبُو الْمُغِيرَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي
 وَتَحَرَّكَتْ شَفَاتُهُ.⁸⁶⁷ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Mus`ab dan Abu al-Mugirah menceritakan kepada kami berkata; al-Awza`i menceritakan kepada kami, dari Isma`il bin Ubaidillah dari Ummi al-Darda` dari Abu Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku bersama hamba-Ku, apabila dia mengingat Aku dan menggerakkan kedua bibirnya. HR . Ahmad bin Hanbal.

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ
 وَجَلَّ عَبْدِي عِنْدَ ظَنِّهِ بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.⁸⁶⁸ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Kasir bin Hisyam menceritakan kepada kami Ja`far ibn Burqan menceritakan kepada kami, Yasid bin al-Asham dari Abu Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: hamba-Ku disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia berdoa kepadaKu. HR . Ahmad bin Hanbal.

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي
 إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ الْحَسْحَاسِ الْمُرَبِّيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ
 أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁸⁶⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab al-Baqi *Musnad al-Mukassirin*, bab baqi al-musnad al-sabiq, nomor hadis 10545.

⁸⁶⁸ Riwayat Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab al-Baqi *Musnad al-Mukassirin*, bab baqi al-musnad al-sabiq, nomor hadis 10538.

وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَّتَاهُ.⁸⁶⁹ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Yazid bin Abdi Rabbih menceritakan kepada kami al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Ibn Jabir, Ismail bin Abdillah menceritakan kepadaku, dari Karimah binti al-Hashas al-Muzayyanah berkata; Aku mendengar Abu Hurairah berkata kepada binti Ummi al-Darda'; Rasulullah saw bersabda:: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku bersama hamba-Ku, apabila dia mengingat Aku dan menggerakkan bibirnya. HR . Ahmad bin Hanbal

6. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ الْحَسَّاسِ الْمُرِّيَّةِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ هَذِهِ يَغْنِي أُمَّ الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتُرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَّتَاهُ.⁸⁷⁰ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abd Allah memberitakan kepada kami, Abd al-Rahman bin Yazid bin Jabir memberitakan kepada kami, Ismail bin Abdillah menceritakan kepadaku, dari Karimah binti al-Hashas al-Muzayyanah berkata; Aku mendengar Abu Hurairah berkata kepada binti Ummi al-Darda'; Rasulullah saw bersabda:: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku bersama hamba-Ku, apabila dia mengingat Aku dan menggerakkan bibirnya. HR . Ahmad bin Hanbal

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal,

⁸⁶⁹ Riwayat Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab al-Baqi Musnad al-Mukassirin, bab baqi al-musnad al-sabiq, nomor hadis 10552.

⁸⁷⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab al-Baqi Musnad al-Mukassirin, bab baqi al-musnad al-sabiq, nomor hadis 10553.

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي.⁸⁷¹ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

R-h menceritakan kepada Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami dari Abu Salih dari Abu Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku bersama hamba-Ku, apabila dia mengingat Aku. HR . Ahmad bin Hanbal

8. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا
عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي.⁸⁷² رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

R-h menceritakan kepada Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami dari Abu Salih dari Abu Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku bersama hamba-Ku, apabila dia mengingat Aku. HR . Ahmad bin Hanbal

9. Riwayat Ahmad bin Hanbal,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.⁸⁷³ رواه أحمد بن حنبل

Terjemahnya:

Waki `menceritakan kepada kami, Ja`far bin Burqan menceritakan kepada kami, dari Yazid bin al-Asham dari Abu

⁸⁷¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab al-Baqi *Musnad al-Mukassirin*, bab baqi al-musnad al-sabiq, nomor hadis 10286.

⁸⁷² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab al-Baqi *Musnad al-Mukassirin*, bab baqi al-musnad al-sabiq, nomor hadis 10267

⁸⁷³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, kitab al-Baqi *Musnad al-Mukassirin*, bab baqi al-musnad al-sabiq, nomor hadis 9373

Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: hamba-Ku disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia berdoa kepadaKu. HR . Ahmad bin Hanbal

10. Riwayat al-Hakim

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا بشر بن بكر ، ثنا الأوزاعي ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله يقول : أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه ⁸⁷⁴ .

Terjemahnya:

Abu al-Abbas Muhammad bin Ya`q-b menceritakan kepada kami, Bahar bin Nasr menceritakan kepada kami, Basyir bin Bakar menceritakan kepada kami, al-Auza`i menceritakan kepada kami, dari Isma`il bin Ubaidillah, dari Ummu al-Darda`, dari Abu al-Darda` ra. berkata; aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: hamba-Ku disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia mengingat kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya. HR . Ahmad bin Hanbal

11. Riwayat al-Tabrani

حدثنا محمد بن عبدة المصيبي ، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ، ثنا محمد بن مهاجر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن كريمة بنت الحساس ، قالت : حدثنا أبو هريرة في بيت هذه ، يعني : أم الدرداء ، أن رسول الله ﷺ قال : « يقول الله : أنا مع عبدي ما ذكرني ، وتحركت بي شفتاه. ⁸⁷⁵ رواه الطبراني

Terjemahnya:

Muhammad bin Abdat menceritakan kepada kami, Abu Taubat al-Rabi` bin Nafi` menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhajir menceritakan kepada kami, dari

⁸⁷⁴ al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-çahihain, Kitab bismillahi al-rahmani al-rahim awwali kitab wa al-manasik, bab al-du`abwa al-takbir wa al-tahlil wa al-tasbih wa al-zikr*, juz IV, h. 371. nomor hadis 1778.

⁸⁷⁵ al-Tabrani, *al-Mu`jam al-Awsat al-Tabrani, kitab al-a`in, bab al-mim min ismihi : Muhammad* , juz XIV, h. 388

Isma`il bin Ubaidillah, dari Karimah binti al-Hashas berkata; Abu Hurairah menceritakan kepada kami, di rumah Ummu al-Dar`da` Rasulullah saw., bersabda: Allah berfirman: hamba-Ku disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia mengingat kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya HR . Ahmad bin Hanbal

12. Riwayat al-Baihaqi

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن محمد بن سليمان ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا إسحاق بن بكر ، عن أبيه ، عن جعفر بن ربيعة ، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن إسماعيل بن عبيد الله مولى بني مخزوم قال : دخلت على أم الدرداء فلما سلمت جلست ، سمعت كريمة بنت الحساس المزنية - قال : وكانت من صواحب أم الدرداء - تقول : سمعت أبا هريرة في بيت هذه تشير إلى أم الدرداء يقول : سمعت أبا القاسم رضي الله عنه يقول : « إن الله عز وجل قال : أنا مع عبدي ما ذكرني ، وتحركت بي شفتاه⁸⁷⁶ . رواه البيهقي ،

Terjemahnya:

Al-Syaikh al-Imam Abu Talib Sahal bin Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami , Abu al-Abbas Muhammad bin Ya`q-b menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abd Allah bin Abd al-Hakam menceritakan kepada kami, Ishaq bin Bakar memberitakan kepada kami, dari Bapaknya dari Ja`far bin RAbu`ah, dari RAbu`ah bin Yazid al-Dimasyqi, dari Isma`il bin Ubaidillah Mawla bani Mahz-m berkata: aku masuk dirumah Ummu al-Dar`da, ketiaka aku memberi salam dan duduk aku mendengar Karimah binti al-Hashas berkata; dia adalah sahabat Ummu al-Darda` berkata: aku mendengar Aba Hurairah dirumah Ummu al-Darda` berkata: aku mendengar Aba al-Qasim saw., bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: hamba-Ku disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia mengingat kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya. HR . Ahmad bin Hanbal

⁸⁷⁶ Ab- Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn M-sa al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab fasl fi idamati zakarallahu azza wajalla, bab ana maa abdi ma zakarani wa taharrakati*, juz II, h. 80. nomor hadis 538

13. Riwayat al-Baihaqi

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ، أخبرنا أبي قال : سمعت ابن جابر يقول : حدثني إسماعيل بن عبيد الله ، عن كريمة بنت الحساس المزنية ، أنها قالت : حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه - يعني أم الدرداء - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « قال ربك عز وجل : أنا مع عبدي ما ذكرني ، وتحركت بي شفتاه ⁸⁷⁷ .. رواه البيهقي

Terjemahnya:

Abu Abd Allah al-Hafiz memberitakan kepada kami, Abu al-Abbas Muhammad bin Ya`q-b menceriterakan kepada kami, al-Abbas bin al-Walid menceriterakan kepada kami, Bapakku memberitakan kepada kami, berkata; aku mendengar Ibn Jabir berkata; Isma`il bin Ubaidillah menceriterakan kepadaku, dari Karimah binti al-Hashas sesungguhnya dia berkata; Abu Hurairah menceriterakan kepada kami, dan kami dirumah Ummu al-Dar`a` berkata; aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya Tuhan Azza wa Jalla berfirman: hamba-Ku disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia mengingat kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya. HR . Ahmad bin Hanbal

14. Riwayat Ibn Hibban.

أخبرنا أحمد بن عمير بن جوصا أبو الحسن بدمشق ، قال : حدثنا عيسى بن محمد النحاس ، قال : حدثنا أيوب بن سويد ، عن الأوزاعي ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن كريمة بنت الحساس ، قالت : سمعت أبا هريرة في بيت أم الدرداء يحدث ، عن النبي ﷺ ، قال : « قال الله تبارك وتعالى : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ⁸⁷⁸ .. رواه ابن حبان

⁸⁷⁷ Ab- Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn M-sa al-Baihaqi, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab fasl fi idamati zakarallahu azza wajalla, bab ana maa abdi ma zakarani wa taharrakati*, juz II, h. 81. nomor hadis 539.

⁸⁷⁸ Ibn Hibban, *cahah ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-azkar* , juz IV, h. 122. nomor hadis 816

Terjemahnya:

Ahmad bin Umair bin Jausa Abu al-Hasan Bidamsyiq memberitakan kepada kami, Isa bin Muhammad al-Nahas menceriterakan kepada kami, Ayy-b bin Suwaid menceriterakan kepada kami, dari al-A-za`i, dari Isma`il bin Ubaidillah, dari Karimah bin al-Hashas, berkata: aku mendengar Aba Hurairah di rumah Ummu al-Dar`da` dari Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta`ala berfirman: hamba-Ku disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia mengingat kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya. HR . Ahmad bin Hanbal

15. Riwayat al-Tabrani,

حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ، ثنا عمرو بن عثمان ، ثنا الوليد بن مسلم ، عن ابن جابر ، حدثني إسماعيل بن عبيد الله ، عن كريمة بنت الحساس المزنية ، قالت : سمعت أبا هريرة ، يقول قال رسول الله ﷺ : « قال الله عز وجل : » أنا مع عبدي إذا ما هو ذكرني وتحركت بي شفتاه⁸⁷⁹ .. رواه الطبراني

Terjemahnya:

Ibrahim bin Muhammad bin Uruq al-Hamji menceriterakan kepada kami, Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, al-Walid bin Muslim menceriterakan kepada kami, dari Ibn Jabir, Isma`il bin Ubaidillah menceriterakan kepadaku, dari Karimah binti al-Hashas al-Mazniyah berkata; Aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: hamba-Ku disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia mengingat kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya. HR . al-Tabrani,

16. Riwayat al-Tabrani,

حدثنا محمد بن عبدة المصيبي ، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ، ثنا محمد بن مهاجر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن كريمة بنت الحساس المزنية ، قالت : ثنا أبو هريرة ، في بيت أم الدرداء قال : سمعت

⁸⁷⁹ al-Tabrani, *Musnad al-Syamiyyin al-Tabrani*, kitab ma intaha ilaina min musnad Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Jabir, bab Ibn Jabir an Ismail ibn Ubai, juz II, h.456, nomor hadis 256.

رسول الله ﷺ يقول : [قال الله] : « أنا مع عبدي إذا ذكرني ،
وتحركت [بي] شفثاه⁸⁸⁰ . رواه الطبراني

Terjemahnya:

Muhammad ibn Abdat menceritakan kepada kami, Abu Ta-bat al-Rabi` bin Mafi` menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhajir menceritakan kepada kami, dari Isma`il bin Ubaidillah, dari Karimah binti al-Hashas al-Mazniyah berkata; Abu Hurairah menceritakan kepada kami di rumah Ummu al-Darda` berkata; Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: hamba-Ku disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya, apabila dia mengingat kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya. HR . al-Tabrani,.

11. Hadis-Hadis Tentang Zikir Salawat. akan Diangkat Derajatnya oleh Allah.

1. Riwayat al-Nasa`i.

1280 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.⁸⁸¹ رواه النسائي

Terjemahnya:

Ishaq bin Mans-r menceritakan kepada kami, berkata; Muhammad bin Y-suf menceritakan kepada kami, berkata; Yunusbin Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Buraid bin Abu Maryam berkata; Anas bin Malik menceritakan kepada kami, berkata: Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR. al-Nasa`i.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

⁸⁸⁰ al-Tabrani, *Musnad al-Syamiyyin al-Tabrani*, kitab ma intaha ilaina min musnad Basyir ibn al-²la`ahi Abd Allah, bab ma intaha ilaina min musnad Muhammad ibn Muhajir, juz IV, h.449, nomor hadis 1387.

⁸⁸¹ Al- Nasa`i. Sunan al-Nasa`i, kitab bab juz V, h. 75, nomor hadis 1280.

11560 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاجِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ.⁸⁸² رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Muhammad bin Fudail menceritakan kepada kami, Yunusbin Amr menceritakan kepada kami, dari Buraid bin Abu Maryam dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus.HR.Ahmad bin Hanbal.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

13257 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاجِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ.⁸⁸³ رواه احمد بن حنبل

Terjemahnya:

Abu Nu`aim menceritakan kepada kami, Yunusmenceriterakan kepada kami, Buraid bin Abu Maryam menceritakan kepadaku berkata; Anas bin Malik menceritakan kepadaku berkata: Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus. HR. Ahmad bin Hanbal.

4. Riwayat al-Darimi.

2828 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاجِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا».⁸⁸⁴ رواه الدارمي

⁸⁸² Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab bab, juz XXIV, h. 106, nomor hadis 11560.

⁸⁸³ Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab bab, juz XXVII, h. 304, nomor hadis 13257.

⁸⁸⁴ Al-Darimi. Sunan al-Darimi, kitab bab juz VIII, h. 477, nomor hadis 2828.

Terjemahnya:

Yahya bin Hassan menceritakan kepada kami, Isma`il bin Ja`far al-Madani menceritakan kepada kami dari al-²la`i bin Abd al-Rahman dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya. HR.al-Darimi.

5. Riwayat Ibn Abu Syaibah.

(147) حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال : قال رسول الله ﷺ : " من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات " .⁸⁸⁵ رواه ابن ابي شيبة

Terjemahnya:

Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari al-Sya`bi berkata; Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya. HR. Ibn Abu Syaibah.

6. Riwayat Ibn Abu Syaibah.

(148) حدثنا محمد بن فضيل عن يونس بن عمرو عن بريد بن أبي مريم عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : " من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر سيئات " .⁸⁸⁶ رواه ابن ابي شيبة

Terjemahnya:

Muhammad bin Fudail menceritakan kepada kami, dari Yunusbin Amr, dari Buraid bin Abu Maryam dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus. HR. Ibn Abu Syaibah.

7. Riwayat Ibn Abu Syaibah.

(151) حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال حدثني قيس بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ قال : " سجدت شكرا

⁸⁸⁵ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, kitab *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, bab juz VII, h. 442. nomor hadis 147.

⁸⁸⁶ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, kitab *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, bab juz VII, h. 442. nomor hadis 148.

فيما أبلاني من أمتي ، من صلى علي من أمتي صلاة كتبت له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات " .⁸⁸⁷ رواه ابن ابي شيبة

Terjemahnya:

Zaid bin Habbab menceriterakan kepada kami, dari M-sa bin Ubaidah berkata; Qais bin Abd al-Rahman menceriterakan kepadaku, dari Sa`id bin Ibrahim, dari Bapaknya, dari neneknya dari Abd al-rahman binAuf sesungguhnya Nabi saw, bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus,. HR. Ibn Abu Syaibah.

8. Riwayat al-Nasa`i.

(1220) أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنا محمد بن يوسف ثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم نا أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ من صلى علي صلاة واحدة ﷺ عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات.⁸⁸⁸ رواه النسائي

Terjemahnya:

Ishaq bin Mans-r menceriterakan kepada kami, berkata; Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; Yunusbin Abu Ishaq menceriterakan kepada kami, dari Buraid bin Abu Maryam berkata; Anas bin Malik menceriterakan kepada kami, berkata: Rasulullah saw., bersabda:Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR. al-Nasa`i.

9. Riwayat al-Nasa`i.

(9890) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك انه سمعه يقول قال رسول الله ﷺ من صلى علي صلاة واحدة

⁸⁸⁷ Ibn Abi Syaibah. *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, kitab *Musannaf Ibn Abi Syaibah*, bab juz VII, h. 442.nomor hadis 151.

⁸⁸⁸ Al-Nasa`i. *Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i*, kitab *Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i*, bab juz I, h.385, nomor hadis 1220..

صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات ورفعها بها عشر درجات.⁸⁸⁹ رواه النسائي

Terjemahnya:

Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, berkata; Yahya bin Adam memberitakan kepada kami, berkata; Yunus bin Abu Ishaq menceritakan kepada kami, Buraid bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, berkata; dari Anas bin Malik berkata: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR.al-Nasa`i.

10. Riwayat al-Nasa`i.

(9891) أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال ثنا يونس عن بريد بن أبي مريم البصري قال كنت أزامل الحسن بن أبي الحسن في محمل فقال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات⁸⁹⁰. رواه النسائي

Terjemahnya:

Abdu al-Humai« memberitakan kepada kami, berkata; Muhallid bin Yazid menceritakan kepada kami, berkata; Yunus menceritakan kepada kami, dari Buraid bin Abu Maryam berkata; Anas bin Malik menceritakan kepada kami, berkata:Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR.al-Nasa`i.

11. Riwayat al-Nasa>'i>.

(10194) أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ من صلى علي صلاة واحدة ﷺ عشر

⁸⁸⁹ Al-Nasa`i. *Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, h.21, nomor hadis 9890*

⁸⁹⁰ Al-Nasa`i. *Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, juz VI, h.21, nomor hadis 9891.*

صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات.⁸⁹¹
رواه النسائي

Artinya:

Ishaq bin Mans-r menceriterakan kepada kami, berkata; Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; Yunusbin Abu Isha>q menceriterakan kepada kami, dari Buraid bin Abu Maryam berkata; Anas bin Malik menceriterakan kepada kami, berkata: Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR.al-Nasa>'i>

12. Riwayat al-Tabrani>.

7442 - حدثنا محمد بن مسلم ، نا إبراهيم بن سلم بن رشيد بن الفاخر الهجيمي ، ثنا عبد العزيز بن قيس بن عبد الرحمن ، نا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا ، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة ، ومن صلى علي مائة كتب الله بين عينيه : براءة من النفاق ، وبرائة من النار ، وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء » .⁸⁹² رواه الطبراني

Artinya:

Muhammad bin Muslim bin Abdullah menceriterakan kepada kami, Ibra>him bin salam bin Rusyaid al-Hujaimi> al-Basari> menceriterakan kepada kami, Abd al-Azi>z bin Qai>s bin Abd al-Rahma>n , dari Humaid al-Tawi>l, dari Anas bin Ma>lik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersala>wat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR.al-Tabra>ni>.

13. Riwayat al-Tabra>ni>.

900 - حدثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن الجديسابوري ، حدثنا إبراهيم بن سلم بن رشيد الهجيمي البصري ، حدثنا عبد العزيز بن

⁸⁹¹ Al-Nasa`i. *Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i*, juz VI, h.98, nomor hadis 10194.

⁸⁹² Al- Tabra>ni>. *Mu`jam al-A-sat li al-Tabra>nii*, juz XVI, h. 18, nomor hadis 7442.

قيس بن عبد الرحمن ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « من صلى علي صلاة واحدة ، صلى الله عليه عشرًا ، ومن صلى علي عشرًا ، صلى الله عليه مائة ، ومن صلى علي مائة ، كتب الله له بين عينيه : براءة من النفاق ، وبراءة من النار ، وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء »⁸⁹³ . رواه الطبراني

Artinya:

Muhammad bin Muslim bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Salam bin Rusyaid al-Hujaimi al-Basari menceritakan kepada kami, Abd al-Aziz bin Qais bin Abd al-Rahman, dari Humaid al-Tawil, dari Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR.al-Tabrani

14. Riwayat al-Baihaqi.

1518 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا سليمان بن داود العتكي ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال : « من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرًا »⁸⁹⁴ رواه البيهقي

Artinya:

Abu Ali memberitakan kepada kami, Abu Bakar bin Dasyit memberitakan kepada kami, Abu Dawud menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari al-Ala' bin Abd al-Rahman, dari Bapakny, dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Baransiapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR.al-Baihaqi.

15. Riwayat Ibn Hibban.

⁸⁹³ Al-Tabrani. *Mu'jam al-Saghir li al-Tabrani*, juz III, h. 40, nomor hadis 900.

⁸⁹⁴ Al-Baihaqi. *Syabu al-Iman li al-Baihaqi*, juz IV, h. 77, nomor hadis 1518.

906 - أخبرنا محمد بن الحسن بن خليل ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا محمد بن بشر العبدي ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ، وحط (1) عنه عشر خطيئات ».⁸⁹⁵ رواه ابن حبان ،

Artinya:

Muhammad bin al-Hasan bin Hali>li> memberitakakan kepada kami, berkata; Abu> Kurai>b menceriterakan kepada kami, berkata; Muhammad bin Basyar al-Abdi menceriterakan kepada kami, dari Yu>nus bin Abi> Isha>q, dari Burai>d bin Abi> Maryam, dari Anas bin Ma>lik berkata; Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersala>wat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR. Ibn Hibba>n

12. Hadis Tentang Zikir Salawat kepada Muhammad saw., Akan Menghapus Dosa.

1.Riwayat Abd al-Razza>q.

عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن عبد الله بن الحسن عن فاطمة بنت حسين عن فاطمة الكبرى قالت : كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد قال : اللهم صلى على محمد ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح.⁸⁹⁶ رواه عبد الرزاق

Artinya:

Dari Abd al-Razzaq dari Qais ibn Rabi`, dari Abdullah ibn al-Husain, dari Fa>timah binti Husain dari Fatimah al-Kubra> berkata; Sesungguhnya Rasulullah saw., apabia beliau ia masuk masjid beliau mengucapkan; *Allahummaa salli ala Muhammad, Allahummagfirli zunubi waftah.* HR. Abd al-Razzaq.

BAGIAN KEDELAPAN

⁸⁹⁵ Ibn Hibba>n. *ṣahih Ibn Hibba>n*, IV,h.298, nomor hadis 906.

⁸⁹⁶ Abd al-Razzaq. *Musannaf Abd al-Razzaq*, juz I, h. 425.

HADIS-HADIS TENTANG MANFAAT ZIKIR.

I. Hadis Tentang Kaum yang Tidak Berzikir dan Bersalawat”.

1. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَفْعَدًا إِلَّا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلنَّوَابِ.⁸⁹⁷ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Abd al-Rahman menceritakan kepada kami, dari Syu`bah, dari al-A`masy, dari Abi Sa`lih dari Abi` Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Tidak duduk suatu kaum pada suatu Majelis lalu tidak berzikir kepada Allah azza wajalla dan tidak bersalawat atas Nabi saw., kecuali mereka merugi pada hari Kiamat dan jika masuk syurga dengan al-sawab. HR. Ahmad bin Hanbal.

2. Riwayat al-Hakim.

1764 - حدثناه أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري وأبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، قالوا : ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدى ، ثنا أبو صالح محبوب بن موسى ، ثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : « ما جلس قوم مجلسا ، ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ، ويصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة » .⁸⁹⁸ رواه الحاكم

Artinya:

⁸⁹⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab baqi musnad al-muksirin, bab baqi al-musnad al-çabiq*, nomor hadis 9586.

⁸⁹⁸ al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-Sahihain, kitab bismillahi al-Rahmani al-Rahim awwal kitab al-manasik, bab kitab al-du`a, wa al-takbir, wa tahlil, wa al-tasbih, wa al-zikir*, juz IV, h. 357. nomor hadis 1764.

Abu Zakariya Yahya bin Muhammad al-Anbari, dan Abu Bakar Muhammad bin Ja`far al-Mazki menceriterakan kepada kami, Abu Abd Allah Muhammad bin Ibrahim al-Abdi menceriterakan kepada kami, Abu Salih Mahj-b bin M-sa menceriterakan kepada kami, Abu Ishaq al-Fuzari menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Berkata: Tidak duduk suatu kaum pada suatu Majelis, kemudian dia meninggalkan majlis tersebut, sebelum ia berzikir kepada Allah dan bersalawat atas Nabi saw., kecuali mereka merugi pada hari Kiamat. HR.al-Hakim

3. Riwayat Ibn Hibba>n.

593 - أخبرنا حاجب بن أركين الفرغاني بدمشق ، قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ، قال : « ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة ، وإن أدخلوا الجنة للثواب ».⁸⁹⁹ رواه ابن حبان

Artinya:

Ha>jib bin Arki>n al-Firga>ni> Bidamsyiq memberitakan kepada kami, Ahmad bin Ibra>him al-Dau>raqi> menceriterakan kepada kami, Abd al-Rahma>n bin Mahdi> menceriterakan kepada kami, dari Syu`bah, dari al-A`masy, dari Abi> Sa>lih dari Abi> Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Tidak duduk suatu kaum pada suatu Majelis lalu tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat atas Nabi saw., kecuali mereka merugi pada hari Kiamat dan jika masuk syurga dengan al-sawa>b. HR. Ibn Hibba>n.

4. Riwayat Ibn Hibba>n.

594 - أخبرنا حاجب بن أركين الفرغاني ، قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا ابن مهدي ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على

⁸⁹⁹ Ibn Hibban. *Sahih Ibn Hibban, kitab al-Bir wa Ihsan, bab al-Sahibah wa al-majlis*, juz III, h. 177. nomor hadis 593.

النبي ﷺ إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة ، وإن دخلوا الجنة .»⁹⁰⁰
رواه ابن حبان

Artinya:

Ha>jib bin Arki>n al-Firga>ni> Bidamsyiq memberitakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim al-Dau>raqi> menceriterakan kepada kami, Abd al-Rahma>n bin Mahdi> menceriterakan kepada kami, dari Syu`bah, dari al-A`masy, dari Abi> Sa>lih dari Abi> Hurai>rah dari Nabi saw., bersabda: Tidak duduk suatu kaum pada suatu Majelis lalu tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat atas Nabi saw., kecuali mereka merugi pada hari Kiamat dan jika masuk syurga. HR. Ibn Hibba>n.

5. Riwayat Ibn Hibba>n.

592 - أخبرنا أبو عمارة أحمد بن عمارة الحافظ بالكرج ، قال : حدثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما اجتمع قوم في مجلس ، فتنفروا من غير ذكر الله ، والصلاة على النبي ﷺ ، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة .»⁹⁰¹ رواه ابن حبان

Artinya:

Abu> Uma>rat Ahmad bin Uma>rat al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Ahmad bin Isa>m bin Abd al-Maji>d menceriterakan kepada kami, Ma`mul bin Isma`'il menceriterakan kepada kami, Sufya>n menceriterakan kepada kami, Suhail menceriterakan kepada kami, dari Bapaknya dari Abi> Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Tidak duduk suatu kaum pada suatu Majelis lalu tidak berzikir kepada Allah azza wajalla dan tidak bersalawat atas Nabi saw., kecuali mereka merugi pada hari Kiamat dan jika masuk syurga dengan al-sawa>b. HR. Ibn Hibba>n.

6. Riwayat al-Nasa>'i>

(10242) أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال

⁹⁰⁰ Ibn Hibban. *Sahih Ibn Hibban*, juz III, h. 179. nomor hadis 594.

⁹⁰¹ Ibn Hibban. *Sahih Ibn Hibban*, , juz III, h. 175. nomor hadis 592.

قال رسول الله ﷺ ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة.⁹⁰² رواه النسائي

Artinya:

Zakariya> bin Yahya memberitakan kepadaku, Muhammad bin Basysya>r menceriterakan kepada kami, Abu> A<mir menceriterakan kepada kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami, dari Sulaima>n, dari Zakwa>n, dari Abi Sa`id al-Khudri> berkata; Rasulullah saw., bersabda: Tidak duduk suatu kaum pada suatu Majelis lalu tidak berzikir kepada Allah azza wajalla dan tidak bersalawat atas Nabi saw., kecuali mereka merugi pada hari Kiamat dan jika masuk syurga. HR.al-Nasa>'i>

II. Hadis Tentang Kaum Yang Tidak Berzikir.

1. Riwayat Abu Da>wud.

4214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَفُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ.⁹⁰³ رواه ابوداود

Artinya:

Muhammad bin al-Sabba>h al-Bazza>z menceriterakan kepada kami, Isma`il bin Zakariya> menceriterakan kepada kami, dari Suhail bin Abi Salih, dari Bapaknya, dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Tidaklah dari suatu kaum, mereka berdiri meninggalkan majlis, tidak berzikir kepada Allah, kecuali mereka berdiri seperti..... dan mereka adlah merugi. HR. Abu D\`a>wud.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا

⁹⁰² al-Nasa`a>i. *Sunan al-Kubra> li al-Nasa`>'i*, juz VI, h. 108. nomor hadis 10242

⁹⁰³ Abu> Da>wud. *Sunan Abi> Da>wud*, , juz XII, h. 492. nomor hadis 3214.

904. اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ حِيفَةِ حِمَارٍ.
رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muhammad bin Abd al-Rahman menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Seorang laki-laki dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah Saw. (w.11 H) bersabda: "Tidaklah suatu kaum bangkit dari tempat duduknya, dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut, melainkan mereka seperti bangun dari tempat yang semisal dengan bangkai himar,.....HR. Ahmad bin Hanbal.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ إِلَّا تَفَرَّقُوا عَنْ مِثْلِ حِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁹⁰⁵
رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Ruoh menceritakan kepada kami, Hamad menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abi Saalih dari Bapakny dari Abi Hurairah, dari Nabi saw., bersabda: "Rasulullah Saw. (w.11 H) bersabda: "Tidaklah suatu kaum bangkit dari tempat duduknya, dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut, melainkan mereka seperti bangun dari tempat yang semisal dengan bangkai himar, dan kelak akan menjadi penyesalan baginya (di akhirat)." HR. Ahmad bin Hanbal.

4. Riwayat al-Nasa'i>'i>.

(10241) أخبرنا زكريا بن يحيى أخبرنا أبو مصعب بن أبي حازم حدثه وحدنا يعقوب بن الدورقي حدثنا بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ ما اجتمع قوم فتفرقوا عن

⁹⁰⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, , nomor hadis 10010.

⁹⁰⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis 10264.

غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم ترة.⁹⁰⁶ رواه النسائي

Artinya:

Zakariya> memberitakan kepada kami, Abu> Mus`ab bin Abi> Ha>zim memberitakan kepada kami, dan Ya`qu>b bin al-Dauraqi> menceriterakan kepada kami, Ibn Abi> Ha>zim menceriterakan kepada kami, dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Tidaklah berkumpul suatu kaum, maka mereka berpisah lalu tidak berzikir kepada Allah,HR. al-Nasa>'i>

5. Riwayat al-Ha>kim.

1763 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة (1) حمار ، وكان عليهم حسرة يوم القيامة » .⁹⁰⁷ رواه الحاكم

Artinya:

Abu> al-Abba>s Muhammad bin Ya`qu>b menceriterakan kepada kami, al-Rabi` bin Sulaima>n menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, Sulai>ma>n bin Bila>l memberitakan kepadaku, dari Suhai>l bin Abi> Sa>lih dari Bapaknya dari Abi> Hurairah ra., berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah Saw. (w.11 H) bersabda: "Tidaklah suatu kaum bangkit dari tempat duduknya, dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut, melainkan mereka seperti bangun dari tempat yang semisal dengan bangkai himar, dan kelak akan menjadi penyesalan baginya (di akhirat)." HR. al-Ha>kim.

⁹⁰⁶ al-Nasa>'i> *Sunan al-Kubra li al-Nasa>'i>*, juz VI, h. 108. nomor hadis 10241.

⁹⁰⁷ al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-Sahi>hai>n*, juz IV, h. 356. nomor hadis 1763.

6. Riwayat al-Baihaqi>.

568 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما من قوم جلسوا مجلسا ، وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة (1) حمار ، وكان عليهم حسرة يوم القيامة » .⁹⁰⁸ رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> al-Abba>s Muhammad bin Ya`qu>b menceritakan kepada kami, al-Rabi` bin Sulaima>n menceritakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahhab menceritakan kepada kami, Sulaima>n bin Bila>l memberitakan kepadaku, dari Suhai>l bin Abi> Salih dari Bapaknya dari Abu Hurairah ra., berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah Saw. (w.11 H) bersabda: "Tidaklah suatu kaum bangkit dari tempat duduknya, dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut, melainkan mereka seperti bangun dari tempat yang semisal dengan bangkai himar, dan kelak akan menjadi penyesalan baginya (di akhirat)."..... HR. al-Baihaqi>.

III. Hadis Tentang Kaum Yang Tidak Berzikir.

1. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ صَالِحًا مَوْلَى التَّوَّامَةِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ الْقَوْمُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَامُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فِيهِ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁹⁰⁹ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Hajja>j menceritakan kepada Kami, Ibn Jurai>j memberitakan kepadaku, Ziya>d bin Sa`d sesungguhnya Sa>lihan Mawla al-Tawamat memberitakannya bahwa sesungguhnya aku mendengar Aba> Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah Saw. (w.11 H) bersabda: "Tidaklah suatu kaum bangkit dari

⁹⁰⁸ al-Baihaqi>. Sya`b al-Iman li al-Baihaqi>, , juz II, h. 11. nomor hadis 567.

⁹⁰⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis 10019

tempat duduknya, dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut, melainkan mereka seperti bangun dari tempat yang semisal dengan bangkai himar, dan kelak akan menjadi penyesalan baginya (di akhirat)." HR. Ahmad bin Hanbal.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

6796 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ سَمِعْتُ أَبَا الْوَازِعِ جَابِرَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا رَأَوْهُ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁹¹⁰ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Abu> Sa`id Mawla> Bani> Ha>syim menceritakan kepada kami, Syadda>d Abu> Talhah al-Ra>sibi> menceritakan kepada kami, aku mendengar Aba> al-Wa>zi` Ja>bir bin Amr menceritakan dari Abd Allah bin Amr berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah Saw. (w.11 H) bersabda: "Tidaklah suatu kaum bangkit dari tempat duduknya, dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut, melainkan mereka seperti bangun dari tempat yang semisal dengan bangkai himar, dan kelak akan menjadi penyesalan baginya (di akhirat)". HR. Ahmad bin Hanbal.

3. Riwayat al-Baihaqi>.

561 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي خلف الإسفراييني بها ، حدثنا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود ، حدثنا محمد بن أيوب الرازي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي ، حدثنا أبو الوازع جابر بن عمرو ، عن عبد الله بن مغفل ، عن النبي ﷺ قال : « ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله عز وجل ، إلا كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة ».⁹¹¹ رواه البيهقي

Artinya:

⁹¹⁰ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal* juz XIV, h. 334. nomor hadis 6796.

⁹¹¹ al-Baihaqi *Sya`b al-Ima>n li al-Baihaqi>*, juz II, h. 103. nomor hadis 561.

Abu> Ha>mid Ahmad bin Abi> Khalaf memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Yazda>d bin Mas`u>d menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Ayyu>b al-Ra>zi> menceriterakan kepada kami, Muslim bin Ibra>him menceriterakan kepada kami, Syadda>d Abu> Talhah al-Ra>sibi> menceriterakan kepada kami, Abu> al-Wa>zi` Ja>bir bin Amr menceriterakan kepada kami, dari Abd Allah bin Mugaffal berkata: Nabi saw., bersabda: Tidaklah suatu kaum duduk disuatu majlis, lalu tidak berzikir kepada Allah didalam majlis itu kecuali engkau lihat mereka merugi pada hari kiamat. HR. al-Baihaqi>.

IV. Hadis Tentang Kaum Yang Tidak Berzikir.

1. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ إِسْحَاقَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَشَىٰ طَرِيقًا فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاسِهِ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ.⁹¹² رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ibn Abi> Zanbi berkata, Sa`id ibn Abi> Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Isha>q, dari Abi> Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Tidaklah suatu kaum duduk pada suatu majlis, maka mereka tidak berzikir kepada AllahHR. Ahmad bin Hanbal.

V. Hadis Tentang Kaum Yang Tidak Berzikir.

1. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ الْمُرَائِيُّ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ سِيَّاهٍ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ

⁹¹² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis 9213.

السَّمَاءِ أَنْ قَوْمُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ.⁹¹³ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Mai>mun al-Mara>i> memberitakan kepada kami, Mai>mun bin Siya>h menceritakan kepada kami, dari Anad bin Malik dari Rasulullah saw., bersabda: *idaklah suatu kaum berkumpul mengingat Allah, tidak menginginkan kecuali Wajah-Nya, kecuali akan ada penyeru dari langit:”Bangkitlah dalam keadaan diampuni, keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan.....* HR. Ahmad bin Hanbal.

2.Hadis-Hadis Tentang Setiap Pekerjaan atau Urusan Dimulai Dengan Zikir.

1. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ قُرَّةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ أَبْتَرُ أَوْ قَالَ أَقْطَعُ.⁹¹⁴ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Yahya bin A<dam menceritakan kepada kami, Ibn Mubarak menceritakan kepada kami,dari al-Awza>’i, dari Qurrat bin Abd al-Rahma>n, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap ucapan atau urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan binasa atau terputus. HR. Ahmad bin Hanbal.

2. Riwayat Abd al-Razzaq.

عبدالراق عن معمر قال : حدثني رجل من الانصار رفع الحديث

⁹¹³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab baqi musnad al-muksirin,bab musnad Anas bin Malik* nomor hadis 12000.

⁹¹⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab al-Baqi Musnad al-Mukassirin, bab baqi al-musnad al-sabiq,* nomor hadis 8355

قال : كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرٌ.⁹¹⁵ رواه عبد الرزاق

Artinya:

Abdu al-Razzaq berkata; Ma'mar berkata; seorang laki-laki dari kaum Ansa>r menceritakan kepadaku yang dimarfukan hadis Setiap ucapan atau urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan binasa atau terputus. HR. Abd al-Razzaq

3.Riwayat Abd al-Razzaq.

- قال عبد الرزاق قال معمر : أخبرني رجل من الانصار رفع الحديث ، قال : كُلُّ حَدِيثٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرٌ.⁹¹⁶ رواه عبد الرزاق

Artinya:

Abdu al-Razzaq berkata; Ma'mar berkata; seorang laki-laki dari kaum Ansa>r menceritakan kepadaku yang dimarfukan hadis Setiap ucapan atau urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan binasa atau terputus. HR. Abd al-Razzaq.

4. Riwayat al-Da>raqutni>.

- حَدَّثَنِي أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ فُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ أَفْطَعُ ».⁹¹⁷ رواه الدارقطني

Artinya:

Abu> Ta>lib al-Ha>fiz Ahmad ibn Nasr menceritakan kepadaku, Hila>l ibn al-Ala'menceriterakan kepada kami, Amr ibn Usma>n menceritakan kepada kami, Mu>sa ibn A'yan menceritakan kepada kami, dari al-Awza>'i>, dari Qurrat bin Abd al-Rahma>n, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi>

⁹¹⁵Abd al-Razzaq, *Musannaf Abd al-Razzaq*, juz VI, h. 189. nomor hadis 10455.

⁹¹⁶Abd al-Razzaq, *Musannaf Abd al-Razzaq*, juz XI, h. 163. nomor hadis 20208

⁹¹⁷Al-Da>raqutni>, *Sunan al-Da>raqutni>*, , juz II, h. 477. nomor hadis 896.

Hurai>rah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap ucapan atau urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan binasa atau terputus. HR. al-Da>raqutni>.

3.Hadis tentang Segala hal dimulai dengan *Zikir al-Hamdu*.

1. Riwayat Abu> Da>wud.

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ زَعَمَ الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمٌ.⁹¹⁸ رواه ابو داود

Artinya:

Abu> Tau>bat menceritakan kepada kami, berkata zaama al-Wali>d dari al-Au>za>'i>, dari Qurrat, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap kalam yang tidak didahului dengan berzikir bilhamdi terputus. HR. Abu> Da>wud.

2. Riwayat Ibn Ma>jah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ.⁹¹⁹ رواه ابن ماجه

Artinya:

Abu Bakar ibn Abi> Syaibah dan Muhammad ibn Yahya, Muhammad ibn Khalaf al-Asqala>ni> menceritakan kepada kami, Ubaidillah ibn M-sa menceritakan kepada kami, dari al-Awza>'i>, dari Qurrat, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurai>rah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan berzikir bilhamdi terputus. HR. Ibn Ma>jah

3. Riwayat Ibn Abi> Syaibah.

عبيدالله بن موسى عن الاوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي

⁹¹⁸ Abu> Da>wud. *Sunan Abi> Da>wud*, nomor hadis 4200.

⁹¹⁹ Ibn Ma>jah, *Sunan Ibn Ma>jah*, juz VI, h. 5. nomor hadis 1884.

سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال : (كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع⁹²⁰ . رواه ابن أبي شيبة

Artinya:

Ubaidillah ibn Mu>sa, dari al-Auza>'i>, dari Qurrat, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurai>rah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap kalam yang tidak didahului dengan berzikir *bilhamdulillah*, maka terputus. HR. Ibn Abi> Syaibah.

4. Riwayat al-Baihaqi>.

عن قره بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع⁹²¹. رواه البيهقي

Artinya:

Dari Qurrat bin Abd al-Rahma>n, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurai>rah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan berzikir *bilhamdulillah*, maka terputus. HR. al-Baiha>qi>.

5.Riwayat al-Nasa`>'i>

أخبرنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو و أخبرني قره بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع⁹²². رواه النسائي

Artinya:

Mahmu>d ibn Kha>lid memberitakan kepada kami, berkata; Abu Amr berkata; Qurrat memberitakan kepadaku dari ibn Syiha>b dari Abi> Salamah dari Abi> Hurai>rah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan berzikir dengan *bihamdillah*, mak terputus. HR. al-Nasa`a>'i>.

⁹²⁰ Ibn Abi> Syaibah, *Musannaf Ibn Abi> Syaibah*, juz VI, 263

⁹²¹ al-Baiha>qi>, *Sunan al-Kubra> li al-Baihaqi>*, juz III, h. 209.

⁹²² Al-Nasa`a>'i>, *Sunan al-Kubra> li al-Nasa`>'i>*, juzVI, h. 127.

6. Riwayat al-Tabra>ni>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ أَوْ أَجْزَمُ"⁹²³. رواه الطبراني

Artinya:

Ahmad ibn al-Mualla> al-Dimasyqi> menceriterakan kepada kami, Abdullah ibn Yazid>d al-Dimasyqi> menceriterakan kepada kami, Sadaqah ibn Abdulla menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn al-Wali>d al-Zurai>d, dari al-Zuhri>, dari Abdilllah ibn Ka`ab dari Bapaknya dari Nabi saw., bersabda: Setiap urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan zikir *bilhamdi* terputus. HR. al-Tabra>ni>.

7. Riwayat al-Baiha>qi>.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن حمشاذ ، حدثنا محمد بن المغيرة السكري ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن الأوزاعي ، عن قرة بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع »⁹²⁴. رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Abdullah al-Ha>fiz menceriterakan kepada kami, Ali> ibn Hamsya>z menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn al-Mugi>rah al-Sakari> menceriterakan kepada kami, Ubaidillah ibn Mu>sa menceriterakan kepada kami, dari al-Awza>'i>, dari Qurrat bin Abd al-Rahma>n, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurai>rah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan *bilhamdi* terputus. HR. al-Baihaqi>.

8. Riwayat al-Daraqutni>

فُرِيَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ

⁹²³ Al-Tabra>ni>, *al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra<ni>*, juz IV, h. 416, nomor hadis 10491.

⁹²⁴ al-Baihaqi>, *Sya`b al-Iman li al-Baihaqi>*, , juz IX, h. 402. nomor hadis 4202.

حَدَّثَكُمْ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ أَقْطَعُ »⁹²⁵ رواه الدارقطني

Artinya:

Abi> al-Qa>sim Abd Allah ibn Muhammad ibn Abd al-Azi>z membacakan kepadaku dan aku mendengar, Da>wud ibn Rusyai>d memceriterakan, al-Walid menceriterakan kepada kami, dari al-Awza>i, dari Qurrat bin Abd al-Rahman, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan bilhamdulillah terputus. HR. al-Da>raqutni>.

9. Riwayat Ibn Hibba>n.

أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين ، قال : حدثنا الأوزاعي ، عن قرّة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله ، فهو أقطع »⁹²⁶ رواه ابن حبان

Artinya:

Al-Husain ibn Abd Allah ibn Yazid al-Qatta>n memberitakan kepada kami, berkata: Ha>syim ibn Umma>r menceriterakan kepada kami, berkata: Abd al-Humai>d ibn Abi> al-Isyri>n menceriterakan kepada kami al-Awza>i menceriterakan kepada kami, dari Qurrat, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap urusan yang tidak dimulai dengan hamdu, terputus. HR. Ibn Hibba>n.

10. Riwayat Ibn Hibba>n.

أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان أبو علي بالرقّة ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن قرّة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه

⁹²⁵ Ali> ibn Umar ibn Ahmad ibn Mahdi> Abu> al-Hasan al-Daraqutni> *Sunan al-Daraqutni*>, juz II, h. 473. nomor hadis 895.

⁹²⁶ Ibn Hibba>n, *Sahih Ibn Hibba>n*>, juz I, h. 4. nomor hadis 1.

بِحَمْدِ اللَّهِ ، أَقْطَعُ⁹²⁷ . رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ

Artinya:

Al-Husai>n ibn Abd Allah ibn Yazid al-Qatta>n memberitakan kepada kami, berkata: Ha>syim ibn Umma>ra menceriterakan kepada kami, berkata: Syu`ai>b ibn Isha>q menceriterakan kepada kami dari al-Awza>'i>, dari Qurrat, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurai>rah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap urusan yang yang tidak dimulai dengan hamdu, terputus. HR. Ibn Hibba>n.

4. Hadis- Hadis Tentang Kalimat *La> ila>ha illalla>h* Memberikan *syafa`at* pada hari kiamat.

1. Riwayat al-Bukha>ri>.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ جِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ⁹²⁸ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

Abd al-Azi>z bin Abd Allah menceriterakan kepada kami, berkata: Sulaima>n menceriterakan kepadaku, dari Amr bin Abi Amr dari Said bin Abi Said al-Makbu>ri> dari Abi Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., bahwa dia berkata: ditanyakan (kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Aku telah menduga wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahuluiimu dalam menanyakan masalah ini, karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadits. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan *Laa ilaaha illallah* dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya". . HR. al-Bukha>ri>

⁹²⁷ Ibn Hibba>n, *Sahi>h Ibn Hibba>n*, juz I, h. 6. nomor hadis 2

⁹²⁸ Al-Bukha>ri>, *Sahih al-Bukha>ri>*, nomor hadis . 97.

2. Riwayat al-Bukha>ri>.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ.⁹²⁹ رواه البخاري

Artinya:

Qutai>bah ibn Said menceritakan kepada kami, Isma>'il ibn Ja'far menceritakan kepada kami, dari Amr dari Said bin Abi> Said al-Makbu>ri> dari Abi> Hurairah ra berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh syafa>'atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh syafa>'atmu pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la> ila>ha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR. al-Bukha>ri>

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أُنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِلَّا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصَةً مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ.⁹³⁰ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Sulaiman menceritakan kepada kami, Ismail memberitakan kepada kami, Amr memberitakan kepadaku dari Said dari Abi Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh syafa>'atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum

⁹²⁹ Al-Bukha>ri>, *Shahih al-Bukha>ri>*, nomor hadis 6085.

⁹³⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis

ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh *syafa*>'atku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan *la> ila>ha illallah* dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR. Ahmad bin Hanbal

4. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُغِيثٍ أَوْ مُعْتَبِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الشَّفَاعَةِ قَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ لَتَكُونَنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَنِي مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ جِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ شَفَاعَتِي لِمَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَلْبَهُ لِسَانَهُ وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ.⁹³¹
رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Usma>n ibn Umar menceritakan kepada kami, Abd al-Maji>d ibn Ja`far menceritakan kepada kami, dari Yazid>d ibn Abi> Habi>b, dari Mu`'a>wiyah ibn Mugi>s dari Abi> Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh *syafa*>'atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh *syafa*>'atku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan *la> ila>ha illallah* dengan ikhlas dan membenarkan di dalam hati serta lisannya. HR. Ahmad bin Hanbal.

5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

7725 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَالْخَزَاعِيُّ يَعْني أَبَا سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعْتَبِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلَ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِي لِمَا رَأَيْتُ مِنْ جِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا يَهْمُنِي مَنْ انْقَصَافِهِمْ عَلَى أَبْوَابِ

⁹³¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, , nomor hadis 10395

الْجَنَّةِ أَهْمٌ عِنْدِي مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِي وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ.⁹³² رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Ha>syim dan al-Khuza>i menceriterakan kepada kami, Lais menceriterakan kepada kami, dari Yazid ibn Abi> Habi>b menceriterakan kepadaku,dari Sa>lim bin Abi> Sa>lim dari Mu'a>wiyah ibn Mugi>b al-Huzali>, dari Abi> Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh syafa`atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh syafa>'atku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan *la ila>ha illallah* dengan ikhlas dan membenarkan di dalam hati serta lisannya. HR. Ahmad bin Hanbal.

6. Riwayat Ibn Mundah.

925 - أنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أبو الربيع ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، ثنا عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : قلت : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ ، فقال النبي ﷺ : « لقد ظننت يا أبا هريرة أن أحدا لا يسأل عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث ، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من نفسه . »⁹³³ رواه ابن منده

Artinya:

Ahmad ibn Ishaq menceriterakan kepada kami, Yusuf ibn Ya'qu>b menceriterakan kepada kami, Abu> al-Rabi' menceriterakan kepada kami, Ismail ibn Ja'far memberitakan kepada kami, Amr memberitakan kepada kami dari Said dari Abi Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh syafa>'atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia

⁹³² Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Handal*, , juz XVI, h. 266, nomor hadis 7725.

⁹³³ Ibn Mundah, *al-Ima>n li Ibn Mundah*, juz III, h. 23, nomor hadis 925.

yang berbahagia memperoleh *syafa>'atku* pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan *la> ila>ha illallah* dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR. Ibn Mundah.

7. Riwayat Ibn Sya>hin.

3 - حدثنا عمر قال : ثنا محمد بن هارون بن حميد بن المجدر ، قال : نا داود بن رشيد ، قال : أنا عبد الله بن جعفر ، قال : أنا عمر بن أبي عمرو ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عنها أحد أول منك ؛ لما رأيت من حرصك على الحديث ، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه ».⁹³⁴ رواه ابن شاهين

Artinya:

Umar menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Ha<run ibn Humaid memberitakan kepada kami, Da>wud ibn Rusyaid menceritakan kepada kami, berkata; Amr memberitakan kepadaku dari Said dari Abi Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh *syafa>'atmu* pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh *syafa>'atku* pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan *la> ila>ha illallah* dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR. Ibn Sya>hi>n

8. Riwayat Ibn Khuzai>mah.

407 - حدثنا علي بن حجر ، قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ، قال : أخبرنا عمرو ، وهو ابن أبي عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال النبي ﷺ : « لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك ، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال

⁹³⁴ Ibn Sya>hin. *Al-Targi>b fi> Fadha>il al-A`ma>l wa Sawa>b`alik li Ibn Sya>hin*, , juz I, h.5, nomor hadis 3.

لا إله إلا الله خالصا من نفسه».⁹³⁵ رواه ابن خزيمة

Artinya:

Ali ibn Hujrin menceritakan kepada kami, Ismail ibn Ja'far memberitakannya kepada kami, Amr memberitakannya kepada kami dari Said dari Abi Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh *syafa'atmu* pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh *syafa'atku* pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan *la ilaha illallah* dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR. Ibn Khusaimah

9. Riwayat Ibn Abi> A<sim.

682 - ثنا يعقوب بن حميد ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قلت : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال النبي ﷺ : « قد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك ؛ لما أرى من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله مخلصا من نفسه ».⁹³⁶
رواه ابن أبي عاصم

Artinya:

Ya'qu>b ibn Humaid menceritakan kepada kami, Abdul Aziz ibn Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr ibn Amr, dari Said ibn Abi Said dari Abi> Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh *syafa>'atmu* pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh *syafa'atku* pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan *la> ila>ha illallah* dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR. Ibn Abi> A<sim.

⁹³⁵ Ibn Khuzai>mah, *al-Tauhi>d Ibn Khuzai>mah*, juz I, h. 479, nomor hadis 407.

⁹³⁶ Ibn Abi> Asim, *al-Sunnah li Ibn Abi> Asim*, , juz II, h. 353. nomor hadis 682.

10. Riwayat Ajri>

782 - حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال : حدثنا يحيى بن أيوب قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر قال : أخبرني عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ، لما رأيت من حرصك ، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من نفسه ».⁹³⁷
رواه اجري

Artinya:

Abu> Syu'aib Abdullah ibn al-Hasan al-Hara>ni>menceriterakan kepada kami berkata; Yahya ibn Ayyu>b menceriterakan kepada kami, Ismail ibn Ja'far memberitakan kepada kami, Amr ibn Amr memberitakan kepadaku dari Said dari Abi Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh *syafa*>`atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh *syafa*'atku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la> il\|a>ha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR.Ajri>

11. Riwayat Ibn Abdi al-Bar.

884 - حدثنا سعيد بن نصر ، نا قاسم بن أصبغ ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إبراهيم بن حمزة ، والقعنبي قالوا : أنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أنه قال : يا رسول الله ، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك ؛ لما رأيت من حرصك على الحديث ، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله مخلصا ،

⁹³⁷ Ajri. *Syari`ah li Ajri*, juz II, h. 370, nomor hadis 782.

من قبل نفسه» .⁹³⁸ رواه ابن عبد البر

Artinya:

Sa'i>d ibn Nasr menceritakan kepada kami, Qa>sim ibn Asbag menceritakan kepada kami, Isma>'il ibn Isha>q memberitakan kepada kami, Ibra>him ibn Hamzah dan al-Qa'nabi> memberitakan kepada kami berkata; Abdul Aziz ibn Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr ibn Amr, dari Said ibn Abi Said dari Abi> Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh *syafa'atmu* pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh *syafa'atku* pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan *la> ila>ha illallah* dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR.Ibn Abdi al-Bar

12. Riwayat Isma>'i>l bin Ja`far.

354 - حدثنا عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : قلت : يا رسول الله : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال النبي ﷺ : « لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ؛ لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه» .⁹³⁹ رواه إسماعيل بن جعفر

Artinya:

Amr menceritakan kepada kami, dari Sa'i>d ibn Abi Sa'i>d, dari Abi> Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh *syafa'atmu* pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh *syafa'atku* pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan *la> ila>ha illallah* dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR.Isma>'il bin Ja`far.

⁹³⁸ Ibn Abdi al-Bar. *Ja>mi>' Baya>n al-Ilm wa Fadlihi li Ibn Abdi al-Bar*, juz II, 439, no hadis 884.

⁹³⁹ Isma>'il bin Ja`far. *Hadis Isma>'il bin Ja`far*, juz I, h. 365, nomor hadis 354.

13. Riwayat al-Ha>ris.

(1143) حدثنا أبو النضر حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن أبي سالم عن معاوية بن معتب عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سألت رسول الله ﷺ ماذا رد إليك ربك في الشفاعة فقال والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من تسألني عنها لما رأيت من حرصك على العلم والذي نفسي بيده لما يهمني من انقصافهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه⁹⁴⁰. رواه الحارث

Artinya:

Abu> al-Nadr menceriterakan kepada kami, al-Lais menceriterakan kepada kami, dari Yazid ibn Habi>b, dari Sa>lim ibn Abi Sa>lim, dari Mu'a>wiyah ibn Mu'tab dari Abi> Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh *syafa'>atmu* pada hari kiamat? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh *syafaatku* pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la> ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR.al-Ha>ris.

14. Riwayat al-Ha>kim.

215 - حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في رجب سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سالم بن أبي سالم ، عن معاوية بن معتب ، عن أبي هريرة أنه سمعه ، يقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رد إليك ربك في الشفاعة ؟ فقال : « والذي نفسي بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك لما رأيت من حرصك على العلم ، والذي نفسي بيده لما يهمني من انقصافهم على باب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي ، وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا

⁹⁴⁰ Al-Ha>ris. *Bugyat al-Ha>ris*, juz I, h. 340, nomr hadis 1143.

الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ، ولسانه قلبه » .⁹⁴¹ رواه الحاكم

Artinya:

Al-Ha>kim Abu> Abdulla>h Muhammad ibn Abdulla>h menceritakan kepada kami, Abu Bakar ibn Isha>q memberitakan kepada kami, Ahmad ibn Ibra>him ibn Milha>n memberitakan kepada kami dari Yahya ibn Bukair, al-Lais menceritakan kepada kami, dari Yazid ibn Habi>b, dari Sa>lim ibn Abi Sa>lim, dari Mu'a>wiyah ibn Mu'tab dari Abi> Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh *syafa'>*atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh *syafa'>*atku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan *la> ila>ha illallah* dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR. Al-Ha>kim.

15. Riwayat Ibn Hibba>n.

6574 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني ، عن معاوية بن معتب الهذلي ، عن أبي هريرة ، أنه سمعه يقول : سألت رسول الله ﷺ قلت : يا رسول الله ماذا رد إليك ربك في الشفاعة ؟ قال : « والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي ، لما رأيت من حرصك على العلم ، والذي نفس محمد بيده لما يهمني من انقصاصهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي لهم ، وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا ، وأن محمدا رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه » .⁹⁴² رواه ابن حبان

Artinya:

Sulaiman menceritakan kepada kami, Ismail memberitakan

⁹⁴¹ Al-Ha>kim. *Al-Mustadrak ala al- Sahihai>n*, juz I, h. 226, nomor hadis 215.

⁹⁴² Ibn Hibba>n. *Sahi>h Ibn Hibba>n*, juz XXVI, h. 464, nomor hadis 6574.

kepada kami, Amr memberitakan kepadaku dari Said dari Abu Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh *syafa`atmu* pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang berbahagia memperoleh *syafa`atku* pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR. Ibn Hibba>n

5.Hadis-Hadis Tentang Orang yang Berzikir Dikeluarkan dari Api Neraka.

Hadis pertama:

1. Riwayat al-Bukha>ri>.

42 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَرَنٌ شَعِيرَةٌ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَرَنٌ بُرَّةٌ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَرَنٌ دَرَّةٌ مِنْ خَيْرٍ⁹⁴³. رواه البخاري

Artinya:

Muslim ibn Ibra>him menceriterakan kepada kami, berkata; Hisya>m menceriterakan kepada kami, berkata; Qata>dah menceriterakan kepada kami, dari Anas dari Nabi saw, bersabda: “Akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar jemawut. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Abu Abdullah berkata; Aban berkata; Telah menceritakan kepada kami Qotadah Telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda. Dan kata iman di dalam hadits ini diganti dengan kata kebaikan.”..... HR. al-Bukha>ri>.

⁹⁴³ al-Bukha>ri>. *çahih al-Bukha>ri*, juz I, h. 77. nomor hadis 42.

2. Riwayat Muslim.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهَشَامُ صَاحِبُ الدِّسْتَوَائِيِّ عَنِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَبْرُنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَبْرُنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَبْرُنُ ذَرَّةً.⁹⁴⁴ رواه مسلم

Artinya:

Muhammad ibn Minhal al-Dari menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai` menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Urubat dan Hisyam Sa'hib al-Dastuwa'i menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Anas ibn Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda, dan Abu Gassan al-Misma'i dan Muhammad ibn al-Musanna menceritakan kepada kami, Mu'az menceritakan kepada kami, Bapakku menceritakan kepadaku, dari Qatadah, Anas ibn Malik menceritakan kepada kami, sesungguhnya Nabi saw., bersabda : Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan keluar dari neraka, orang-orang yang mengucapkan, 'Laa Ilaaha Illaahu (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah) ', dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat gandum. Kemudian keluar dari neraka orang yang mengucapkan, 'Laa Ilaaha Illaahu (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah) ', dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat jiwawut. Kemudian akan keluar dari neraka, orang yang mengucapkan, 'Laa Ilaaha Illaahu (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah) ', dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji jagung."..... HR. Muslim

3. Riwayat al-Turmuzi>.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَبْرُنُ ذَرَّةً.

⁹⁴⁴ Muslim. *Sahih Muslim*, , nomor hadis 285.

الْخَيْرِ مَا يَزُنُ شَعِيرَةً أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزُنُ بُرَّةً أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزُنُ ذَرَّةً.⁹⁴⁵ رواه الترميذي

Artinya:

Mahmu>d ibn Gaila>n menceriterakan kepada kami, Abu>Da>wud menceriterakan kepada kami, Syu'bah dan Hisya>m menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Anas Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan la>ila>ha illalla>h walapun didalam hatinya..... HR.al-Turmuzi>

4. Riwayat Ibn Abi> Syaibah.

(34) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله ﷺ قال : " يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخيز ما يزن شعيرة ، ثم قال الثانية : يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة " .⁹⁴⁶ رواه ابن أبي شيبة

Artinya:

Muhammad ibn Basysya>r menceriterakan kepada kami,berkata; Sa'i>d` menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Anas sesungguhnya Nabi saw., bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan la>ila>ha illalla>h walapun didalam hatinya..... HR.Ibn Abi Syaibah.

5. Riwayat Abi> Awa>nah.

339 - حدثنا محمد بن يحيى قال : ثنا عبد الصمد قال : ثنا هشام ح ، وحدثنا الصاغاني ، وعباس بن محمد قالوا : ثنا سعيد بن عامر قال : ثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النبي ﷺ قال : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من الخير ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من الخير ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة

⁹⁴⁵ al-Turmuzi>. *Sunan al-Turmuzi>*, , nomor hadis 2518.

⁹⁴⁶ Ibn Abi> Syaibah. *Musannaf Ibn Abi> Syaibah*, juz V, h. 221. nomor hadis 34.

« قال هشام : قال : ذرة ، وقال شعبة : قال : برة.⁹⁴⁷ رواه ابي عوانة
Artinya:

Muhammad ibn Yahya menceritakan kepada kami, berkata:
Abdu al-Samad menmceriterakan kepada kami, berkata;
Hisya>m` menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari
Anas sesungguhnya Nabi saw., bersabda : Dikeluarkan dari
neraka siapa yang mengucapkan la> ila>ha illalla>h walapun
didalam hatinya..... HR.Abi> Awa>nah.

6. Riwayat Abi> Ya`la.

2821 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد ،
عن قتادة ، عن أنس : أن النبي ﷺ قال : « يخرج من النار من قال :
لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم قال : «
يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما
يزن برة ، ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه
من الخير ما يزن ذرة ».⁹⁴⁸ رواه ابي يعلي

Artinya:

Abu> Bakar ibn Abi> Syaibah menceritakan kepada kami,
Muhammad ibn Basysya>r menceritakan kepada kami, dari
Sa`i>d dari Qata>dah dari Anas, sesungguhnya Nabi saw.,
bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan
la> ila>ha illalla>h walapun didalam hatinya..... HR. Abi>
Ya`la.

7. Riwayat Abi> Ya`la.

2859 - حدثنا عبيد الله ، حدثنا معاذ بن هشام ، وأبو عامر العقدي
جميعا قالوا : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان
في قلبه من الخير ما يزن برة ، ثم يخرج من النار من قال : لا إله
إلا الله ، وكان في قلبه ما يزن ذرة ».⁹⁴⁹ رواه ابي يعلي

Artinya:

⁹⁴⁷ Abi> Awa>nah. *Mustakhraj Abi> Awa>nah*, juz I, h. 380.
nomor hadis 339.

⁹⁴⁸ Abi> Ya`la. *Musnad Abi> Ya`la* juz VI, h. 434. nomor hadis
2821.

⁹⁴⁹ Abi> Ya`la. *Musnad Abi> Ya`la*, juz VI, h. 472. nomor hadis
2859

Ubai>dillah menceritakan kepada kami, Mu'a>z ibn Hisya>m dan Abu> A<mr menceritakan kepada kami, berkata: Hisya>m menceritakan kepada kami, dari Qata>dah dari Anas ibn Ma>lik sesungguhnya Nabi saw., bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan la> ila>ha illalla>h walaupun didalam hatinya..... HR. Abi> Ya`la.

8. Riwayat Abi> Ya`la.

2886 - حدثنا محمد بن المنهال الضرير ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، وهشام ، عن قتادة ، عن أنس ، قال رسول الله ﷺ : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ، ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ، ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة » .⁹⁵⁰ رواه ابي يعلي

Artinya:

Muhammad ibn Minha>l al-Dari>r menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai` menceritakan kepada kami, Sa`i>d bin Abi> Uru>bat dan Hisya>m Sa>hib al-Dastuwa>i menceritakan kepada kami, dari Qata>dah dari Anas ibn Ma>lik Rasulullah saw., bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan la> ila>ha illalla>h walaupun didalam hatinya..... HR.Abi> Ya`la.

9. Riwayat Abi> Ya`la.

2906 - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أنس ، أن نبي الله ﷺ قال : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ، ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ، ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة » .⁹⁵¹ رواه ابي يعلي

Artinya:

Abu> Khusaimah menceritakan kepada kami, Mu`a>z menceritakan kepada kami, Bapakku menceritakan

⁹⁵⁰ Abi> Ya`la. *Musnad Abi> Ya`la*, juz VI, h. 499. nomor hadis 2886

⁹⁵¹ Abi> Ya`la. *Musnad Abi> Ya`la*, juz VI, h. 19. nomor hadis 2906

kepadaku, dari Qata>dah, dari Anas ibn Ma>lik sesungguhnya Nabi saw., bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan *la> ila>ha illalla>h* walaupun didalam hatinya..... HR. Abi> Ya`la.

10. Riwayat Abi> Ya`la.

2917 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن ، حدثنا عمر بن سعيد الأبح ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول الله ﷺ قال : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وفي قلبه من الخير ما يزن حنطة ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة » .⁹⁵² رواه ابي يعلي

Artinya:

Mu>sa ibn Abd al-Rahma>n menceritakan kepada kami, Umar ibn Sa`i>d menceritakan kepada kami, dari Sa`i>d, dari Qata>dah, dari Anas ibn Ma>lik, sesungguhnya Nabi saw., bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan *la> ila>ha illalla>h* walaupun didalam hatinya..... HR. Abi> Ya`la.

11. Riwayat Abi> Ya`la.

3185 - حدثنا أحمد ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال أبو داود : وحدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال هشام - « يخرج من النار - قال شعبة : أخرجوا من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة - وقال شعبة : ذرة - ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » .⁹⁵³ رواه ابي يعلي

Artinya:

Ahmad menceritakan kepada kami, Abu> Da>wud ` menceritakan kepada kami, Syu`bah menceritakan kepada

⁹⁵² Abi> Ya`la. *Musnad Abi> Ya`la*, juz VI, h. 30. nomor hadis 2917

⁹⁵³ Abi> Ya`la. *Musnad Abi> Ya`la*, juz VI, h. 298. nomor hadis 3185

kami, dari Qata>dah dari Anas ibn Ma>lik berkata; Rasulullah saw., bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan *la> ila>ha illalla>h* walaupun didalam hatinya.....
HR. Abi> Ya`la.

12. Riwayat Ibn Hibba>n.

7608 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، وأبو يعلى ، قالوا : حدثنا محمد بن المنهال الضريير ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، وهشام ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن ذرة .⁹⁵⁴ رواه ابن حبان

Artinya:

Al-Hasan ibn Sufya>n dan Abu> Ya'la menceritakan kepada kami, berkata: Muhammad ibn Minha>l menceritakan kepada kami berkata: Yazid bin Zurai` menceritakan kepada kami, Sa`'i>d bin Abi> Uru>bat dan Hisya>m menceritakan kepada kami, dari Qata>dah dari Anas ibn Ma>lik Rasulullah saw., bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan *la> ila>ha illalla>h* walaupun didalam hatinya sebesar zarah.
HR. Ibn Hibba>n.

13. Riwayat al-Taya>lisi>.

2066 - حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، وهشام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النبي ﷺ قال : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن .⁹⁵⁵ رواه الطيالسي

Artinya:

Abu> Da>wud menceritakan kepada kami, Syu'bah dan Hisya>m menceritakan kepada kami, dari Qata>dah dari Anas ibn Ma>lik sesungguhnya Nabi saw., bersabda : Dikeluarkan

⁹⁵⁴ Ibn Hibba>n. *Sa>hih Ibn Hibba>n*, juz XXX, h. 492. nomor hadis 7608.

⁹⁵⁵ *al-Taya>lisi>*. *Musnad al-Taya>l>isi>*, juz V, h, 484. nomor hadis 2066.

dari neraka siapa yang mengucapkan *la ila>ha illalla>h* walaupun didalam hatinya..... HR. al-Taya>lisi>.

Hadis kedua:

1.Riwayat al-Turmuzi>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ.⁹⁵⁶
رواه الترميذي

Artinya:

Muhammad bin Ra>fi` menceriterakan kepada kami, Abu> Da>wud menceriterakan kepada kami, dari Muba>rak bin Fadha>lah dari Ubai>dillah bin Abi> Bakr bin Anas, dari Anas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau berkata: "Allah berfirman: 'Keluarkanlah dari neraka orang yang mengingat-Ku pada suatu hari atau takut kepada-Ku pada suatu tempat"..... HR. al-Turmuzi>.

1. Riwayat al-Ha>kim

أخبرناه أبو محمد يحيى بن منصور ، ثنا أبو بكر الجارودي ، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا أبو داود ، ثنا مبارك بن فضالة ، عن عبید الله بن أبي بكر ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللَّهُ : أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ.⁹⁵⁷
رواه الحاكم

Artinya:

Abu> Muhammad Yahya ibn Mansu>r memberitakan kepada kami, Abu> Bakar menceriterakan kepada kami, Isha>q ibn Mansu>r menceriterakan kepada kami, Abu> Da>wud

⁹⁵⁶ Al-Turmuzi>, *Sunan al-Turmuzi>*, juz IV, h. 712. nomor hadis 2519.

⁹⁵⁷ al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-Sahi>hai>n*, juz I,h. 228. nomor hadis 217.

menceriterakan kepada kami Muba>rak bin Fadha>lah menceriterakan kepada kami dari Ubai>dillah bin Abi> Bakr , dari Anas ibn Ma>lik berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau berkata: "Allah berfirman: 'Keluarkanlah dari neraka orang yang mengingat-Ku pada suatu hari atau takut kepada-Ku pada suatu tempat". HR al-Ha>kim

2. Riwayat al-Baiha>qi> ,

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا يحيى بن منصور ، حدثنا أبو بكر الجارودي ، حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا أبو داود ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن أبي بكر ، عن أنس بن مالك قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعْنِي يَقُولُ اللهُ عزوجل أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي ، أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ ۙ رواه البيهقي

Artinya:

Yahya ibn Mansu>r memberitakan kepada kami, Abu> Bakar menceriterakan kepada kami, Isha>q ibn Mansu>r menceriterakan kepada kami, Ab\u> Da>wud menceriterakan kepada kami Muba>rak bin Fadha>lah menceriterakan kepada kami dari Ubai>dillah bin Abi> Bakr , dari Anas ibn Ma>lik berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau berkata: "Allah berfirman: 'Keluarkanlah dari neraka orang yang mengingat-Ku pada suatu hari atau takut kepada-Ku pada suatu tempat"HR. al-Baihaqi>.

6. Hadis Tentang Zikir *La> ila>ha illalla>h* ketika ditimpa kesusahan.

1. Riwayat al-Bukha>ri> .

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . رواه البخاري 959

Artinya:

Muslim bin Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hisya>m

⁹⁵⁸ al-Baiha>qi> , Sya`b al-Ima>n , juz II, h. 303. nomor hadis 759.

⁹⁵⁹ Al-Bukha>ri> , Sahih al-Bukha>ri> , nomor hadis 5869

menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. Berkata: Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda: Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. al-Bukha>ri.

2. Riwayat al-Bukhari>.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.⁹⁶⁰ رواه البخاري

Artinya:

Musaddad menceriterakan kepada kami, Yahya menceriterakan kepada kami, dari Hisya>m bin Abi> Abd Allah, dari Qata>dah, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s Sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,dengan bersabda: Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain Allah,Tuhan Arasy yang Maha Besar, Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang Maha mulia. HR. al-Bukha>ri.

3. Riwayat al-Bukhari>.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.⁹⁶¹ رواه البخاري

Artinya:

Mualla bin Asad menceriterakan kepada kami,Wuhaib menceriterakan kepada kami, dari Sa`'i>d, dari Qata>dah, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. Berkata: Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda: Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Halim.Tidak ada

⁹⁶⁰ Al-Bukha>ri>, *Sahih al-Bukha>ri>*, , nomor hadis 5870

⁹⁶¹ Al-Bukha>ri>, *Sahih al-Bukha>ri>*, nomor hadis 5876

Tuhan selain Allah, Tuhan Arasy yang Maha Agung, Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. al-Bukha>ri.

4. Riwayat al-Bukha>ri>.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
رواه البخاري⁹⁶²

Artinya:

Abd al-A`la bin Hamma>d menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai` menceritakan kepada kami, Sa`'i>d menceritakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. sesungguhnya Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan: Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan Arasy yang Maha Agung, Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. al-Bukha>ri>.

5. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ .
رواه مسلم⁹⁶³

Artinya:

Muhammad bin al-Musanna, Ibn Basysya>r, dan Ubai>dullah bin Sa`'i>d menceritakan kepada kami, Mu`'a>z bin Hisya>m menceritakan kepada kami, Bapaku menceritakan kepadaku, dari Qata>dah, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. sesungguhnya Nabi saw.,bersabda: Beliau berzikir ketika ia dalam kesusahan: Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha

⁹⁶² Al-Bukha>ri>, *ṣaḥih al-Bukha>ri>*, nomor hadis 5879

⁹⁶³ Muslim. *Saḥih Muslim*, , nomor hadis 4909

Besar lagi Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan Arasy yang Maha Agung, Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. Muslim.

6. Riwayat al-Turmuzi>.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ⁹⁶⁴. رواه الترميذي

Artinya:

Muhammad bin Basysya>r menceritakan kepada kami, Mu`a>z bin Hisya>m menceritakan kepada kami, Bapaku menceritakan kepadaku, dari Qata>dah, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s, sesungguhnya Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan:Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Halim lagi Maha Bijaksana.Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan Arasy yang Maha Agung, Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. al-Turmuzi>.

7. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْفُرْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ بِي كَرْبٌ أَنْ أَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ⁹⁶⁵. رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Ru>h menceritakan kepada kami, Hisya>m menceritakan kepada kami, Qata>dah menceritakan kepada kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. Berkata: Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada Tuhan selain

⁹⁶⁴ al-Turmuzi>. *Sunan al-Turmuzi>*, nomor hadis 3357

⁹⁶⁵ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis 663

Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal.

8. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَعْلَمُكُمْ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ عَلَى أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.⁹⁶⁶ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muslim bin Ibra>him menceritakan kepada kami, Hisya>m menceritakan kepada kami, Qata>dah menceritakan kepada kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. Berkata: Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan, bersabda:Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal .

○

9.Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.⁹⁶⁷ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muslim bin Ibra>him menceritakan kepada kami, Hisya>m menceritakan kepada kami, Qata>dah menceritakan kepada kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. Berkata: Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal.

10. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

⁹⁶⁶ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis 1292

⁹⁶⁷ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis 1908

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرَّيَاحِيِّ عَنِ ابْنِ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.⁹⁶⁸ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muslim bin Ibra>him menceritakan kepada kami, Hisya>m menceritakan kepada kami, Qata>dah menceritakan kepada kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. Berkata: Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda: Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal.

11. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.⁹⁶⁹ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muslim bin Ibra>him menceritakan kepada kami, Hisya>m menceritakan kepada kami, Qata>dah menceritakan kepada kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. Berkata: Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda: Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal.

12. Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا بِهِزُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرَّيَاحِيِّ عَنِ ابْنِ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ

⁹⁶⁸ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis 2182

⁹⁶⁹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis 2227

الْحَلِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.⁹⁷⁰ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muslim bin Ibra>him menceritakan kepada kami, Hisya>m menceritakan kepada kami, Qata>dah menceritakan kepada kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. Berkata: Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda: Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal

13. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهَشَامُ بْنُ أَبِي عَيْدٍ اللَّهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي
الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ
الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيمِ.⁹⁷¹ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muslim bin Ibra>him menceritakan kepada kami, Hisya>m menceritakan kepada kami, Qata>dah menceritakan kepada kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. Berkata: Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda: Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal.

14. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَبِزِيدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ الرَّيَّاحِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ قَالَ بِيَزِيدِ رَبُّ السَّمَوَاتِ

⁹⁷⁰ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis 2406

⁹⁷¹ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis

السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.⁹⁷² رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muslim bin Ibra>him menceritakan kepada kami, Hisya>m menceritakan kepada kami, Qata>dah menceritakan kepada kami, dari Abu al-²liyah, dari Ibn Abba>s ra. Berkata: Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal .

15. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.⁹⁷³ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Muslim bin Ibra>him menceritakan kepada kami, Hisya>m menceritakan kepada kami, Qata>dah menceritakan kepada kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s ra. Berkata: Nabi saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal .

7.Hadis Tentang Zikir Mendapatkan 40 Ribu Kebaikan.

1. Riwayat al-Turmuzi>

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْخَلِيلِ بْنِ مَرْةٍ عَنْ أَرْهَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَسَهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهًا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ

⁹⁷² Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis 2980

⁹⁷³ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, nomor hadis 3183

كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ .⁹⁷⁴ رواه الترميذي

Artinya:

Qutai>bah bin Sa`i>d menceritakan kepada kami, al-Lais menceritakan kepada kami, dari al-Khali>l bin Murrah, dari Azhar bin Abd Allah, dari Tami>m al-Da>ri` dari Rasulullah saw., bersabda: "Barang siapa yang mengucapkan; *asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu ilaahan waahidan shamadan lam yattakhidz shaahibatan wa lam yakun lahu kufuwan ahad* (aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagiNya, Tuhan yang Esa, Tempat bergantung, tidak beristeri serta tidak beranak, dan tidak ada yang serupa denganNya) sebanyak sepuluh kali maka Allah mencatat baginya empat puluh juta kebaikan." HR. al-Turmuzi>

8.Hadis Tentang Orang Berbuat Baik Baginya Sepuluh Kebaikan.

1. Riwayat Muslim.

4852 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي بِمِشْيِ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَفِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ حَطِيبَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً.⁹⁷⁵ رواه مسلم

Artinya:

Abu> Bakar bin Abi> Syaibah menceritakan kepada kami, Waki` menceritakan kepada kami, al-A`masy menceritakan kepada kami, dari al-Ma`ru>r bin Suwai>d, dari Abi> Zar dari Nabi saw., bersabda: Allah azza wajalla berfirman:..... dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta, dan barangsiapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendatangnya sedepah, dan barangsiapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku mendatangnya dengan berlari-lari..... HR. Muslim.

⁹⁷⁴ al-Turmuzi>. *Sunan al-Turmuzi>*, hadis nomor 3395

⁹⁷⁵ Muslim. *Sahih Muslim*, juz XIII, h.192, nomor hadis 4852.

2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

20398 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاؤُهَا مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ حَطِيبَةً ثُمَّ لَقِينِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.⁹⁷⁶ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Abu > Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, al-A`masy menceritakan kepada kami, dari al-Ma`ru>r bin Suwai>d, dari Abi> Zar berkata; Rasulullah saw., bersabda: Allah azza wajalla berfirman: Barangsiapa yang beramal kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan atau ditambahkan, dan barangsiapa yang beramal keburukan, maka balasannya dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta, dan barangsiapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendatangnya sedepah, dan barangsiapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku mendatangnya dengan berlari-lari. HR. Ahmad bin Hanbal.

3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.

20513 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاؤُهَا مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ حَطِيبَةً ثُمَّ لَقِينِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.⁹⁷⁷ رواه احمد بن حنبل

Artinya:

Abu > Mu`a>wiyah menceritakan kepada kami, al-A`masy

⁹⁷⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 42, h. 364, nomor hadis 20398.

⁹⁷⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 42, h.479, nomor hadis 20513.

menceriterakan kepada kami, dari al-Ma`ru`r bin Suwai>d, dari Abi> Zar berkata; Rasulullah saw., bersabda: Allah azza wajalla berfirman: Barangsiapa yang beramal kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan atau ditambahkan, dan barangsiapa yang beramal keburukan, maka balasannya dan barang siapa yang mendekati kepadaku sejengkal, maka aku mendekati kepadanya sehasta, dan barangsiapa yang mendekati kepadaku sehasta, maka aku mendatangnya sedepah, dan barangsiapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku mendatangnya dengan berlari-lari. HR. Ahmad bin Hanbal.

4. Riwayat al-Tabra>ni>.

1781 - وعن داود الطائي ، عن الأعمش ، عن المعمر بن سويد ، عن أبي ذر ، عن النبي ﷺ قال : « قال الله عز وجل : السيئة واحدة أو أغفر ، والحسنة عشر أو أزيد . ومن جاءني بقراب الأرض خطيئة ليس يشرك بي شيئا ، جعلتها له مغفرة ، ومن دنا مني شبرا دنوت منه ذراعا ، ومن دنا مني ذراعا دنوت منه باعا ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ».⁹⁷⁸ رواه الطبراني

Artinya:

Dari Da>wud al-Tai>, dari al-A`masy, dari al-Ma`ru`r bin Suwai>d, dari Abi> Zar dari Nabi saw., bersabda: Allah azza wajalla berfirman: ... dan barang siapa yang mendekati kepadaku sejengkal, maka aku mendekati kepadanya sehasta, dan barangsiapa yang mendekati kepadaku sehasta, maka aku mendatangnya sedepah, dan barangsiapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku mendatangnya dengan berlari-lari. HR. Al-Tabra>ni>.

5. Riwayat al-Baihaqi>.

1057 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن المعمر بن سويد ، عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يعني يقول الله عز وجل : من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثالها أو أزيد ، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر له ، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ، ومن تقرب إلي ذراعا

⁹⁷⁸ Al-Tabra>ni>, *al-Mu`jam al-Au>sat li al-Tabra>ni>*, juz IV, h. 241, nomor hadis 1781.

تقربت منه باعا ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ، ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشارك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة » .⁹⁷⁹ رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> al-Abba>s Muhammad bin Ya`qu>b memberitakan kepada kami, al-Hasan bin Ali> bin Affa>n menceriterakan keada kami, Ibn Numai>r menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, dari al-Ma`ru>r bin Suwai>d, dari Abi> Zar dari Nabi saw., bersabda: *Allah azza wajalla berfirman:....* HR. Al-Baihaqi>.

6. Riwayat al-Baihaqi>.

6787 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد بن علي العلوي ، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن المعرور بن سويد ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ : « يقول الله تبارك وتعالى : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها ، أو أعفو ، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا » ، عن وكيع وزاد في الحديث : « ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ، من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشارك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة » .⁹⁸⁰ رواه البيهقي

Artinya:

Abu> al-Qa>sim Zaid bin Ja`far bin Muhammad bin Ali> al-Alawi> memberitakan kepada kami, Abu Ja`far Muhammad bin Ali> bin Dahim menceriterakan kepada kami, Ibra>him bin Abd Alla>h al-Abbasi>, Waki` menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, dari al-Ma`r-r bin Suwai>d, dari Abi> Zar dari Nabi saw., bersabda: *Allah taba>raka wa ta`a>la berfirman:....* HR. Al-Baihaqi>

⁹⁷⁹ Al-Baihaqi>. *Sya`bu al-Ima>n li al-Baihaqi>*, juz III, h. 103, nomor hadis 1057.

⁹⁸⁰ Al-Baihaqi>. *Sya`bu al-Iman li al-Baihaqi>*, juz XV, h. 84, nomor hadis 6787.

9. Hadis-Hadis Tentang Perumpamaan Orang yang berzikir dengan yang Tidak.

1. Riwayat al-Bukhari>.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.⁹⁸¹ رواه البخاري

Artinya:

Muhammad bin al-`Ala> menceritakan kepada kami, Abu> Usa>ma menceritakan kepada kami, dari Burai>d bin Ubaidillah, dari Abi> Burdah dari Abi> Mu>sa ra berkata: Nabi saw., bersabda: Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti hidup dan mati. HR. al-Bukha>ri>.

2. Riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَسْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.⁹⁸² رواه مسلم

Artinya:

Abdullah bin Barra>d al-Asy`ari> dan Muhammad bin al-`Ali> menceritakan kepada kami, Abu> Usama menceritakan kepada kami, dari Burai>d bin Ubaidillah, dari Abi> Burdah dari Abi> Mu>sa ra berkata: Nabi saw., bersabda: Perumpamaan rumah yang berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak berzikir kepada Allah seperti hidup dan mati. HR. Muslim.

3. Riwayat al-Baihaqi>.

⁹⁸¹ Abu> Abdillah Muhammad bi Isma>il bin Ibra>him bin al-Mugi>rah bin Bardizbah al-Bukha>ri> , juz V (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), h. 235. nomor hadis 5928.

⁹⁸² Muslim, *Sahih Muslim*, juz I (Beirut: Da>r Ihya wa al-Turas al-Arabi>, t.rh), h. 539. No.hadis 1299

الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، حدثنا أبو أسامة ، حدثني بريد بن عبد الله ، عن جده أبي بردة ، عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ »⁹⁸³. رواه البيهقي

Artinya:

Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> al-Abba>s Muhammad ibn Ya`k-b menceriterakan kepada kami, Ahmad bin Abd al-Humaid al-Ha>ris menceriterakan kepada kami, Abu> Usama menceriterakan kepada kami, Burai>d bin Abdillah menceriterakan kepadaku , dari neneknya Abi> Burdah dari Abi> M-sa ra berkata: Nabi saw., bersabda: Perumpamaan rumah yang berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak berzikir kepada Allah seperti hidup dan mati. HR. al-Baihaqi>

4. Riwayat Abi Awanah,

حدثنا أحمد بن عبد الحميد الكوفي ، قتنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ⁹⁸⁴. رواه أبي عوانة

Artinya:

Ahmad bin Abd al-Humai>d al-Ku>fi> menceriterakan kepada kami, Abu Usa>mah menceriterakan kepada kami, dari Burai>d bin Ubaidillah, dari Abi> Burdah dari Abi> Mu>sa ra berkata: Nabi saw., bersabda: Perumpamaan rumah yang berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak berzikir kepada Allah seperti hidup dan mati. HR. Abu> Awa>nah.

5. Riwayat Abi> Ya`la>.

و عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللهُ فِيهِ, وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ, الَّذِي يُذَكَّرُ اللهُ فِيهِ, وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

⁹⁸³ al-Baihaqi>, Sya`bu al-Ima>n li al-Baihaqi>, juz II, h. 106. nomor hadis 564.

⁹⁸⁴ Abi> Awa>nah, Mustakhraj Abi> Awa>nah, juz VIII, h. 187. nomor hadis 3171

رواه أبي يعلى⁹⁸⁵

Artinya:

Dari Abi> Mu>sa ra berkata: Nabi saw., bersabda: Perumpamaan rumah yang berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak berzikir kepada Allah seperti hidup dan mati. HR. Abi> Ya`la>.

6. Riwayat Ibn Hibba>n.

أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.⁹⁸⁶ رواه ابن حبان

Artinya:

Abu> Ya`la memberitakan kepada kami berkata: Abu> Kurai>b menceritakan kepada kami berakata: Abu> Usa>mah menceritakan kepada kami,dari Abi> Burdah dari Abi> Mu>sa ra berkata: Nabi saw., bersabda: Perumpamaan rumah yang berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak berzikir kepada Allah seperti hidup dan mati.... HR. Ibn Hibban.

⁹⁸⁵ Abi> Ya`la>. Musnad Abi> Ya`'la>, juz XV, h. 114.nomor hadis 7145

⁹⁸⁶ Ibn Hibba>n, *Sahi>h ibn Hubba>n*, juz IV, h. 200.nomor hadis 855.